

# Duolat ,sehat , khushi 42 dinon ka amli koras by Asif Bashir

**42 DAYS TO WEALTH, HEALTH AND HAPPINESS**

How to take control and transform your life for ever

International Best Seller

# دولت، سہات، خوشی

42 دنوں کا عملی کورس

رائبن سیجر





# دولت، صحت، خوشی

42 دنوں کا عملی کورس

رائین سیجر  
ترجمہ: حنا امیار

® SCANNED PDF By HAMEEDI  
نالوں کیلئے ون اردو کے شکر گزار بین

3

دولت، صحت، خوشی 42 دنوں کا عملی کورس

42 DAYS TO WEALTH, HEALTH AND HAPPINESS  
How to take control and transform your life for ever  
By ROBIN SIEGER

## فہرست

7 .....	دینا چاہئے
9 .....	چیزیں
11 .....	دنیا میں نے حکومت کی ہے
13 .....	کیا آپ 42 دن کے پیش کے لئے تیار ہیں؟
15 .....	کب کا عملی جائزہ

By HAMEEDI  
نالوں کیلئے ون

دولت، صحت، خوشی  
42 دنوں کا عملی کورس

مصنف: رائین سیجر  
ترجمہ: حنا امیار

## حصاول

21	..... حصل کامیابی کے لئے سات اصول
26	..... روزانہ اڑی کھنچ کا مسئلہ

**حصہ دوم: 42 روز کے دن وار ہجڑہ پر گرامز**

30	..... وقت پہلا بخت
35	..... توقعات پہلا بخت
38	..... سوچ دشت سرمی پہلا بخت
42	..... خواہی قدر کیجیے پہلا بخت
45	..... ثبت خیالات پانچال دن پہلا بخت

## ® SCANNED PDF E اردو کے شکر گزار 3

اہتمام	رانا عبدالرحمن
پروڈکشن	امیں سرور
سرورت	ریاظ
کپوزنگ	محمد انور
پرنٹر	آب و تاب پرنٹر، لاہور
اشاعت	2009ء
ناشر	بک ہوم لاہور



5 دفات، بھت خوشی 24 محدود کا عملی کورس

107	..... آپ اپنی معمولی حالت پر اکفان کبھی بخیر تر نہیں۔ تیرا بخت
111	..... صبر درداشت پہلا بخت
115	..... ایکواں دن دوسرا بخت
119	..... آپ کے خیالات و حقائق کا درستین پہلا بخت
122	..... احسانی ڈموداری پہلا بخت
126	..... سکراہت پہلا بخت
129	..... رحم دلی پہلا بخت
134	..... غیر شروع طبقت پہلا بخت
138	..... ستائیکواں دن اپنے اڑاک پر بخوبی کیجیے۔ پہلا بخت
143	..... اٹھائیکواں دن اپنی ہر کامیابی پر خوشی ملتی ہے۔ پہلا بخت
146	..... ایکواں بخت پانچال دن چک اٹھنے کا بھی وقت ہے۔ پہلا بخت
150	..... قوتوارادی پانچال دن پہلا بخت
153	..... موت پانچال دن پہلا بخت
155	..... آپ کی بھت پانچال دن پہلا بخت

4 دفات، بھت خوشی 24 محدود کا عملی کورس

51	..... مقدمہ پہلا بخت
56	..... ساتوال دن ولاء پہلا بخت
59	..... آٹھواں دن آپ کی اصل دفات پہلا بخت
66	..... نواں دن دوسری بخت
70	..... دوسری دن مکلات پر قابو پائیج پہلا بخت
76	..... گیارہواں دن دوسری بخت
79	..... پانچواں دن دوسری بخت
82	..... تیسیواں دن اتفاقی مطابقت
86	..... چودھرواں دن اپنی ذات کو مدد کر کرینے والے خیالات
90	..... پندرہواں دن ارکان تجھ پہلا بخت
93	..... سیواں دن اعتراف و قولیت
98	..... سترہواں دن مل پہلا بخت
102	..... الحارہواں دن تاکای کاغذ

7 دفات، بھت خوشی 24 محدود کا عملی کورس

## دیباچہ

6 دفات، بھت خوشی 24 محدود کا عملی کورس

162	..... پانچال بخت
170	..... پانچیکواں دن بھتر مواقع تک رسائی حاصل کیجیے پانچال بخت
176	..... چھوٹیکواں دن جمأت و بخت پانچال بخت
	..... پانچیکواں دن "آن اور اگر" کے وقت میں تسلی

آج فل کہا گئی کے درمیں لوگوں لے پاس اتنا وقت تھا جو کامیابی مل کر معاشرے میں محسوس کر سکتی اور زندگی وہ اپنی ذات پر زیادہ بے پائے ہیں جس کی وجہ سے لوگوں کے معاشرے میں کے ساتھ ساتھ ان کی محنت پر بھی بے اڑاٹ مر جب ہو رہے ہیں۔ یہ کتاب اپنی قومیت کی ایک بہترانی اور مندرجہ کتاب ہے جس کے ذریعے آپ اپنے معاشرے میں کے ساتھ ساتھ اپنی حسنات اور قومی محنت گئی بہتر بناتے ہیں اور بہت آسانی کے ساتھ اپنے مقاصد میں کامیابی مل کر کتے ہیں۔

اس کتاب کے صاحب رابن سیگر (Robin Sieger) (مبنی الاقوای شہرت یاد فضیل ہیں اور برطانیہ کے ان تین صحفوں میں سے ایک ہیں جنہیں حسن کا کردگی کی وجہ سے انہیں علاقے اخراجات سے نواز گیا ہے۔ یہ کتاب اپنی قسم کے بانی ہیں۔ یہ کتاب قائم مرکز کے لوگوں کے ملاؤں میں تھیں اور اواروں کی بھی تربیت کر رہی ہے۔

اس کتاب میں 42 دن (چھ مہینوں) کا ایک بہت بیکاری کا ملکہ ہے۔ جو دن ایک ترقی پروگرام ہے جس پر عمل کر کے آپ مر جو 42 دنوں میں اپنی زندگی پر ہمہ کے لئے تجدیل کر سکتے ہیں اور اپنا کام بھیں کوہاں پہنچوں میں بدل سکتے ہیں۔ اس کتاب میں صرف لوگوں کی کامیابی کی بڑی توجیہ تھی ہے کہ لوگ اس لئے کام بھیں کوہاں پہنچنے کو تبدیل کرنے کی خواہ میں ہوتی ارادہ میں ہوتا یا کام میں کام کرنے کی تحریک بھیں ہوتی جو انہیں کام کرنے پر اکسلی ہے۔ صرف کے مطابق لوگوں کی کامیابی کی بڑی وجہ ان کی ناکامی کی مادت ہے جس نے ان کے ہون میں مضبوط جری ہوئی ہے۔ ضرورت اس ہاتھ کی کہ ناکامی کی اس مادت کو کامیابی کی مادت میں تبدیل کیا جائے جس کا بہت آسان طریقہ صرف لے آپ کو اس کتاب میں تباہی ہے۔ صرف کے مطابق آپ کو کامیابی کے لئے جن حصہ صرکی بھی ضرورت ہوتی ہے وہ تمام اخراجات آپ کے اندر موجود ہیں۔ آپ کو کسی بھی مقصد میں کامیاب ہونے کے لئے ان

179 .....	چھتیسوال دن آن کی خلاش
182 .....	چھتیسوال دن آپ جو چاہیں، کر سکتے ہیں۔
184 .....	چھتیسوال دن احساس فکر
188 .....	آنچھتیسوال دن زندگی سے بھر پر امداد سے پہنچی
194 .....	چھتیسوال دن جو کافی ہے۔
198 .....	آنچھتیسوال دن پر پیشان نہ ہوں۔
203 .....	چھتیسوال دن قوت۔

### حصہ سوم

210 .....	مراثی، وہاں اور تصور
215 .....	چھتیسوال کا قفلی پر گرام
224 .....	آسان گرمی پر روزانی
231 .....	اب آپ کو کیا کہتا ہے؟

## پیش لفظ

میں بہت سے ایسے لوگوں سے ملا ہوں جو کہ اپنی ترقی کے لئے اپنی ذات میں بہت زیادہ محروم ہیں، اپنی ذات کو بہتر بنانے کے لیے درمیں میں میں شرکت کرتے ہیں، مختلف تمہاری نسباتی و دلخواہ میں شمولیت کرتے ہیں، ان کی معلومات بھی بہت زیادہ ہوتی ہے لیکن الحصہ کی بات یہ ہے کہ وہ یہ سب پہ کرنے کے باوجود اپنے مقدمہ کی طرف ایک قدم بھی آگئے نہیں بڑھتے اور مجھے یہ بات بہت افسوس سے بھی پڑ رہی ہے کہ وہ کبھی بھی آگئے نہیں بڑھ سکتے۔

یہ سب اس وجہ سے ہے کہ اس کو اپنے ذات کو بہتر بنانے کے لیے خواہ میں ہے، ارادہ میں ہے جو تمہیری کامیابی ہے جس کی وجہ سے وہ ناکام ہوتے ہیں بلکہ ان کے ناکام ہونے کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے کوئی بہتر اوضاع پر تباہی کیا ہے اور کسی کی طرح سے اپنے مقدمہ میں کامیاب ہو سکتی ہے۔ میں نے جب یہ کتاب پڑھی تو مجھے یہ کتاب بہت پسند آئی اور مجھے خوب ہوا کہ میں آپ کو اس کا خصلت ہے اس کا ملکہ ہے اس کا ملکہ ہے اس کا ملکہ ہے۔

ہر سڑک کے لئے آپ کو ایک ایسا ذی ریڈیشن کا حصہ کرنے اور منزل کا حصہ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے ورنہ آپ بیکار اور ادھر پھر تے رہ جائے اور کبھی بھی اپنے مقدمہ میں کامیاب نہیں ہو سکتی ہے۔ میں اپنی زندگی میں بہت سارے ایسے لوگوں سے ملا ہوں جو بہت اعتمادی اور یہ کام ارادے رکھتے ہیں لیکن وہ بیکار پھر تے رہ جائے۔ ابھی سوچ کے باوجود کامیاب نہیں ہو پاتے تھے۔

میں نے یہ کتاب "دولت، محنت، خوشی 42 دنون کا ملکی کورس" اس لیے لکھی ہے کہ آپ کو مل کرنے کا طریقہ تا سکوں اور آپ یہ جیتنے کیلئے کسی کس طرح سے کامیابی حاصل کرنے کے لئے پڑھو۔ مخصوصہ بنا لیا جائے، اپنے علم کو میں لایا جائے اور عمل کو ثابت نتیجے میں تجدیل کیا

دولت، محنت، خوشی 42 دنون کا اعلیٰ کورس  
لوگوں میں تباہی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کا مقدمہ واضح ہونا چاہیے۔

کتاب میں تباہی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کا مقدمہ واضح ہونا چاہیے۔  
یہ اپنی دلپت کتاب ہے۔ اس کے مطابق آپ کا اس بہت کے لئے سپلے خود کو وہی طور پر تیار کرنا ہے اور 42 دنوں میں آپ کو دروزہ اسیکی نیکی کام کرنے یا ایک قسم کا مادت سیکھنی ہے جو کہ بہت آسان ہے اور صرف نے بہت پراٹری طریقے سے آپ کو اس پر میں تباہی ہے تاکہ آپ کو انہیں سیکھنے اور ان پر عمل کرنے میں کوئی مشکل پہنچ نہ ہے۔ میں تباہی کا آپ سے وعدہ ہے کہ آپ آپ پوری دیانتاری سے اس پر اپنی کی طرف پیش قدمی پر عمل کریں گے تو یقیناً یہ بہت آپ کی زندگی پر ایسا اور آپ کا مقدمہ واضح ہو گئی ہوں، آپ سے حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ آپ کا مقدمہ واضح ہونا چاہیے۔ آپ کو دروزہ اسی طریقے کا اور تصورات کی ملکتی کرنی ہوگی۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو اپنی خدا جو تمدنی ہو گی اور با قاعدہ کی سے درجہ کرنی ہو گی تاکہ آپ اس بہت کے سو فیصد تائیں حاصل کر سکیں۔

مجھے شروع سے ہی مطالعہ کا بہت شوق ہے۔ زیادہ تر میں نے ادب عالیہ کی کتابیں پڑھی ہیں اور اسی شوق کی بناء پر میں ایم۔ اے انگلی لڑپچھی میں کیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں نے مختلف موضوعات پر کتابیں پڑھی ہیں۔ یہ کتاب (42 دن کا تخفیج) بہت منفرد و ممیت کی کتاب ہے جو کہ آپ کو بہت آسانی سے کام کرنے کی ترغیب دیتا ہے تاکہ آپ اپنے مقدمہ میں کامیاب ہو سکتی ہے۔ میں نے جب یہ کتاب پڑھی تو مجھے یہ کتاب بہت پسند آئی اور مجھے خوب ہوا کہ میں آپ کو اس کا حصہ بنا سکوں کی تکہہ یہ کتاب اگر بڑی میں ہے اور اکتوبر اگر بڑی زبان کو آسانی سے سمجھنی پاتے۔ اس لیے مجھ میں یہ تحریک پیدا ہوئی کہ میں اس کتاب کا اردو زبان میں ترجمہ کروں تاکہ کمزیہ اسے زیادہ لوگ اس سے سفید کو سکیں۔

### حتمیتیاں

10 .....	دولت، محنت، خوشی 42 دنون کا اعلیٰ کورس
..... جائے۔ آپ اور دوسرے لوگ 42 دن میں اس کا نتیجہ بھیں گے۔ میں نے اسے ایک حد مدد ف	

## دنیا پر کتابوں نے حکمرانی کی ہے

میں تبدیل کر دیا ہے۔ اس کتاب کے ذریعے میں آپ کا ذاتی میں تبدیل کر سکتا ہوں اور آپ کی خواجہ احمدی میں اضافہ ہو گا اور آپ کو کامیابی کا احساس ہو گا جبکہ عام طور پر بہت کم لوگ ہوسیں کرتے ہیں۔

ہم بہت خوش قسم ہیں کیونکہ ہم ایسے دوسری ہی رہے ہیں جہاں انکی تمام کتابیں ہیں۔ اسی وجہ سے ہم کی مدد سے ہم خود کو خوش، سمجھتے، طاقتور اور امیر بناتے ہیں۔ کتابیں یہوں سے عیان انسان کی بہتری میں درست ثابت ہوئی ہیں۔ اب یہ انسان یعنی محض ہے کہ وہ اس کتابوں سے کتابت کندہ ہے۔ زندگی کے روشنے سے تعلق رکھنے والے ایسے لوگ ہیں جو ہائل یعنی قبورات سے گزرے اور اسیے بھی جھنوں نے اچھائی فرماتے تھے اور اس کا سفریا اور اس کا جیسی کتابوں میں پہلہ والا۔ اس سے اپنے قبورات کو کافی فضل کر دیا ہے۔ جس سے ہر کوئی قائدہ اٹھا سکتا ہے۔ ان سب چیزوں کی داداںی اور حکمت عملی ہماری بھی ہے۔ جس سے ہر کوئی زندگی کے پھرے پڑے مسائل کو حل کرنے میں مدد دے سکتے ہیں اور آنکھوں زندگی کی راہوں کو بہتر طریقے سے میکن کر سکتے ہیں اس لوگوں نے ہمیں اپنی بصیرت کا تقدیر ہے۔ جو ہماری موجودہ اور مستقبل کی مخصوص بندی کے لئے اچھائی فرمی ہے۔ ہم ان کی زندگی کے قبورات سے سچے کاری زندگیوں کو سخن دے سکتے ہیں (شروع کر کتے ہیں)۔ یعنی ان سب کے ساتھیں یہ ہمیں ہوں گا کہ ”غدا بھگ، انی کی دکرتا ہے جو اپنی مدد آپ کرتے ہیں۔“ ہم لوگ کوشش کرنے کے بجائے حالت، روتا درتے رچتے ہیں۔ ہم میں سے کتنے لوگوں کے جو کہ لاہوری کارخانے کرتے ہیں۔ لا ایک لاجبری تو کامیابی، داداںی اور فائدہ مندرجہ ذیل سے ہمیں پڑھی ہے ہم اگر لاہوری کو ہونے کی کامیں کہیں تو قبول نہ ہوگا۔ مسئلے یہ ہیں کہ کتابیں بہت بھی ہیں اگر ہم موجود ہیں تو کہیں کہ ہم اتنی تحریر نے کی صورت میں کتنی محرومیں کا باعث ہیں۔ جو شخص کتابیں بھی پڑھتا ہے کہ اور ان پڑھ میں پس ہمیں ای غرق ہوتا ہے۔ اور پاسوں ناک ہے۔ جو کوئی اپنی زندگی میں بہتری لانا چاہتا ہے اور اپنے پیٹے میں چاہے یہ تو کسی پاپوں ہو سے کتابوں سے دل لانا چاہے گا۔ مطلاع کا شوق رکنا ہو گا۔ اس

رائیں۔ سچر

ذوال کیلیٹے وز اردو کی قشک کیزار پڑھ

ذوال کیلیٹے وز اردو کی قشک کیزار پڑھ

## کیا آپ 42 دن کے چیلنج کے لیے تیار ہیں؟

42 دن میں دولت، سمجھت اور خوشیاں حاصل کرنا آپ کے لیے اپنے اختیار میں ہے، جب آپ اس مضمون پر عمل کرنے کے لیے آپ کے حس، ذہن اور درود کو ایک ہی زندگی بخش کا آپ اپنی صلاحیت اور ہدف کا انتقال کر کے خوبیوں کو حقیقت میں بدل دالیں گے۔ اس سے آپ کی خوشیوں اور مزانتیں میں اضافہ ہو گا۔

لوگ اس لیے ہم کامیں ہوئے کہ ان میں کام کرنے کا هم اور عکس موجود نہیں ہوتا اور اس کے لیے خواہیں اور کوششیں میں کام کرنے بلکہ وہ اس لیے کام کرنے ہیں کہ ان کے ذہن میں ہم کوئی کی حدات پختہ ہو جگی ہوئی ہے اور اس لیے ان کے تحت اشتعال میں مضطط جیسیں پکڑ لیتی ہیں۔

میں وہ نہیں جانتے کہ کام کے ملک کرنا کی کوچی اور درحقیقت پر بہت کم اثر ہوتا ہے۔ کرتے ہوئے کہ بہت سارے لوگ اپناؤں کم کرنے میں مدد رہتے، ملازمت پر مدد میں کھلے، اپنے کاروبار شروع کرنے اور اسی تعلقات قائم کرنے میں ناکام رہتے ہیں۔ یا ایک بے شان کتاب ہے جو آپ کو تھانے کی کتاب کس طرح اپنی ہمکاری کی عادت سے چکارہ حاصل کر کے سارے کیونکہ اس کتاب کے ذریعے اپنی فضیلت اور درود اور سے اکٹھی دے سکتے ہیں۔

وہیں تک نہیں گے کہ اس کتاب کے ذریعے آپ کو تھانے کے ذریعے اپنی فضیلت اور درود اور سے اکٹھی دے سکتے ہیں۔ آپ اس کتاب سے یہ

12 دولت، سمجھت، خوشی 42 دن میں کام اعلیٰ کو دریں وقت دنیا میں بہت موضوعات پر کتابیں دیکھاں ہیں۔ اگر کسی وجہ سے یہ آپ کے شہر یا ملک میں دستیاب نہیں تو آپ اٹھنے کی مدد سے ہا آسانی ملکوں کے تھیں۔

مطلاع، پر کوئی کی بلندیوں پر لے جائے گا۔ کتابوں کا ہماری زندگی پر بہت کم اثر ہوتا ہے۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ دو ہاتھی زندگی میں کامیابی کے لیے بہت ضروری ہیں۔ ”اوچے لوگ اور راجحی کتابیں“ ہر روز تھوڑے سے مطالعے کی حاجات ڈالیں۔ اس سے آپ کی قابلیت میں اضافہ ہو گا۔ لیکن اگر اس کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے تو یہ ہمارے لیے موجود نہیں۔ آگر تو آپ چاہئے ہیں کہ آپ کی زندگی میں اچھی تہذیب آئے تو اس سے پہلے اپنے آپ کو بدلنا ہو گا۔ اپنی سوچ بدلنی ہو گی۔ کتابوں کی مدد سے آپ اپنی زندگی میں خوفناک تبدیلیاں لائے ہیں۔ جن ان کے ساتھ ساتھ اٹھک اور سکل جو دو جگہ کی ضرورت ہے۔ مطالعے کی حاجات ایک کام ہے زندگی گزارنے کے لیے ایک سکل کی طرح ہے اور سیرے خیال میں یہ غصی اور کامیابی حاصل کرنے کے لیے یہ بجا ہے۔

محظی اللہ (فرانسیس مسلم) کی ایک بات بہت پسند آئی اس نے کہا:

”آپ کو اس حقیقت کا شعور ہونا چاہیے کہ جب سے یہ دنیا ہی ہے تھیں لوگوں کو چھوڑ کر دینا پر کتابوں نے حکمرانی کی ہے۔“

آپ کی کامیابی کے لیے دعا کو  
کھلی احمد

0322-4842969

- اپنے صور و حقا کو پر ٹکوپا
- اپنے مقدمہ پر یافت کرنا
- دولت حاصل کرنا

دولت، محنت، خوشی 42 دنون کا اعمالی کورس

## کتاب کا اجمالي جائزہ

صرف چھ ہفتوں میں دولت، محنت اور خوشیاں حاصل کریں۔  
ترینی موادے حلقوں پر رہنمائی۔

### پہلا حصہ

یہ آپ کو تائے گا کہ میں نے یہ کتاب "دولت، محنت، خوشی: 42 دنون کا اعمالی کورس" کیوں  
لکھی ہے اور اس سے آپ کو کیا نہدے حاصل ہوگا۔  
"42 دن کا فتح" آپ کے لیے کس طرح کام کرے گا۔ میں نے آپ کے لیے آسان گلی  
قدام ترتیب دیئے ہیں جن پر آپ بہت آسانی سے عمل کر سکتے ہیں۔ سات بیانی اصول جن پر  
عمل کر کے آپ بہت کامیابی کے ساتھ ہدف مکمل کر لیں گے۔  
1- مراتی اور تصویرات کی میں روزانہ تک کو 20 منٹ کے لیے کرنی ہے۔  
2- درجہ درجہ اس کم از کم 20 منٹ کے لیے کرنی ہے۔  
3- تمہاری خوشیں کرنی ہے۔  
4- شراب خوشیں کرنی ہے۔  
5- ہر روز کوئی سندھی کا کام کرنا چاہیے۔  
6- ثبت موقع کیجیے جام و مقام اپنی ذات پر یقین رکھیں۔  
7- ہزار سے تباہ کھانے پر خوبی کر جائیں۔  
24 گھنٹوں میں اپنی زندگی پر قابو حاصل کریں۔  
ہر روز ایک گھنٹے کی ضرورت بندی کریں۔ اس سے یہی آپ کو بہت فائدہ پہنچے گا۔  
ہر روز 60 منٹ خود کو کرو۔  
15 منٹ پہلے آپ پہنچ بیدار ہو جائیں اور ناشتا کر لیں۔

دولت، محنت، خوشی 42 دنون کا اعمالی کورس

- اپنے خوف سے چھکاڑہ حاصل کرنا
- اپنے مستقبل کا تین کرنا
- لوگوں سے فیر شرط پیار کرنا
- اپنی ذات کو قول کرنا
- اپنی خواہشات کی تحلیل کرنا
- عمل جسمانی محنت حاصل کرنا
- محنت افرادخاپ پر حملان دینا

ناؤں کیلئے ون اردو کے شکر گزار 3  
® SCANNED PDF By HAMEEDI

دولت، محنت، خوشی 42 دنون کا اعمالی کورس

## سات قسم کے دوپہر کے کھانے

دوپہر کے کھانے کے بعد کے لیے سات قسم کی بھلی خدا کیں۔

### سات قسم کے رات کے کھانے

رات کے کھانے کے لیے سات قسم کی بھلی خدا کیں۔  
ہر وقت کے لیے سات قذاؤں کا انتخاب کیا گیا ہے تاکہ آپ ایک یعنی قسم کی غذا کھا کر استراحت  
شکایں۔  
ورزش  
روزانہ آپ کو کم از کم 20 منٹ ورزش کرنی ہے۔ ہر رفاقت دن آپ نے اپنے دل کے لیے  
اور خون کی شریانوں کے لیے ورزش کرنی ہے اور ہاتھ کے 30 دن اپنے عضلات کی طاقت اور  
وقت برداشت میں اضافے کے لیے ورزش کرنی ہے۔ اس میں آپ کو دن سادہ مزید آسان  
ورزش تھائی گی ہیں۔ جن کرنے سے آپ کے جسم کے تمام عضلات استھان ہوتے ہیں اور ان  
کی طاقت میں بذریعہ کا اضافہ ہوتا ہے۔

### آپ کو اب آخر میں کیا کرنا چاہیے؟

42 دن کی اس گلی ترتیب کا تصدیق ہے کہ آپ کو خود پر پوچا یا بھال ہو جائے اور آپ کو  
اپنی ذات سے خلق اور اپنی صلاحیت اور رہت و قوت سے خلق آگئی ہو جائے۔ آپ اپناروی،  
انہا سوچنے کا انداز ہمیشہ کے لیے بدل ڈالنیں اور اپنی خواہشات کی تحلیل کریں۔  
آپ بار جب آپ پر ہدف حاصل کر لیں گے کہ آپ اپنے آپ پر قابو حاصل کر لیں گے۔  
اویح راستے رہیں جس سے آس طرح سے آپ ایک نئے انسان بن جائیں گے۔

دولت، محنت، خوشی 42 دنون کا اعمالی کورس

- ☆ 15 منٹ اپنے ذہن کو سھقیل کے لیے تحریک دیں۔
- ☆ 10 منٹ اپنے کام کی صورت بندی کو دیں۔
- ☆ 42 دن پر عمل کرنا اور عمل کرنے سے پہلے خود کو خوبی طور پر تقدیر کر کا آپ کی کامیابی  
یقینی ہو جائے۔

### دوسرہ حصہ

روزانہ عمل کرنے کے لیے ایک تینی چیز آپ کو تھالی جاتی ہے۔ 42 دن میں ہر روز آپ کو کام کرنا چاہیے۔ اس پر عمل کر کے آپ میں اخاذ سے سچانہ شروع کر دیں گے اور روز گلی میں میٹے تجوہات کریں گے۔ 42 دن کا فتح آپ کے ذمہ کے خلاف شہروں سے خلق خیالات کو تھیل کرنا ہے۔ آپ کو زندگی کی اہمیت کے خلق میا تھا اے اور آپ کے لیے ہیں، جسم اور روح کے لیے  
پہلوؤں سے خلق میا تھا ہے۔ ہر روز ایک میٹے خیال کے بارے میں سوچ کر ایک کام کر کے  
آپ اہستہ اہستہ ایک میٹے انسان بن جائیں گے۔

تیسرا حصہ  
اس میں آپ کو ورزش اور محنت افرادخاپی مخصوصے کے خلق میا جائے گا اور اس کے  
ساتھ ساتھ آپ کو راتی اور تصویرات کی میں سے خلق میٹے میں تھوڑی طور پر دی جائیں گی۔ اس کے طالہ  
اس میں آپ کو دنیا دی ورزشوں کے بارے میں میا جائے گا۔

### مراتیب اور تصویرات کی میں سے خلق کے فائدہ میتے گئے ہیں؟

- ☆ آپ توڑا توڑا کر کے دن میں چودھوکا میں، ناشتا، ناشتے کے بعد بھلی خدا دوپہر کا  
کھانا ہشام کے لیے بھلی خدا، رات کا کھانا اور رات کے کھانے کے بعد کے لیے بھلی خدا۔
- ☆ 8 قدماً کی روپ میتے گئے ہیں جس میں سے آپ نے اپنی پسند کی خدا منتخب کریں۔

## کامیابی کے لیے چار ضروری باتیں

- 1- میں آپ کو بیدار کرنا چاہتا ہوں اور یہ بات سمجھانا چاہتا ہوں کہ آپ جس کا نات کا حصہ ہیں۔ اس میں وہ تمام عناصر اور لواز مات موجود ہیں جو آپ کو کامیاب حاصل کرنے کے لیے

## سات ہم کے نتائج

نتائج کے بعد کے لیے سات ہم کی بھل خدا کیں۔

19

دولت، محنت، خوشی 42 دنون کا عملی کورس

دولت، محنت، خوشی 42 دنون کا عملی کورس

18

درکار ہیں۔

- 2- میں چاہتا ہوں کہ آپ طاقتور بن جائیں، اپنی ذات سے حلقوں محدود خیالات کو بدل ڈالیں جو کہ آپ کی ترقی کی راہ میں ناکاوت بے ہوئے ہیں اور ان خیالات کی وجہ سے آپ ایسا سوچتے ہیں کہ آپ کبھی تبدیل نہیں ہو سکتے۔ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے اور بھی خوشیاں، محنت اور دولت حاصل نہیں کر سکتے۔ یقیناً خیالات غلط ہیں، ان کی جگہ ثابت سوچ آپنا کیں۔

- 3- میں چاہتا ہوں کہ آپ ناکامی کی عادت بیٹھ کے لیے بدل دیں اور اس کی جگہ کامیابی اور خوش رہنے کی عادت اپنا دیں۔

- 4- میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنا زندگی کو اپنے کاظمی تبدیل کر دیں۔

- 5- خوبی سوچ کی جگہ ثابت سوچ رکھیں۔ ہم زندگی میں اپنے مفہوم حاصل کرنے میں اس لیے ناکام نہیں ہوتے کہ ہم اس کا ارادہ یا خوبی خواہی نہیں کرتے۔ ہم اس لیے ناکام ہوتے ہیں کہ ہم ہمت ہا جاتے ہیں، اپنا کام اور حوصلہ اچھوڑ دیتے ہیں اور ہم نے اپنے کام کا پہلے سے کوئی منور نہیں بنایا ہوتا۔

## انپن برف سے نہیں کے سات اصول

- 1- روزانہ چھ مراقب کریں اور تصویرات کی مشق کریں۔

- 2- روزانہ کم از کم 20 منٹ کے لیے دریش کریں۔

- 3- تمباکو کوٹھی نہ کریں۔

- 4- شراب نوشی نہ کریں۔

- 5- روزانہ غیر مشروط ہمدردی کا عمل کریں۔

- 6- بیٹت سوچ اور ہر وقت اپنی ذات اور قابلیت پر یقین رکھیں۔

- 7- برگر، پیز اور اس کے ملاوہ کوئی کبھی پازار کا تیار شدہ کھانا نہ کماں۔



## حصہ اول

- 1- حصول کامیابی کے لیے سات بنیادی اصول
- 2- روزانہ ڈائری لکھنے کا معمول

ناؤں کیلئے وہ اردو کے شکر گزار پیجیں

® SCANNED PDF By HAMEEDI

21

دولت، محنت، خوشی 42 دنون کا عملی کورس

دولت، محنت، خوشی 42 دنون کا عملی کورس

20

## حصول کامیابی کے لیے سات اصول

- 1- روزانہ چھ 20 منٹ کے لیے مراقب اور تصویرات کی مشق کریں

خاموش رہنا سمجھیں اور اپنے خاموش ذہن کو کشنے اور جذب کرنے دیں۔ ملی چیختن سے مراثی کے بہت زیادہ فوائد معلوم ہوئے ہیں۔ اس سے آپ کا فشار خون اور دل دھڑ کے کی رقم کم ہوتی ہے۔ اس کے بہت زیادہ وقتی اور دو حصانی فوائد بھی ہیں۔ جیسے جیسے آپ مراثی پاہنچی کے ساتھ کرتے جائیں گے ویسے ویں دن بدن آپ کو اس کے فوائد معلوم ہوتے جائیں گے۔ مراثی آپ کا اس قابل ہاتا ہے کہ آپ اپنے ذہن کو یکسوئی سے ہمکار کریں اور کمل طور پر سکون حالت میں اپنے دن کا آغاز کریں۔ مراقبیں ہمیں ساکن درہاپناتا ہے۔

پہنچوں کو کہہ کام بالکل ناچکن لگاتا ہے۔ آپ دنیا میں کتنی بھی ہوں، اگر آپ اپنے دن کا آغاز مراقبی کے کیسے کرے تو آپ کا تمام دن پر کون گزرے گا۔ آپ اپنے ذہن کو جسم کو سکون کرنے کے لیے با آسانی خاموش بیٹھ کر 20 منٹ گزار سکتے ہیں۔ مراقبی کی حالت میں آپ کا

ناؤں کیلئے وہ اردو کے شکر گزار پیجیں

® SCANNED PDF By HAMEEDI

## آپ کے لیے پہلا چیخ

- 1- یہ ہے کہ آپ اس 42 دن کے منسوبے کے لیے بھیگی سے جو چھ کریں۔

- 2- اپنے تمام کاموں پر کمل طور پر قابو حاصل کریں۔

- 3- تمام ترقی اور عملی کام پاہنچی سے کریں۔ جو کام تباہیا اس پر پوری طرح عمل کریں اور اپنی زندگی میں کے لیے بدل ڈالیں۔

خوبی کا نتات کے ساتھ ہم آہنگ ہو جاتے ہیں اور آپ اپنی ذات میں موجود کمیتوں کو محسوس کر لیتے ہیں۔

آپ کو خاموشی سے آگاہ ہونے کے لیے بخوبیت کی ضرورت ہے۔ ایسا ناموشی میں ہی ممکن ہے کہ آپ اپنے وجہان کی آواز سن سکتے۔ اس طرح سے آپ سارا دن کوون کے ساتھ گزار سکتے گے۔ مہر قبیلے کے حکم کو کمل طور پر سکون اور رہا رے ذہن کو آسودہ کر دیتا ہے جس کی وجہ سے ہم وہی طور پر جامِ تکرات بھول کر ہوتی طور پر سکون ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ اسی کوون کی کیفیت کو سارا دن برقرار رکھیں تو آپ سارا دن کی بھی تشویش اور اضطراب میں جلاںٹھیں ہو سکتے اور نہ ہی کسی تم کے دباؤ کا فکار ہوں گے۔ اگر کوئی کامِ علطا ہو جائے تو آپ کے اندر کا سکون آپ کو احتساب میں نہیں آنے دے گا بلکہ آپ کا روایہ آپ کے قابوں میں رہے گا۔ اس وہی اور

® SCA/  
بِسْمِ اللّٰہِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

23 دولت، محنت، خوشی 42 دنون کا عملی کورس

اس کے باوجود بھی 42 دن کے مخفی کے بعد تباہ کوئی چاری رکنا چاہیے میں تو آپ کی اپنی پسند ہے لیکن کم از کم اس 42 دن کے مخفی کے دوران آپ نے کسی تم کے کمی کر کر بیٹھنی پڑی ہے۔

#### 4۔ شرابِ نوشی سے پرہیز کریں

شرابِ نوشی اپنی محنت کے لیے اچالی نصان دہ ہے۔ اگر آپ اسے نہیں چھوڑ دیں گے تو آپ کے ہدف کے لیے بھی خدا کا ثابت ہو گی۔ میں آپ کو شرابِ نوشی کی اجازت نہیں دے۔ شرابِ نوشی سے انعام کا اپنی ذات کے متعلق اور لوگوں سے متعلق اور اسکا علطہ ہو جاتا ہے۔ یہ نہیں دھوکے میں ڈال دیتی ہے۔ اس کی وجہ سے ہماری سوچِ حادثہ ہوئی ہے اور اس علطہ نیچے کرنے لگتے ہیں۔ میں آپ سے دوبارہ بھی بات کہنا چاہوں گا کہ خدا آپ نے میں ایک گاہ اس کا پیتے ہیں یا ایک دن میں ایک بلوچ پیتے ہیں۔ اس مخفی کے دوران آپ کو ضروری طور پر اسے چھوڑ دیا جا سکے۔

#### 5۔ روزانہ ایک غیر مشروط ہمدردی کا کام کریں

ہر روز ہمدردی کا غیر مشروط ٹھیک کرنے سے ایک توہین اس بات کا علم ہو گا کہ جہا رہو یہ کمل طور پر اپنے قابوں ہے۔ دوسرا یہ کہ ہم کمی سے ہمدردی کا برنا دکرتے ہیں یا کسی کی مدد کرتے ہیں تو اس کا ثابت اثر دسرے لوگوں کی زندگیوں پر بھی ہو گا۔ آپ جب بھی کسی کے ساتھ ہمدردی کریں تو کمل طور پر علیس سے پیار سے اور خوشی سے کریں۔ اس سے پہلے ہو گا کہ آپ جو کوئی دوسرے لوگوں کو دیتے ہیں جیسا کہ تھی طور پر اس کا بہترین صلاح ٹوکن جاتا ہے۔ اگر کوئی اپنی آپ کے کمی دوست کے ساتھ ہے اسے آپ کے والدین کے ساتھ بہت اچھا سلوک کرے تو آپ کیسی محروم کریں گے۔ آپ کوایسا بھروسہ ہو گا کہ آپ کا انسانیت پر ایمان پھر سے تازہ ہو گیا ہے۔ آپ کی نظر میں انسانوں کی قدر بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں۔ جب کوئی شخص آپ کے کسی عزیز کے ساتھ ہمدردی کرے آپ بہت زیادہ خوش ہوں گے۔ اس لیے میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنے احاسات کی ابتداء کریں اور لوگوں کو احساس دلائیں کہ وہ آپ کے لیے بہت اہم ہیں۔ اگر آپ کسی شخص کو کہ کر گر بھوشی سے سکردار ہیں، کسی کا اسماں اس کے ساتھ اخالیتے ہیں، کسی کے لیے زیادہ کوئوں دیتے ہیں، کسی کو راستہ دے دیتے ہیں یا کسی کو بیٹھنے کے لیے جگہ دے دیتے ہیں، یہ تمام کام غیر مشروط ہمدردی کے ہیں اور یہ چھوٹے چھوٹے کام دسرے لوگوں

22 دولت، محنت، خوشی 42 دنون کا عملی کورس  
جمانی کیفیت میں ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے مستقبل کی کامیابی کا تصور کریں۔ اس طرح سے ہم بہتر ترین حاصل کر سکتے ہیں۔

#### 2۔ روزانہ کم از کم 20 منٹ کے لیے ورزش کریں

آپ کو روزانہ 20 منٹ کے لیے ورزش کرنی چاہیے اور سہرا خیال ہے کہ آپ کی دریثی مرکز کی بجائے گھر میں ورزش کر کے چست وہ سکتے ہیں۔ انہماں یہ ہے کہ آپ کو روزانہ بلا ناف ورزش کرنی چاہیے۔ اس کتاب کے تیرے سے میں آپ کو ہنف ورزشی میں تائی گی ہیں جنمیں آپ اپنے گھر میں پا آسانی کر سکتے ہیں۔

#### 20 منٹ کی ورزش سے فوراً حاصل ہونے پا چنج فوائد

- آپ کی بھنی محنت اچھی ہو گی۔
  - آپ کی جسمانی محنت بہتر ہو گی اور آپ خود کو پہلے سے چکس محسوس کریں گے۔
  - آپ کی ورزش لٹس میں اضافہ ہو گا۔
  - آپ کے جسم سے چکنائی کم ہو گی۔
  - آپ کی توہانی میں اضافہ ہو گا۔
- آپ مخفی زیادہ ورزش کریں گے اسی قدر زیادہ فوراً حاصل کریں گے۔ 42 دن کا تحدی رہنے کا مخصوص آپ کے اندر بثثت عادات پیدا کر کرے گا اور آپ ان عادات کو ہمیشہ کے لیے اپنا لیں گے۔

#### تمبا کوئی نوشی سے پرہیز کریں

اگر آپ باقاعدگی سے تباہ کوئی نوشی کرتے ہیں تو آپ یا اپنی عاداتِ ختم کر دیں تاکہ آپ کی آئندہ آنے والی زندگی پر متنی اثراتِ مرتبت نہوں۔ سب سے پہلے آپ اس بات سے واقع ہوں گے کہ آگر آپ نے اپنی یہ عادات تبدیل کر لیے تو آپ ہا آسانی اپنی کوئی بھی عادات تبدیل کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کی محنت پر بھی اس کے بہت بثثت اثراتِ مرتبت ہوں گے۔ آپ ایک دن میں ایک یا میں سکریٹ پیتے ہیں۔ آپ کو یہ عاداتِ خود رُنگ کر دیتی جائے۔ آپ کی خراب میں نہ ہیں۔ یاد رکھیں تباہ کوئی نوشی آپ کی زندگی ختم کر دیتی ہے۔ آگر آپ

25 دولت، محنت، خوشی 42 دنون کا عملی کورس

آپ یہی عی انسان بن جائیں گے جیسے آپ بنا جائیجے ہیں۔ اگر آپ بثثتِ سوچیں گے اور اپنی ذات پر یقین رکھیں گے تو آپ اس بات سے والق ہوں گے کہ بثثتِ یقین ہمیشہ آپ کے روی پر اپنے امناہز ہوتا ہے۔ آپ جیسا یقین کریں گے ویسا یہ دوہرایا ہاتا کیں گے۔ آپ کا یقین آپ کے روی سے پہلے آتا ہے۔ آپ پہلے اپنی طور پر ناکام یا کامیاب انسان نہیں ہیں۔ اگر آپ بثثتِ سوچ اور بثثتِ یقین کو اس کا اختاب کرتے ہیں تو اس طرح سے آپ کامیاب ہونے کی اپنی ملاجیت بڑھاتی ہیں۔ یہ بہت اہم تصور ہے، آپ کو ہمیشہ اسے یاد رکنا چاہیے۔ اگر آپ سوچی سوچ رکھے وائے انسان ہیں اور آپ نے زندگی میں ادا کی اور بے شمار کامیوں کا سامنا کیا ہے تو آپ کو اس بات کا میامن کرنا مشکل ہو جائے گا کہ آپ کا کمی کی فطرت پر بھی انہیں ہوئے۔ اس لیے آپ کو یقین کریں گے کہ بثثتِ سوچیں۔ اگر آپ بثثتِ سوچ کا اختاب کریں گے تو آپ اپنے مقاصد میں ضرور کامیاب ہوں گے اور بھی خوش رہیں گے اور لوگوں میں خوشیاں باشیں گے۔

24 دولت، محنت، خوشی 42 دنون کا عملی کورس

کے لیے بہت خوشی کا باعث ہوتے ہیں۔ پہلے آپ کے ذہن، جسم اور روح کو خوارکتے ہے کہ کنکری یا یار اور ہمدردی کا جذبہ ہے جس کی وجہ سے آپ دسرے لوگوں سے فلک ہو جاتے ہیں۔ ہم دسرے لوگوں کے ساتھ ہمدردی کی بنا پر شلک ہوتے ہیں۔ آپ لوگوں سے بلوٹ پیار کریں۔ لوگوں کے کام آئیں، اس طرح سے آپ اپنی ذات کے کامِ حصار سے باہر گل آئیں گے۔ آپ کے اس آرام دہ حصاری کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے کہ آپ کی کام کے لیے بھی آگے نہیں بڑھتے ہیں۔ آپ کو ضرور اس آرام دہ حصار سے باہر لٹانا چاہیے اور دوسرے لوگوں کے کام آنا چاہیے۔

#### 6۔ بھیشثتِ سوچیں اور اپنی ذات پر یقین رکھیں

42 دن کے مخفی کا برا حصہ اسی بات پر مستقل ہے کہ آپ کیے "سوچے ہیں اور کیا سوچتے ہیں؟" اگر آپ بثثتِ سوچیں اور اپنی ذات پر یقین رکھیں کہ آپ کام کر سکتے ہیں تو آپ کے اندر کام ادا کا کام ہے۔ سادا ہما ۷۲ گاہ، آر۔ کاما ۱۸ کام ۳۶، ۲۹، ۲۷، ۲۵، ۲۴، ۲۳، ۲۲، ۲۱، ۲۰، ۱۹، ۱۸، ۱۷، ۱۶، ۱۵، ۱۴، ۱۳، ۱۲، ۱۱، ۱۰، ۹، ۸، ۷، ۶، ۵، ۴، ۳، ۲، ۱، ۰ کام

® HAMEEDI/  
نَوْلُ كَبِيْلَةِ وَنْدِ

7- بازار سے متنیاب غیر معیاری کھانے نہ کھائیں مثلاً غیر معیاری چکنائی میں تی اور پیکاپی ہوئی مرغ نڈا میں مثلاً برگر، پیزز، بوجگ، حلیم، ہریس وغیرہ غذائی صدروں کے میں۔ مطابق خواری کی جانبے والی معیاری غذا کھانے کے بے شمار فائدہ ہیں۔ لہذا پڑھ ساروں میں بازاری چکنائی کا واجہ بہت زیادہ ہو گیا ہے۔ ان میں تک، چکنائی اور جنچ کی مقدار بہت زیادہ ہوئی ہے۔ جب ان تینوں اشیا کی مقدار خواہ میں آپ کی روزانہ کی ضرورت سے زیادہ ہو جائے ہے تو ان لوگوں کے تک آپ کے جسم کو بہت زیادہ مشقت کرنے پڑتی ہے جنکہ آپ کے لیے ذیابھیں کا سبب ہیں۔ سچی ہے جنکہ آپ کے فقارخون کو بوجا کرنا ہے اور چکنائی آپ کے لیے ذیابھیں کا سبب ہیں۔ سچی ہے۔ اگر آپ نے پوری دیانتاری سے خلیع تصور ہوتا ہے وہ اس کے معیار دہانت کی طبلہ برشے زیادہ اس کے مستقبل پر اڑانداز ہوتا ہے۔ 42 دن کے خلیع کامیکی مقدمہ کے پر آپ کے ذائقے میں مخفک تجدیل کر دے۔ جب ہم بہت گمراہی سے مراقب ہوتے ہیں تو ہم اس قابل ہو جاتے ہیں کہ ہم کی بھی کامبہ پوری تجوہ رکھیں اور اس سے ہمارے خلابت واسخ ہو جاتے ہیں۔ سچی ذات پر تینیں رکھے کا یہ بھی مقدمہ ہے کہ آپ کو اس بات پر پورا عین ہو کر آپ کا ملبہ بوجائیں گے۔ اس لیے اگر آپ شبت ہوچے ہیں تو آپ شبت گٹکو کرتے ہیں اور آپ شبت گٹکو کرتے ہیں۔

آپ کے سچے کے اندرا اور آپ کے کدار پر اندرا ہوتا ہے۔ آپ کا احوال کردار اور آپ کے کام آپ کی زندگی پر اندرا ہوتا ہے۔

آپ کو حوالت میں ثبت موقتاً چاہئے۔ اس طرح سے آپ کا تخت الشعور آپ کی سوچ کی تصدیق کرتا ہے اور اسے حقیقت میں بدل دلاتا ہے۔ ای طرح سے اگر آپ تھیں تو آپ کا تخت الشعور، تھیر اور باطن اس سوچ کی حقیقت میں تبدیل کر دیتا ہے۔ اس لیے آپ کو چاہئے کہ ہر حوال میں ثبت سمجھیں اور اپنی ذات پر تینیں رکھیں۔ آپ بد اختار ہیں کہ آپ کامباٹ ہو جائیں گے اور پیچھے عمل کر لیں گے۔

جیدی تحقیقات سے یہ بات ہوتی ہے کہ ایک سچے کا 15 سالی عمر میں جوانی ذات سے خلیع تصور ہوتا ہے وہ اس کے معیار دہانت کی طبلہ برشے زیادہ اس کے مستقبل پر اڑانداز ہوتا ہے۔ 42 دن کے خلیع کامیکی مقدمہ کے پر آپ کے ذائقے میں مخفک تجدیل کر دے۔ جب ہم بہت گمراہی سے مراقب ہوتے ہیں تو ہم اس قابل ہو جاتے ہیں کہ ہم کی بھی کامبہ پوری تجوہ رکھیں اور اس سے ہمارے خلابت واسخ ہو جاتے ہیں۔ سچی ذات پر تینیں رکھے کا یہ بھی مقدمہ ہے کہ آپ کو اس بات پر پورا عین ہو کر آپ کا ملبہ بوجائیں گے۔ اس لیے اگر آپ شبت ہوچے ہیں تو آپ شبت گٹکو کرتے ہیں اور آپ شبت گٹکو کرتے ہیں اور آپ شبت گٹکو کرتے ہیں اور آپ شبت گٹکو کرتے ہیں۔

## دن وار ڈاڑھی لکھنے کا آسان طریقہ

ملال 26 دن۔

- مرافق اور تصورات کی مشن
- وروش کا پوگرام
- سگریٹ لائٹ سے پر ہیز
- شراب لائٹ سے پر ہیز
- ہمدردی کا کام
- شبت سوچ، الفاظ اور کام
- بازاری تیار کھانوں سے پر ہیز
- 26 دن کے لیے مقاصد
- .....  
1
- .....  
2
- .....  
3
- .....  
4

اس ترمیح چیخ کی خیاری کا آغاز کروں اور اس کے لیے طوں کی گئی شروع کردیں۔ میں آپ کو یہ بات تھی سے جیسے ہوں گا کہ آپ فرا چیخ شروع کرنے کی تاریخ مقرر کریں۔ آپ کوں اکم از کم کتاب پڑھنے کے 6 دن بعد اس چیخ کی شروع کرنا چاہیے۔ بعض اوقات میں آپ ہوتا ہے کہ آپ جوش و خوش میں آکر بغیر خیاری کے کام شروع کر دیجے ہیں۔ اس کے تینجے میں آپ جلدہ کام ہو جاتے ہیں اور آپ کو پہلی بار کام منا کرنا پڑتا ہے۔ آپ کوچاہیے کہ سب سے پہلے مخصوصہ شروع کرنے کی تاریخ کا قائم کریں اور ہمدردی طور پر اس کے لیے تیار ہوں اور پھر اسے شروع کرنے کے لیے دن تکمیل کر کے چیخ کی شروع ہونے میں کتنے دن باقی رہے گے ہیں۔ اس دو دن آپ اپنا روزانہ چمٹنے کا ساتھیں ہیں، وروش کا مجموعہ کر کے ہیں۔ جس جلدی اٹھنے کی کوشش کر سکتے ہیں، ہمدردی کا معمل کر سکتے ہیں۔ تجہب کلوٹی چھوڑ کر

## روزانہ ڈاڑھی لکھنے کا معمول

آپ کو اس چیخ کا دن بدن جائزہ لینے کے لیے ایک روزناچہ ہمانے (ڈاڑھی) کی ضرورت ہے جس میں آپ اپنے روزانہ کے کام لکھیں گے اور جس کے ذریعہ آپ اپنے مقصد کے لیے ترقی کی یا نئی کوششیں گے۔ اس میں اضافی بات ہے جوگی کہ آپ اس میں ان تمام کاموں کی شاخہ بھی کریں گے جو آپ روزانہ کرتے ہیں۔ اس میں آپ کی خوارک، وروش اور آپ کے مقصد کے حصول کے لیے کام کرنا شامل ہے۔

اگر آپ روزانہ کے کام ڈاڑھی میں لکھتے ہیں گے تو آپ کے لیے بہت فائدہ مند ہارت ہوگا۔ آپ اپنی روزانہ کی کارکردگی دیکھیں گے اور اسے بہتر بنائیں گے۔

اس ڈاڑھی سے آپ پرداخت ہوتا ہے گا کہ آپ اپنے مقصد کے حوصل کے لیے روزانہ کیا کوشش کر رہے ہیں۔ اس طرح سے آپ یہ بہانہ بنیں ہائیکس کے کفلان باتیں آپ کے کے دہن سے کل مگر تھیں یا آپ بہول گئے تھے۔

آپ ایک چھوٹی سی لوٹ بک لیں۔ شروع کے سخنے پر اپنا مقصد لکھیں جو آپ 42 دن میں حاصل کرنا چاہتے ہیں اور ساتھ ہی وہ مقاصد بھی لکھیں جو کہ بڑے ہیں، جنہیں آپ 42 دن میں حاصل نہیں کر سکتے ہیں۔ دوسری طرف آپ اپنا مقصد لکھیں اور باکیں طرف دن تاریخ اور کام لکھیں۔ جو کام آپ روزانہ کرتے ہیں اس پر نشان لگاتے جائیں۔

اس طرح سے آپ اپنی روزانہ کی کارکردگی دیکھیں گے اور اسکے لیے دن اپنی کارکردگی پہلے سے بہتر بنائیں گے۔

میں نے اس نظام کو بہت سادہ بنایا ہے۔ آپ کو صرف اس میں اپنے روزانہ کے کاموں کی شادی تھی۔ گلے سٹے ہے آپ کو بتایا گیا کہ روزناچہ کیے تیار کرتا ہے۔

® SCANNED PDF

26

7

تمہاری دل تھی میں

DI  
نوٹ

دولت، محنت، خوشی 42 دنوب کا عملی کورس

28

ہیں۔ اس طرح سے آپ اس چیخ کے قام پہلووں کا پہلے سے جو کہ کر لیں۔ اگر آپ پہلے سے ہی کام کی تاریخیں ہوں گے تو ہم کتاب ہے کہ آپ کو ایسا کرنے میں کچھ زیادہ مشکل ہیں آئے۔ آپ کو اس چیخ کے لیے تیار ہونے اور اس کا منصوبہ ہنانے کے لیے کام از کم سات دن پہلے سے تیاری کرنی چاہیے۔

آپ کو اس چیخ کی پہلے سے تیاری کرنی چاہیے۔ یاد رکھیں کہ کامیابی صرف قسمت کی وجہ سے حاصل نہیں ہوتی بلکہ اس امر کا نتیجہ ہے کہ آپ کامیاب کے لیے کام خصوصیتی ہیں اور بہ

## حصہ دوم

# 42 روز کے دن وار جوڑہ پروگرامز

®, SCANNED PDF By HAMEI  
کیلیٹ ون اردو کے شکر گزار پیں

اس پر کس طرح سے مل کرتے ہیں۔ اس لیے آپ بیلے کو دون جنچ کے لئے تاری کریں۔ اس کا نظام الادقات نہیں، کاموں کو صحیح ترتیب دیں اور پھر جنچ شروع کریں۔



پہلا ہفتہ  
پہلا دن

### وقت کی قیمت مقرر کریں

آپ میں سے ان لوگوں کو ایک نظام الادفات کے مطابق ہوائی سفر کرنے کا تجربہ ہوا ہے۔ جب آپ بگت خریدتے ہیں تب آپ کو پرواز کی روائی اور آمد کے وقت کا علم ہوتا ہے۔ اس اطلاع کے ذریعے آپ سفر کا وقت ترتیب دیتے ہیں۔ وقت پر مدد و نفع کی وجہ سے آپ پرواز کو دریجے ہیں، کوئی بھی آپ کا تغیر نہیں کرتا۔

بہت سارے لوگ فضائی ادارے کے لئے سبق حاصل نہیں کرتے۔ آپ اس فضائی ادارے کے لئے کوئی دیجیتی دینے تیز کر دیتے ہیں کہ وہ وقت پر سفر کرنے کی وجہ سے آپ کے ساتھ ہایا ہوا ہے۔ لیکن زندگی کے عام معاشرات میں یہ طریقہ کار احتیاط کرتے ہیں کہ اگر کوئی کام نہیں کر پاتے تو یہ کہ دیجے ہیں کوئی بات نہیں، یہم کام بعد میں کر لیں گے یا اس کا کوئی اور راستہ نہیں کیا۔ آپ کو ایک پوکلا دینے والی اطلاع دھان ہوں یہ واقعی اہم بات ہے کہ کوئی گزر ہاولی والی نہیں۔

پوکلوگ ایسے ہوتے ہیں جو وقت کا صحیح استعمال نہیں کرتے، وہ اپنی ساری زندگی سمجھ کر رسمی ہیں کہیں کہیں وقت پر کوئی کام نہیں کر لیں۔ یہم سے گمراہی اور بیرونی رسمی ہیں۔ کسی کوی طرح سے وہ اس بات کو قبول کرتے ہیں کہیں ان کی ذاتی ذمہ داری کی کوہ وہ وقت کو صحیح طریقے سے ترتیب دیتے۔ یہ ہماری پرمند ہے کہ ہم وقت کو کس طرح استعمال کرتے ہیں، پہاڑ طریقے سے یا ہمہ ممکن طریقے سے استعمال کرتے ہیں۔

جس طرح آپ اس کتاب پر مدد و نفع جائیں گے تو آپ اس بات سے واقف ہوں گے کہ زندگی میں وقت کی صحیح ترتیب اور پہنچیں استعمال ہماری زندگی میں کامیابی کے لیے اہمیتی اہم ہے۔ اپنے مقصود میں کامیابی کی رفتار یا پیمائش کرنے کا مرتفع طریقہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو وقت کے نظام میں رکھ کر اسے نہیں۔ پس ترقی کی صحیح پیمائش اور ان لینڈر کے ساتھ ہی ممکن ہے۔ کیلئے پر کام شروع کرنے، کام مل کرنے اور ان کے درمیان کی کوئی مناسب تاریخ مقرر کر لیں تاکہ اس طرح سے آپ اپنے کام میں ترقی کی پیمائش کر سکیں۔

### وقت کی کہانی

ہمارے وقت کی علمی کہانیوں میں سے ایک یہ ہے کہ وقت ہمارے پاس بہت زیادہ تقدیر

### وقت

”ذنجانیں ہمارا کچھ بھی نہیں، زندگی میں بھی صرف وقت میر آتا ہے جس کے پاس واقعی پکھ بھی نہیں، اس کے پاس بھی وقت کی دولت ہے اس کی قدر رکنی چاہیے۔“

(بانا تسری یعنی ہمکن کا ایک فلاہر (محمد حیات: 1601ء - 1658ء))

ناول کیلیٹ ون اردو کے شکر گزار پیں

ہم وقت کو ہر بے جواہرات اور دوسرا یاد اشیاء متناہی اہم نہیں کہتے جنہیں ہم وقت کے ساتھ ہم میں تہذیب کر سکتے ہیں۔ وقت ہماری تمام چیزوں سے زیادہ جنتی ہے۔ ہم اس حقیقت کے بارے میں اکثر غور نہیں کرتے لیکن ہم اسے ضرور جلم کرتے ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہماری زندگی میں بہت زیادہ وقت ہے لیکن حقیقاً اسی نہیں ہے جب ہم پیماہیتے ہیں تو جب سے ہی وقت کو رکنہ جاتا ہے۔ ہم اسے جن نہیں کر سکتے بلکہ اسے کہتے جاتے ہیں۔ گھری بروقت گزرتا جاتا ہے۔ ہم زندگی کی اس حقیقت کو بہت دیرے سے کہتے ہیں جب تک بہت زیادہ وقت گزرتا جاتا ہے۔ اگر ہم اسے صحیح طریقے سے استعمال کرنا جانتے ہوں تو وقت ہمارا دشمن نہیں ہے بلکہ ہمارا دوست ہے وقت بہت بھی اداشت ہے۔ اگر آپ وقت کا صحیح استعمال نہیں کرتے تو ہمہ دیگر یا آپ کے لئے خوبیوں کو کجا کہ دیتا ہے۔ اگر آپ بروقت کوئی کام انجام نہیں دیں گے اور وقت کا صحیح استعمال نہیں کریں گے تو آپ خود کو بہت بھی ایک صورت حال میں دیکھیں گے۔ وقت کا صحیح استعمال کر کے ہم کچھ بھی حاصل کر سکتے ہیں جو کہ ہم عموماً نہیں کر سکتے۔

وقت کا صحیح استعمال آپ کی زندگی کو اچھا اور مطمئن ہادیتا ہے اگر آپ وقت کو ترتیب دیں تو آپ کی زندگی بے ترتیب ہو جائے گی۔

سندھ زیادہ سریں اے اپ نیں جدید اپنا سرزاں پڑھ جائیں۔ بھاہرا پس ویہ بات غلط معلوم ہو گئی تھکن میں لوگوں کو مجھ کی بات جو رکھتا ہوں کہ آپ مخصوصہ طاقت دلتی نہیں کہ تو اپنے کس طرح عمل کریں یعنی کہ اپنے آپ کو منزل پر پہنچا ہوا محسوس کریں اور پھر اپنے حال کی طرف وابہیں مل کریں۔

اب آپ اپنے ایک طریقے سے بدیکھیں۔ آپ سب سے پہلے اپنے مقدمہ کا تصنیف کریں جسے آپ ہدف کر جو 42 دن میں حاصل کرنا چاہیے ہے۔ آپ کا مقدمہ جو کوئی بھی ہو آپ کو سب سے پہلے اپنے کاس کا داماغ ملود پر تصنیف کرنا ہو گا پھر واپس اس پر لیں کرنا ہو گا، میں اگر 42 دن میں آپ پارہ پڑھ دوں کم کرنا چاہیے ہے تو آپ کو حذف 21 دن میں کتنا کم کرنا ہو گا؟ اور 10 دن میں آپ کو تواتر 2 دن کم کرنا ہو گا۔ آپ کو نظام الادفات کے مطابق خوارک کمانے میں کیا عمل کرنا ہو گا؟ آپ کو تین دن یا سات دن کے بعد کی کارنا ہو گا؟ درحقیقت آپ کو اپنے بڑے مقدمہ کو حفظ کر جوئے متعارض ہے اور اس کے مطابق عمل کرنا ہو گا۔ میں اسی طریقے پر مل کرنا ہوں۔ اپنا مقدمہ کو لینے کے بعد میں روزانہ تجزی سے مقدمہ کی طرف پڑھتا جاؤں اور لیٹر کے طبق اپنے مقدمہ کی پیش کرنا رہتا ہوں۔

آپ اپنے مقدمہ کے لیے کوئی نظام الادفات کو تبدیل کر سکتے ہیں اور اسے دوبارہ سے ہائکے ہیں لیکن اگر آپ نے مقدمہ حاصل کرنے کے لیے کوئی نظام الادفات نہیں تو آپ کا مایاب نہیں ہو سکتے۔ جب آپ اپنا مطابق مقدمہ حاصل کرنے کے لیے وقت کو ترتیب دیں گے تو اس سے اہم دو سوال یہ پیدا ہوتے ہیں کہ اب کہاں؟ کہ آپ کہاں جانا چاہیے ہیں؟ اور آپ دہاں کب پہنچانا چاہیے ہیں؟ جب ایک بار آپ اس حالت علی کو صحیح جائیں گے تو ہم آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ آپ کس طرح مخصوصہ ہاتا ہے، پھر آپ اپنے مقدمہ میں آگے بڑھتے جائیں گے اور اسے کیلئے پیش کر لیں گے کہاں بدن کتی ترقی کر رہے ہیں۔

آپ اکثر اس بارے میں سوچتے ہوں گے کہ آپ اپنی کوئی زندگی میں دوسری جائیں اور وقت کو اور ان لمحات کو دوبارہ زندہ کریں جو گزر چکے ہیں۔ آپ ان لمحات کو اپنے تجربے اور عقلىٰ نتام پر دوبارہ گزانتا جائیں گے تاکہ آپ پہلے سے بہتر فیلمے کر سکیں اور پہلے سے بہتر وقت گزاریں؟ ہم جانتے ہیں کہ سنا تکن ہے لیکن آپ کے پاس اب زمانہ حال موجود ہے۔ میں اسے ضائع نہ کریں، اس وقت کا صحیح استعمال کریں تاکہ آپ زندگی میں اپنا مقدمہ حاصل

ہم اس حقیقت سے واقع ہوتے ہیں کہ گھری ملک رہی ہے اور وقت گزرا رہا ہے اور ہم پھر بھی کام نہیں کرتے اور انہیں کی اور وقت کے لیے رکھ لیتے ہیں۔ جب بھی ہم اپنے آپ کو قائل کرتے ہیں کہ ابھی ہمارے پاس بہت سارا وقت ہاتی ہے۔ آپ اپنے وقت کو ترتیب دیں یا اسے ضائع کریں۔ یہ آپ کی اپنی حریضی ہے۔

وقت ایک سر برایہ ہے، دولت، اچھی صحت اور دوستوں کی طرح یہ ایک ایسا برایہ ہے جسے آپ استعمال کر سکتے ہیں لیکن جب یا ایک مرتبہ گزرا جائے تو وہ بارہ کمی بھی والیں نہیں آتی۔ تجہی کی بات یہ ہے کہ لوگ اکثر موافق پر اکٹھے ہوتے ہیں اور جب بھی وہ کسی بات کا ذمہ کرتے ہیں تو وہ اپنے ماضی کا ذمہ کرتے ہیں یا اپنے ماضی کے ہمارے میں بات کرتے ہو جو کہ گزرا ہوتا ہے۔ نہیں آپ اپنے حال میں عیرین اور اسے بہتر بنانے کی کوشش کریں، آپ لا سٹبل ٹوڈی سورج رہ جائے گا۔ آپ تصور کریں کہ آپ کے پاس پانی کا ایک بڑا بارہن ہے جس میں بہت زیادہ پانی کا ذمہ ہے اور اسے لے کر آپ نے ایک حصار سے گزرا ہے۔ کیا آپ اس پانی کا بارہا اپنے سر دھونے اور اپنے آپ کو توترازہ کرنے کے لیے استعمال کریں گے؟ آپ اسے بہت اختیاط سے استعمال کریں گے تاکہ حصار ختم ہوئے سے پہلے آپ کا بیٹھنے کے لیے باقی ختم کو جو جائے کہ آپ کی زندگی کو پانی ختم ہونے کی وجہ سے کوئی خطرہ نہ ہو؟ اگر آپ اپنے وقت کو صحیح ترتیب نہیں دیں میں کتو اس سے آپ کی زندگی کو تو کوئی خطرہ نہیں ہو گا بلکہ اس سے آپ اپنی زندگی نہیں گزار سکیں گے جیسا آپ چاہیے ہیں۔

میں یہ سمجھتا ہوں کہ تمام لوگ آزاد ہیں، میں ان لوگوں میں سے نہیں ہو جو جو ہمیں مخفون کے لیے گھری کے مطابق ایک نظام الادفات نہیں ہے اور اس پر بختی سے عمل کرتے ہیں اور کوئی کام بھی اپنی نظام الادفات کے مطابق اپنی حریضی سے نہیں کر سکتے۔ ہر انسان کو زندگی میں بے شمار موانع ملتے ہیں لیکن یہ بہت اہم بات ہے ہمیں سب سے سلسلے روزمرہ خود ریات اور اہم کاموں کے لیے وقت کو صحیح ترتیب دینا چاہیے تاکہ ہم یہ جان سکیں کہ ہم کسی زندگی گزار رہے ہیں اور ہماری منزل کیا ہے؟ بھی وجہ ہے کہ ہمارے پاس کیلئے اور ذمہ اور موقوفہ ہوتی ہیں ان پر ہم اہم معلومات حفظ کر سکتے ہیں اور ضروری فون نمبر لکھ رکھتے ہیں کیونکہ ہم جانتے ہیں اگر ہم وقت کو صحیح ترتیب دیں جس کی آپ پلاش میں ہے۔

34 دوست بھت، خوش 42 دنون کا عملی کورس  
کرنے کے لیے زیادہ موثر طریقے پہاڑیں۔

آپ اپنے سٹبل پر گور کریں اور اپنا تمام علم استعمال میں لا کر وقت کو صحیح ترتیب دیں تاکہ آپ اپنا مقدمہ حاصل کرنے کے لیے زیادہ موافق حاصل کریں اور زندگی میں کامیابی حاصل کریں جس کی آپ پلاش میں ہے۔

یاور کھیں!

ایسے وقت کو صحیح ترتیب دیں اس طرح آپ اپنی زندگی کی صحیح طرز سے لے زاریں گے۔  
زندگی میں اپنا نظام الادفات کریں اور اس پر بختی سے عمل کریں۔

## وقوعات

”زندگی زیادہ تر امیدوں، آرزوؤں اور توقعات سے عبارت ہے۔“  
(ہور لیں، پہنچی شارع احمد حیات: ۸۵ قتل کی)

آپ سے کافی لوگوں نے یہ بات کیوں ہو گئی کہ ”یہ بھی شجولیں کہ آج کا دن آپ کی بھی زندگی کا پہلا دن ہے۔“ اس شہر جملے میں موجود جانی میسے ہوشیار رہتی ہے۔ میں آپ کو یہ بات ملتا جاتا ہوں گے اپنے ماہی کی ناکامیاں بھلا دیتا آپ کے لیے کس قدر اہم ہے۔ ان بالوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے کہ آپ کتنی دفعہ تاکام ہوئے ہیں اور آپ نے اس ناکامی کو کس حد تک محروم کیا ہے۔ یہ بات کوئی اہمیت نہیں، لیکن آپ نے یا میکھی کی تھیں کہ آپ کے لیے تیکا مدد میں کیا ہے جسے اس ناکامی کو ادا کر دیا جائے۔ اسی لیے آپ ان کاموں کے ساتھ چڑھ رہے رہیں گے تو یہ بات مستقبل میں بھی آپ کی توقعات کو تاکام کر دے لی۔ اسی لیے آپ نے صرف آگے بڑھتا ہے۔ نیشنریات کرنی ہے جو کہ آپ کی زندگی میں بہت بدھ طیاں لائے گی۔

اگر آپ ناکامی کی توقع کریں گے تو آپ یقیناً ناکام ہوں گے اور اگر آپ کامیابی کی توقع کریں گے تو آپ یقیناً کامیاب ہوں گے۔

ہم میں سے اکثر لوگ مانی کی ناکامیوں کو بہت زیادہ اہمیت دیتے ہیں اور اپنی شخصیت کو ان خیالات میں ڈھال لیتے ہیں۔ یہ چیز ان کی توقعات پر اثر انداز ہوتی ہے۔ یہ قدرتی بات ہے کہ انسان کو اپنی ذات کے بارے میں تھوڑا سا سمجھ ہوتا ہے جو کہ ہماری ماضی کی ناکامیوں کی وجہ سے ہوتا ہے لیکن اگر ہم اپنی ماضی کی ناکامیوں پر توجہ رکوز کریں گے اور ان کے بارے میں بار بار

37 دولت، بحث، خوشی 42 دنون کا اعلیٰ کورس  
○ باتی کے 41 دن آپ کی بھی حکم کی صورت حال کا سامنا کر کے اپا مقدمہ حاصل کر لیں گے۔

□ آپ کی اندر تمام صلاحیتیں موجود ہیں کہ آپ اپا مقدمہ حاصل کر کے اپنی پسند کی زندگی گزار سکیں۔

□ آپ کے ہاتھی کے تجربوں اور یادوں کا اس بات سے کوئی تعلق نہیں ہے جو کہ ابھی آپ کر رہے ہیں یا مستقبل میں کریں گے۔

آپ سرفراز اپنے حال اور موجودہ لمحے پر تجربہ کرو کریں، اپنی ذات کا پرانا تصور بدال کرائی زندگی کے نئے سفر کا آغاز کریں۔

جب آپ کو یقین ہو جائے گا کہ آپ کا ملاب ہو سکتے ہیں تو آپ کا کامیابی کی طرف سفر کا آغاز شروع ہو جائے گا۔

### یاد رکھیں

آپ کے پاس وہ تمام ذرائع موجود ہیں۔ جن کی بنا پر آپ زندگی میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اس سے قطع نظر کا پ کیا سمجھایا گیا ہے یا آپ کا اس بارے میں کیا عقیدہ ہے۔

### آج کے دن

یاد رکھیں کہ آپ کی ہاتھی کی ناکامیاں صرف ہاتھی کا حصہ ہیں۔ ان کی بنا پر آپ اپنے مستقبل کے ہارے میں یہیں کوئی نہیں رکھتے۔

® SCANNED PDF By HAMEEDI  
ناول کہلیتے ون اردو کی تحریک گزار ۳۵

36 دولت، بحث، خوشی 42 دنون کا اعلیٰ کورس  
سوچیں گے تو یہ مظہر مستقبل میں ہماری ناکامی کا باعث بن جائے گا۔

ہم میں سے اکثر لوگ ہاتھی کی ناکامیوں کو ایک عادت میں کرنا ہے ایسے ہیں۔ یہ ناکامی آپ کے تخت اشتو� میں اتنی مضبوطی سے بیٹھ جاتی ہے کہ آپ اس سے آ گا جنہیں ہوتے۔ آپ یہ بات ذہن میں کر لیں کہ آپ کی مستقبل سے وابستہ وقایت کو مدد کر جائے گا جس کا تینجی 42 دن کے بعد سامنے آئے گا۔ آپ کو اب اس ہدف کا سامنا ہے کہ آپ اپنے ہاتھی کی ناکامیوں کی وجہ سے آپ کی تقدیر کو دشمن تو قوایت میں تبدیل کر دیں۔

یہ بات بہت اہم ہے کہ آپ اس تجدیلی کے درمیں بہت بہت بہت امیدوں کے ساتھ داشٹ ہوں تاکہ اس کا تینجی صرف کامیابی کی صورت میں لٹکے۔ آپ اپنے ذہن کو اس بات پر مرکوز رکریں کہ یہ بات بہت اہم ہے کہ آپ کو اپنے مقدمہ کے حصول میں ٹکڑی کا سامنا بھی کرنا پڑے گا لیکن آپ مقدمہ کے حصول کے لئے قلم و پنیط اور پاندی کے ساتھ میں کر جائے گا۔

**آپ کی تو قوایت مقدمہ کے حصول پر اثر انداز ہوتی ہیں**

آپ اپنے ہاتھی ہاتھیوں کو بہت بہت بہت امیدوں کے ساتھ داشٹ زندگی میں بہت تبدیلی لا سکتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم اور صرف اکیلم عی اپنی زندگی میں ہوئے والے وقایت کے مددوار ہیں اور ایسیں اس کے لیے دوسروں لوگوں سے سماں اور مدد و دلیل مانگی جائے۔ آپ کو خوبی یہ بات دریافت کرنی ہو گئی کہ آپ کے اندر اچھی زندگی میں اترنے کے لیے ہر صورت کی تبلیغات اور لوازمات موجود ہیں۔

پس اگلے 41 دن میں آپ کی ہاتھی کیفیت عی آپ کی کامیابی یا ناکامی کا ذریعہ بنے گی۔

جب آپ اپنی ہاتھی کیفیت کو یہ رکھیں گے تو آپ کا کام صحیح طریقے سے ہی انجام پائے گا۔ آپ کو صرف اس بات کا یقین ہوتا چاہیے کہ آپ پر کام کر سکتے ہیں۔ آپ میں اپنا مقدمہ حاصل کرنے کی صلاحیت موجود ہے۔ اس طرح آپ سب سے پہلے اپنے پہلے کرنے والے کام کو فویت دیں۔ آج میں آپ کو یہ بات یاد کروانا چاہتا ہوں کہ آپ کامیابی حاصل کرنے جا رہے ہیں۔ آپ کی کامیابی آپ کے مستقبل میں پہلے سے ہی موجود ہے اور آپ اگلے 41 دن اس کامیابی تک پہنچنے کی تیاری کریں۔

○ پہلے دن آپ کی بھی وقت بیٹھ کر اس بات پر تجدیر کریں کہ آپ کے مطلوبہ مقدمہ کے حصول کے لیے آپ کو چیخ کا سامنا کرنا ہے۔

38 دولت، بحث، خوشی 42 دنون کا اعلیٰ کورس

بے شمار یہ تجربہات اور واقعیات روشناء ہوں گے جو ہماری ثابت سوچ کی وجہ سے کامیابی کی تحدیق کریں گے۔ بحث امداز سے سوچنے والا نفس صرف بحث امداز میں ہی زندگی کو دیکھتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر بحث امداز میں سوچنے والا نفس ہارش میں ایک بہن طالب پر کھڑا ہوتا ہے اور سواریوں سے بھری ہوئی ایک بہن اس کے پاس سے گزرتی ہے اور ناڑوں سے اس نفس پر پانی گرا کرتے ہجودتی ہے۔ ایک لمحے کے لیے اس نفس کو ہٹھے نہیں گا ایک لمحے کے لیے ہمیں اسکے لئے بھی دھمکی دیں۔ حقیقت رکھ کر سوچنے والا نفس اس بات سے قطع نظر یہ سوچ گا کہ وہ پانچ کوٹ جو گلاب ہو چکا ہے ملا کی کے لیے بھی دھمکی دیں۔ حقیقت رکھ کر سوچنے کے ساتھ اگر ایسا واقعیتیں آیا ہو گا تو وہ نفس بہن طالب پر کھڑا ہو ہوئی سوچے گا کہ اس کے ساتھ ہمیشہ ایسے واقعات ہیں کہ وہ سوچتے ہیں؟ حقیقت سوچ کا مال نفس واقعیات کو صرف دماغ کے حقیقی رویے میں رکھ کر دیکھے گا۔ جیسی اگر آپ نے فہرط کر لیا ہے کہ آپ نے اپنی تحدیق تو قوایت، کاموں اور سوچ میں 100% فائدہ بحث امداز میں ہیں سوچتا ہے تو آپ کو خود سے مناسب معلومات اکٹھی کرنا ہوں گی جن پر مل کر کے آپ کا اصرار ہیٹھ اچھا ہے اور آپ بحث سوچ پر تجدیر کر سکس۔

آپ کارویہ 100% فائدہ آپ کے قابوں ہے۔ بھیجن میں آپ کے والدین، اساتذہ اور بزرگ آپ کو حقیقی رویے کی وجہ سے سب کے سامنے ڈاٹ دیتے ہیں۔ اس طرح آپ کے ذہن میں اس حقیقی رویے کی تصور اور تاثر اور بھی مضمون ہو جاتا ہے۔ اگر ایسا ہے تو اس حقیقی رویے سے پہنچا رہا حاصل کریں۔ یہ بہت عی آسان اور ضروری ہے۔

حقیقی رویے سے پہنچا رہا حاصل کریں

آپ اپنے حقیقی رویے کی وجہ سے تبدیل کریں گے؟ آپ جب بھی چاہیں اسی وقت آپ حقیقت سوچ کو ذہن سے بھک کر لیں ہیں۔ یہ دوسرے لوگوں کی ذہن داری نہیں ہے، یہ آپ کی اپنی ذہن داری ہے۔

® SCANNED PDF By HAMEEDI  
ناول کہلیتے ون اردو کی تحریک گزار ۳۵

38 دولت، بحث، خوشی 42 دنون کا اعلیٰ کورس

پہلا ہفتہ

تیسرا دن

### سو فیصد بحث سوچے

”بقھنگی، زندگی دلی، خوش پاشی اور رمق ترکی کے امکان رکا دار دہار ہمارے گرد وہیں کے حالات و واقعیات کے تعلق ہماری اپنی کیفیت ہوتا ہے۔“

(شرکت برائے مشہور ادب اعہدیات: 1816ء تا 1855ء)

اس بات کا اندازہ لگایا جا چکا ہے کہ ہمیں زندگی میں کامیابی کے لیے جس محارت کی ضرورت ہوتی ہے۔ وہ اسی (80%) فیصد محارت ہمارے رویے پر مشتمل ہوتی ہے۔ اس رویے میں آپ کا ارادہ، کام کی پابندی، مقدمہ، نیت، مقدمہ کی شناخت، بحث اور خدا پر توکل شامل ہیں۔ ہاتھی میں (20%) فیصد محارت جو ہم سیکتے ہیں یا جو ہمیں سمجھائی جاتی ہیں وہ فی صرفت اور پہلے سے متعلق معلومات پر مشتمل ہیں۔

میں چاہتا ہوں کہ آج آپ اس بارے میں سوچیں کہ آپ کے رویے کا آپ کی زندگی کے تجربات پر کیا اڑ ہے؟ آئیے ہم 80% رویے پر مشتمل ہمارت پر غور کر تے ہیں۔ سب سے پہلے میں یہ بات واضح کر دوں کہ آپ کارویہ 100% آپ کے اپنے قابوں ہے۔ میں ڈال کا سوال یہ ہے کہ: کیا آپ کارویہ بحث ہے یا حقیقی ہے؟

اگر آپ بحث سوچیں گے تو آپ بحث رویے ہی اختیار کریں گے

سچن کا اپ کا ایسے ہیں یا آپ کے ساتھ ہمچنانی ہوتا ہے۔ آپ اپنی زندگی میں تنقی انداز میں سچنا ہمچنانکے لئے چوڑا دیں جو کہ بہت آسان ہے۔

انسان لی فیصلات اس امر لفظاً ہر رنی ہے کہ آپ کا ثابت رویہ اور حق دل اور واقعات کو دیکھنے کا ثابت انداز آپ کی قابلیت کو اور زندگی میں آپ کے کام میں کامیابی کے امکانات کو بہت زیادہ پڑھا جاتا ہے۔ اگر تم ثابت واقعات رکھنے کے اور ثبت انداز سے زندگی کو دیکھیں گے تو سارے دن میں

#### 41 دولت، محنت، خوشی 42 دنون کا عملی کورس

یادگیں کہ آپ کا رویہ سو (100) فیصد آپ کے قابو میں ہے اور آپ کا رویہ آپ کے خیالات پر انداز ہوتا ہے۔ خیالات کام پر انداز ہوتے ہیں اور بالآخر یہ تنقی پر انداز ہوتا ہے۔

#### آج کے دن

آپ یہ بات طے کر لیں کہ آپ زندگی کے تمام پہلوؤں کے بارے میں ثبت انداز سے سوچنے گے۔



#### 40 دولت، محنت، خوشی 42 دنون کا عملی کورس

ثبت انداز میں سوچنے، ثبت ٹنکوگریں اور ہمیشہ ثبت رویہ اختیار کریں آگر آپ تنقی انداز میں سوچنا چوڑدیں گے تو اگر ہمتوں کا ہدف آپ آسانی سے حاصل کر سکتے ہیں۔ اگر آپ اپنی سوچ اور رویے پر قابو پائیں گے تو آپ اپنی زندگی پر بھی پر بھی دوبارہ سے قابو حاصل کر لیں گے۔

حقیقت یہ ہے کہ آپ اور صرف آپ ایکی ہی اپنی سوچ، احساسات اور جذبات کے ذمہ دار ہیں۔ اگر آپ اپنی سوچ، احساسات اور جذبات کو ثبت کر لیں گے تو آپ کی زندگی میں محبور سے روشن ہوں گے۔ یہ بات بہت واضح ہے اور نہیں کی جسے بڑی چالی ہے۔ آپ لوگوں کے روایوں سے حاصل ہوں۔ بہتر ملکیں رہیں اور ثبت انداز سے سوچنے۔ آپ صرف لوگوں کی بات سن سکتے ہیں، وہ جو کہ بھی ہیں اور جو کہ بھی بھیں، لوگوں کو اس بات کی اجازت زندگی کروہ آپ کی شخصیت پر انداز ہوں۔

ثبت رویہ اختیار کرنا بہت آسان ہے۔ ثبت رویہ ہمیشہ ثبت سوچ اور ثبت

منانگی پیدا کرتا ہے۔

ہر وقت اور ہر مقام پر سو (100) فیصد ثبت سوچنے اور ملکیں رہیں۔ جب کبھی بھی لوگ آپ سے سوچنے کہ آپ کیسا گھوسنے کر رہے ہیں؟ آپ ہمیشہ یہی جواب دیں کہ ”میں بہت اپنے گھوسنے کر رہا ہوں۔“ ثبت الفاظ استعمال کیجئے۔ آپ جو الفاظ اُنگی بولتے ہیں آپ کا ذہن اسے بھی کچھ کو خود کر لیتا ہے۔ آپ کا ذہن وہی کام کرنے کی کوشش کرتا ہے جو کہ وہ بارہا رہتا ہے۔

#### بیک وقت ثبت اور منقی رویہ اختیار کرنا ممکن ہے

ہمیشہ یاد رکیے کہ آپ کے اپنے اختیار میں ہے کہ آپ واقعات کو کس نظر سے دیکھتے ہیں۔ اگر آپ ثبت انداز میں سوچنا، بولنا اور کام کرنا شروع کر دیں گے تو آپ کی زندگی میں ثبت تبدیلی آجائے گی۔

#### 43 دولت، محنت، خوشی 42 دنون کا عملی کورس

اپنی ذات کو اہمیت دینے کا مطلب یہ ہو گز نہیں ہے کہ آپ میں بہت زیادہ خود پسندی آجائے یا آپ خود کو بالکل ہی بیکار کچھ نہ لگ جائیں۔ اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ آپ کو اس بات کا لفظ نہ ہو جائے کہ آپ اپنی زندگی کو واقعی اہمیت دیتے ہیں۔

#### اپنے آپ کو اہمیت دیجئے

آپ میں سے جس شخص کو بھی بچوں کے ساتھ کام کرنے کا اتفاق ہوا ہو گا وہ جانتا ہو گا کہ بچوں کو یہ بتانا لکھا ضروری ہے کہ وہ بہت اہم ہیں اور وہ بہت قیمتی ہیں اور اسی لئے انہیں بچا کیا جاتا ہے، وہ بیمار کرنے کے قابل ہیں اور ان کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ سب سے پہلے بچوں کو کامیاب ہونے کے لیے الفاظ میں بتایا جاتا ہے، مگر انہیں پڑھنے اور سمجھنے کے بارے میں بتایا جاتا ہے۔ ہم ان میں کامیاب کا احساس پیدا کرنے کے لئے ان کی حوصلہ فراہمی کر رہے ہیں اور ہم ان پر اعتماد کیا جاتا ہے تاکہ وہ زندگی میں زیادہ سے زیادہ کامیابی حاصل کر سکیں۔ میرا خود کو اہمیت دینے کا احتکار کیا ہے۔ آپ وہ کام کر رہے ہیں جو آپ نے آج سے پہلے نہیں کیا، آپ کامیابی کا منصوبہ بنایا کر اس پر ہر لمحے تجھ سے عمل کر رہے ہیں؟ ایسا کرنے سے دن بدن آپ کا اعتماد، آپ کی عزت اور آپ کا ذاتی قصور بہتر ہوتا جائے گا۔ آج میں اس خیال پر رہنی والوں کا کہ آپ کو اپنی ذات کو اہمیت دینے کی ضرورت ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ جب آپ اپنے کاموں کی ذمہ داری خود اغاثات شروع کر دیں گے۔ وفت مقررہ کے مطابق کام کریں گے اور زمزمه زندگی میں مخلکات کا سامنا کریں گے تو آپ کی زندگی میں

#### 42 دولت، محنت، خوشی 42 دنون کا عملی کورس

پہلا ہفتہ  
چوتھا دن

#### خود اپنی قدر کیجئے

کم کارکدی کی اصل وجہ یہ ہوتی ہے کہ اسی اور صائمی میں کمی رہ جاتی ہے۔ (بعض اوقات ہم اپنی صلاحیتوں کا بھی اور اس میں کمی رہ جاتے) سیکول سائلر، صفت (محمد حیات: 1812 تا 1904)

محض پورا لیکن ہے کہ آپ نے تی شروعات کر لی ہیں اور ثبت سوچ کے دریے خود پر قابو حاصل کر لیا ہے۔ آپ وہ کام کر رہے ہیں جو آپ نے آج سے پہلے نہیں کیا، آپ کامیابی کا منصوبہ بنایا کر اس پر ہر لمحے تجھ سے عمل کر رہے ہیں؟ ایسا کرنے سے دن بدن آپ کا اعتماد، آپ کی عزت اور آپ کا ذاتی قصور بہتر ہوتا جائے گا۔

آج میں اس خیال پر رہنی والوں کا کہ آپ کو اپنی ذات کو اہمیت دینے کی ضرورت ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ جب آپ اپنے کاموں کی ذمہ داری خود اغاثات شروع کر دیں گے۔ وفت مقررہ کے مطابق کام کریں گے اور زمزمه زندگی میں مخلکات کا سامنا کریں گے تو آپ کی زندگی میں

اس فصل پر اثر انداز ہوں گے۔ ہمارے الفاظ کس طبق اثر انداز ہوتے ہیں؟ ہم میں سے اکثر لوگ ہمارے میں نہیں جانے پہنچیں ہیں، بھیش دوسرے لوگوں کے احساسات کا خیال رکھتے ہوئے بات کرنی چاہیے کہ انہیں ٹھیک سپتیج اور ہمارے الفاظ کا ان پر بثت اثر مرتب ہو۔ ہم دوسرے لوگوں کے ساتھ ہمدردی کا جو برداشتی کرتے ہیں، وہ کافی مدت بعد سکھتا اثر برقرار رکھتا ہے۔ آپ اپنے خیالات اور کاموں سے دوسرے لوگوں کی زندگی پر اثر انداز ہو سکتے ہیں۔ اس لیے ہمدردی ہے کہ آپ اپنی ذاتی اہمیت کو جانیں، آپ آج جو کام بھی کریں گے وہ صرف آپ کی اپنی ہمکدوں سے لوگوں کی زندگی پر بھی اثر انداز ہو گا۔

® SC ۳۴

میں بہت بڑی تہذیبی آجائے گی اور اس طرح سے آپ کی زندگی پہلے سے بہت بہتر ہو جائے گی۔

آپ کی زندگی میں سب سے اہم فضیل کون ہے؟

آپ غالباً فراہمی جواب دیں گے کہ آپ کے والدین، شوہر، بیوی، بیخ یا آپ کا بزرگ دوست جس کا آپ کی زندگی پر بہت گہرا اثر ہے۔ یہ بہت اچھا اور سچی جواب ہے لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ مختردانداز سے سمجھیں۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ اس طرح سمجھیں اور یقین کریں کہ آپ "خود" کی وجہ کا ہم تین فضیل ہیں۔

آپ خود میں فضیل ہیں جو اپنی زندگی میں بہت زیادہ اثر انداز ہوں گے۔

45

دولت، محنت، خوشی 42 دنوب کا عملی کورس

44

دولت، محنت، خوشی 42 دنوب کا عملی کورس

یاد رکھیں کہ

آپ کا کام صرف آپ ہی کی زندگی پر نہیں بلکہ دوسرے لوگوں کی زندگیں پر بھی اثر انداز ہوتا ہے۔

آج کے دن

آپ چاق پونڈ ہو جائیں گے، بثت انداز میں سچنا شروع کر دیں گے اور ہر حکم کی صورتحال میں اپنے آپ کو اہمیت دیں گے۔



## ثبت خیالات

"ہمارے الفاظ ہمارے خیالات کی علاوی کرتے ہیں۔ ہماری ٹنکیوں میں ہمارے خیالات کا معیار مضمون ہوتا ہے۔"

ہنری اور پیپر، امریکی پادری (مهدیات: 1887 تا 1813)

دوسرے لوگوں کے ساتھ بات کرنے کا سب سے عام طریقہ زبان ہے، ہم ٹنکوں کے ذریعے ہی لوگوں سے بات کرتے ہیں۔ اسی طریقے کے ذریعے ہم اپنے خیالات اور ارادوں کا اعلان کرتے ہیں۔ ہم اس بات سے واقع ہوتے ہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں، کس انداز سے کر رہے ہیں اور دوسرے لوگوں پر ہماری بات کا کیا اثر ہو گا۔ بہت سارے دکاندار، سیاست دان اور عالم لوگوں کی اس بات سے واقع ہیں کہ موڑ انداز ٹنکوں پاہیجا جائے تو لوگ اپنے کام کی کارکردگی پر حاصل ہے اور بہتر طریقے سے لوگوں کو اپنایا خیال پہنچا سکتے ہیں۔ جو بات ہم اپنے تجربے کی بنابر کرتے ہیں وہ ٹھیک ہوتی ہے۔ ہمارا اپنی ذات کا تصور اور ہمارے ماضی کے تجربات بھی ہماری ٹنکیوں پر اثر انداز ہوتے ہیں۔

اپنے بارے میں بھیشہ بثت انداز میں سمجھیں

روزمرہ زندگی میں مجھے بے شمار ایسے لوگ ملتے ہیں جو انہی غلطیوں کی وجہ سے خود کو کوئے رنجیں۔ وہ خود کو سدار شہر اتے ہیں میں نے کاروباری اجلاسوں کے بعد اکثر لوگوں کو کہتے ہوئے تاہے کہ "میں اپنی احتیاط ہوں، یہ سبیری غلطی کی وجہ سے ہی ہوا ہے۔" یہ ٹھیک ہے کہ اس اجلاس میں جو کچھ بھی ہوا وہ اس کی وجہ سے جذباتی طور پر بہت پریشان ہیں لیکن ان کا خود کے بارے میں یہ الفاظ استعمال کرنا صحیح نہیں ہے۔ اب اگر آپ کے اپنی ذات کے بارے میں الفاظ غلط ہیں تو آپ کی سوچ اور شوری الفاظ بھی غلط ہوں گے۔ اپنے اندر کی ٹنکیوں کو جو کہ آپ اپنی ذات

® SCANNED PDF By HAMEEDI  
نماول کیلئے ون اردو کی تحریر کیا جائے ہے۔

F By HAMEEDI  
نماول کیلئے ون اردو

47 دولت، محنت، خوشی 42 دنوب کا عملی کورس

علوم، اسے آپ جو تاریخ ہیں یہ ویعنی تصور ہیلایتا ہے، اگر ہم اس میں بثت تصور، بثت سوچ اور بثت احساسات نہیں بھریں گے اس کا تجہیز بھریں ہو گا، پس اگر آپ بثت تجہیز چاہیے ہیں تو بھی بثت ذاتی تصور کو تکمیل دیں۔

ٹنکیوں میں بے شمار بثت باشی تھاں جاتی ہیں۔ ہمیں ہر روز بہت ہی اسکی باشی تھاں جاتی ہیں کہ تم اچھے ہیں، چست و پالاک ہیں، بہادر ہیں، خوبصورت ہیں اور اس طرح کی بہت کی باشیوں سے ہماری بہت بڑھائی جاتی ہے۔ ان یا توں سے ہمارا ذاتی تصور بہت اچھا ہو جاتا ہے۔ ٹنکیوں کے کوہاں کی عرکے بچوں کا ذاتی تصور، بہت اچھا ہوتا ہے۔ وہ یہ تجھے ہیں کہ وہ بہت سے کام کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ جب بھی کسی بچے سے پوچھا جائے کہ وہ یہ اونکر کیا ہے گاؤں اور پتھر پتھر یہی جواب دیتے ہیں کہ وہ بچے ہو کر پاٹک، رقص، سپاٹی یا بہت بڑا ہم درجے کے کام کر رہا ہے۔ ان بچوں کی سب سے بڑی صلاحیت ان کا ذاتی تصور ہوتا ہے جو کرانک کے والدین اور پیار کرنے والے ان کی مصلح حوصلہ افزائی کر کے بناتے ہیں۔ اس طرح جب ہم بچے ہوئے جاتے ہیں تو بثت حوصلہ افزائی، تھی وہی میں تبدیل ہوئی راتی ہے کیونکہ عمر بڑھنے کے ساتھ اتنے ملے۔

دولت، محنت، خوشی 42 دنوب کا عملی کورس  
سے کرتے ہیں۔ آپ اس ٹنکیوں کو تکمیل نہیں، کیونکہ یہی ٹنکیوں کے ذاتی تصور کو تکمیل دیتی ہے۔ اس کا سب سے زیادہ طاقتور اور سچی طریقہ سمجھیا ہے کہ آپ اپنی ذات کے بارے میں بھیشہ بثت انداز میں سمجھیں اور اپنی ذات کی بثت انداز میں تقدیم کریں۔

اپنے آپ سے بثت ٹنکیوں کریں

اگر آپ کوئی کام صحیح طریقے سے انجام نہ دے سکیں تو اپنے ذہن میں اپنا غلط تصور رہ جائے گی۔ اس صورتحال سے بچے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے بارے میں بھیشہ بثت سوچیں اور اپنی ذات کا بثت انداز سے افرار کریں۔ اس افرار میں سچائی ہوں گے۔ یہ بثت اور سچھروں کا چاہیے جس سے آپ کے ذاتی تصور کو تکمیل کے لئے آپ سے جب کوئی غلط ہوتا ہے اس کا آپ کویے الفاظ استعمال کرنے چاہیں جیسے کہ میں احتیاط ہوں یا یہ کہ میں بھیشہ کام ہوتا ہوں۔ آپ کویے الفاظ استعمال کرنے چاہیں کہ میں ایسا ہیں ہوا جیسا ہونا چاہیے تھا۔ مجھے اس سے کامیاب حاصل کرنا چاہیے۔ بھیشہ اپنے اٹھار کریں کہ میں قابل انسان ہوں، میں

۷۰۵۸۷۳۶۷ سے ۷۳۷۷ سے ۷۳۷۴ تک  
تم بثت گنگوڑ بثت ذاتی تصویر یا لیتے ہیں، بثت گنگوڑ کریں اور بثت  
روپے کو گلکل دیں۔

جب آپ غلی طور پر اپنی خصیت کے بارے میں بثت گنگوڑ دفع کر دیں گے تو یہ بات  
یاد رکھیں کہ آپ شعوری اور بارے میں بثت ذاتی تصویر گنگوڑ دے رہے ہیں۔ آپ اس بات پر  
یقین رکھیں کہ آپ مستقبل میں کامیابی سے ہمارا ہوں گے۔ میں اپنی ذات کے تجھے ایمان اور  
رہیں، میں آپ کو حکمت دیں، اگر آپ چھوٹی کریں گے، وہ جو دیں کے اور یہ کام کریں  
گے تو آپ کی ذات کی بثت گنگوڑ نہیں ہو گی کیونکہ آپ وہ کام ہیں کہ رہے ہوآپ کو کہنا چاہیے۔  
آپ کو اپنی ذات کی بثت گنگوڑ، بثت روپے اور بثت تجربے کے ذریعے سے عی کرنی چاہیے  
تاکہ اس کا نتیجہ کامیابی کی صورت میں برآمدہ ہو۔

اس نے آپ خود سے کیا میں؟ کیا بیٹت بات ہے؟ کیا آپ اپنی حرمت نہیں  
بنائے والی ثابتات دیں گے؟ یا آپ خود کو اپنی غلطیوں کی وجہ سے کوئی گے؟ کیا آپ انہاں کو،  
بثت سرو، احساسات اور تصویرات سے بھر دیں گے؟ پرانے وقت میں ایسا ہوا تھا کہ کہیوں  
استعمال کیا جاتا تھا اور جس اس کا پر گرام غلطیوں سے بھرا ہوا تھا وہ کام نہیں کرتا تھا۔

دولت، بحث، خوشی 42 دنون کا اعلیٰ کورس 49

ایک رائشی مختلط سے اس بات کی شہادت ملتی ہے کہ ہم جس بثت حالات اور احساسات  
کی جزیں ہوتے ہیں وہ ہماری قابلیت اور ذاتی تصویر پر بہت گمراہ ذاتی ہیں۔ سب سے اچھا  
کھلاڑی سب سے زیادہ پیاسے ذاتی کوچ بڑے کوئی خرچ کرتا ہے؟ آپ کا ذاتی کوچ بہت محنت  
سے کھلاڑی میں یہ طاقتیت پیدا کرتا ہے کہ اس کا ذاتی تصویر پر تحریر کرے اور اس کی حوصلہ افزائی  
کرے کہ وہ چاہے دھکیل کے میدان میں ہو، گولف کلب میں ہوں یا کروٹ سے بہر وہہ ہر  
وقت اپنے دھکیل کے تجویز مکر کرے کہ اپنی خصیت کی بہتر تکمیل کرے۔ اگر انہا کے ذہن میں  
ترقبی کی تصویر بہت اچھی طرح سے بیٹھ جائے تو وہ اس قابل ہوجاتا ہے کہ وہ بہت اچھی کارکردگی کا  
ظاہرہ کرے۔

### بثت تصویرات اور اقرار

تصویرات کی مشن کرنے کا مقدمہ ہے کہ آپ پر سکون حالت میں رہیں، جب آپ ہتنی  
اور جسمانی طور پر سکون ہو جائیں گے تو ہم آپ جو جیلے بولتیں گے، تصویر کریں گے اور اپنی ذات  
سے جو گل اور اکار کریں گے وہ آپ کے تحت اشواروں میں بیٹھ جائے گا، ہم آپ کے وزورہ کا مول  
میں آپ کا تحت اشوار آپ کی حوصلہ افزائی اور دکر کے گا اور یہ سب کام وہ آپ کو آگاہ کے بغیر  
غیر شعوری طور پر کرے گا۔ آپ کے ذہن کا نظام آپ کی خوبصورتی میں خیالات اور اعتقاد پر بہت  
پورا اثر طبقے سے کام کرے گا۔ یہ خود خود آپ کے موجودہ سوچے کے انداز اور اپنی ذات سے  
مخلوق طبقے کے تبدیلیں کر دے گا اور سارا دن مختلف طریقوں سے آپ کے اپنی ذات سے مخلق  
سے اعتقاد کی تقدیمیں کرتا ہے گا۔

### ہمیشہ بثت بچے میں بات کریں اور بثت بات پر زور دیں

ہمیشہ بثت بچے میں بات کریں۔ اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ ایک مختصر اور بثت جملے  
ہائیں جیسے کہ ”میں ہر روز ہر خلائق سے بہتر ہو جاؤ ہوں“ یا اس بیکھڑے کو ساروں دہراتے  
رہیں خاص طور پر اس وقت جب آپ پر بیان ہوں۔ آپ، بھائیں گے کیہ جملہ آپ کی زندگی  
میں بہت اثر انداز ہوتا ہے جب میں سماں کو اپنے بچہ کیک سکرہا تھا تو میں اوپنچائی سے چلا گئے  
ہوئے بہت پر بیان ہو جاتا تھا۔ جب میں چلا گئے تھا تو اسیں پایا ہر یہ چلہ دہراتا تھا کہ  
میں بہت سطھنی ہوں اور یہ دہراتے ہوئے میں لمبے لمبے سالیں لیتا تھا۔ میں جہاز میں سوار

سab، سیاہ دروس اور دروس ہے جو میں رہتا ہو اسے نہیں دیں۔ اس دروس یا اس سے نہیں  
میں لاقی اور ذاتی انسان ہوں، بیکھڑتی کے راستے کی خلاش میں رہنا چاہیے تاکہ میں جلدی  
منزل پہنچ جاؤں۔

ہمیں ان الفاظ کو درست رہنا چاہیے جو کہ سادہ ہیں۔ ہمیں یہیں سوچنا چاہیے کہ  
ایسے کرنے میں ہمیں کوئی مشکل ہیش ائے گی۔ مھنگی خیر بات یہ ہے کہ ہم یہ باتیں  
کھلڑی ذاتی تصویر کی وجہ سے ہمیں سماں کا سامنا کرتا ہے پھر ہمیں ہم دہشت ذاتی تصویر کرنے  
ہاتے جو کہ سماں کے حل میں ہماری مدد کرے گا۔

### بثت سوچ کا ثابت نتیجہ ہوتا ہے

جب آپ اپنی ذات کا ثابت اندراز میں اقرار کرتے ہیں تو آپ کا شعوری ذہن سیاہی چوں  
کی طرح کام کرتے ہوئے ان الفاظ کو اپنے اندر جسب کر لیتا ہے۔ آپ کا ذاتی ان الفاظ سے  
ایک گونہ تیار کر لیتا ہے کہ آپ کو کون ہیں، کیا کوئے ہے میں اور معقل میں آپ کو کیا کرتا ہے۔ آپ  
بثت ذاتی تصویر سے سصرف اندر والی طور پر بہتر ہوتے جائیں گے بلکہ آپ زندگی کے ہر بشجے  
میں کامباہ ہوں گے۔ ہمارے تحت الشور کو چاہی یا جعلی کہانی کے بارے میں کوئی فرق نہیں

مقدمہ

© SCANNED PDF

SCANNED PDF By HAMEEDI

EDI

48

دولت، بحث، خوشی 42 دنون کا اعلیٰ کورس  
آپ کا ذاتی بھی کہیوں کی طرح کام کرتا ہے۔ آپ اس سے ہمیشہ بثت سوچ داخل کریں  
تاکہ اس کا نتیجہ کامیابی کی صورت میں لٹکے گا۔

جب میں لوحان حقائق میں گولف کھلائی تھا، جب بھی کوئی ضرب نہیں کیا تھا بلکہ اپنے کھلاڑی تھا  
تو میں خود کو کھستار تھا اور بھیس بھی سمجھتا تھا کہ میں بھی گولف کا اچھا کھلاڑی نہیں بن سکتا۔  
جب تجھ میں مغل سوچتا رہا اور اپنے ذہن کو کھلی کے تھلک لٹلٹ پیغام دیوار بہت بک میں گولف کا  
اچھا کھلاڑی نہیں بن سکا۔ میں نے بعد میں اپنے خیالات تجدیل کر لیے اور ہر بات میں بثت  
اندر ایسیں سوچاڑیوں رکھ دیں۔ وہی طور پر مجھے اپنے ذہن میں ٹھکل پیش آئیں تھیں جو بثت سوچ کا یہ  
فائدہ ہوا کہ میرے بر کام کا نتیجہ بھی بثت تھکل پیش آئے۔ اب میں بہت مطمئن اور پر سکون فنفس ہوں۔  
اس سے تفہیق تکریں کیے جو بھی ضرب کا ذہن، میں کی جی اپنا جوان خراب نہیں کرتا اور نہ بھی خصے  
میں آکر گرفت کی چجزی کو زور میں پر مارتا ہوں۔ بثت سوچ نے مجھے اس قابل میں ڈکنی کیے ہے کہ میں ہر  
کام بہت اچھے طریقے سے انجام دیتا ہوں۔ اب میں گولف کا بہت اچھا کھلاڑی بن گیا ہوں اور  
میں گراف سے بہت لطف اندر رہوتا ہوں۔

### اپنے اقرار کو مختصر اور سادہ بنائیں

آپ خود سے مستقبل کی کامیابی کے لیے جو بھی اقرار کریں وہ مختصر، سادہ اور بثت ہوں  
چاہیے۔ مثلاً کے طور پر میں ہر روز اپنے مقدمہ سے قریب تر ہوتا جا رہا ہوں یا یہ کہ میں لاقی ہوں  
اور مجھے اپنے سب کاموں پر اختیار ہے۔ میں اچھا اور سہی انسان ہوں جو دوسروں کی مدد کرنے  
کے موقع دھوٹتا ہوں، میں قابل اولاد میں ف نفس ہوں۔

یہ بہت بتاوی اقرار ہے جو کہ میں اپنی ذات سے کہنا چاہیے۔ یہ بات میں اثر اقرار ہے۔ یہ  
فرمہ آپ کے لیے ہے تاکہ آپ اپنے بثت الفاظ اپنے لئے استعمال کریں۔

جب میں لندن اور نیویارک میں بیرونی دوسری حصہ لینا تھا مجھے بہت خوشی ہوتی تھی،  
جب لوگ بیرانامہ کے چلا تھے تھے اور روز کے دوران بھری حوصلہ افزائی کرتے تھے وہ بھری تھی  
شرٹ پر بھر انداز دیکھ کر خوشی سے چلا تھے تھے۔ جب بھی جس کے ساتھ مدد  
کے لیے دھوٹ پہنچے ہوتے ہیں وہ چلا تھے تھے وہی بھی تو مجھے لیکن ہے کہ آپ اس کی حوصلہ  
افزائی کریں گے کہ وہ یہ کام کر سکتا ہے۔ ہم دوسرے لوگوں کی آسمانی سے مد کر سکتے ہیں اور اب  
جس کی آخر میں حوصلہ افزائی کرنے چاہیے کہ وہ فنفس ہم خود ہیں۔

دولت، بحث، خوشی 42 دنون کا اعلیٰ کورس 51

پہلا ہفتہ  
چھٹاواں

دولت، بحث، خوشی 42 دنون کا اعلیٰ کورس 50  
دوسرے لوگوں کو سکرتے دیکھا اور یہ چیزیں دہراتے ہو جائیں، پر سکون ہونے میں مدد  
دیتے تھے اور سکون ہونا مجھے مدد بتاتا تھا۔ لبے سماں، پر سکون ہونے میں مدد  
جاڑیں۔ اس کے نتیجے میں نے بیشہ بہت کامیابی سے چلا گکی تھی۔

یاد رکھیں کہ

اگر آپ اپنی ذات سے بثت گنگوڑ کرتے ہیں اور بثت اقرار کرتے ہیں تو اس کا اثر  
برادرست آپ کی کارکردگی، بوقتا اسی ذاتی تصویر پر پہنچتا ہے۔

چاہیے کہ آپ اپنے تصورات و خواب کی سمت اعتماد سے قدم اٹھائیے۔  
آپ اپنی زندگی اپنے ذاتی تصور کے مطابق تحریریے۔ اپنے مقصد کے  
حصول اور حکیل کے لیے کوشش رہیے۔  
ہنری ڈیوڈھوری، امریکی صحف و شاعر (عبد حیات: 1817-1862)

محب پورا ایقون ہے کہ آپ سب لوگوں کی زندگی میں کوئی ایسا تھا کہ دینے والا پہلو ہے  
جسے آپ تبدیل کرنا چاہتے ہیں۔ وہ بہت آپ کا مقصد حاصل کرنا ہے۔ وہ مقصد کوئی بھی ہو سکتا  
ہے۔ مثلاً آپ اپنا پیشہ بنانا چاہتے ہیں کہ کوئی آپ سے مطمئن نہیں ہے یا آپ پانچوں کم کرنا  
چاہتے ہیں، آپ پھر دہننا چاہتے ہیں یا آپ درسے لوگوں سے اپنے تعلقات بہتر کرنا  
چاہتے ہیں۔ ایک وقت میں ایک سے زیادہ مقاصد بھی ہو سکتے ہیں جو کہ آپ حاصل کرنا چاہتے  
ہیں۔ یہ بات اہم ہے کہ آپ کا مقصد کیا ہے، لیکن زیادہ اہم بات یہ ہے کہ آپ کا مقصد آپ  
کے لیے بہت اہمیت کا حال ہے۔  
آپ جب بھی اپنے مقصد کو دیکھیں تو صرف یہ سوچیں کہ یہ آپ کے لیے بہت زیادہ  
اہمیت رکھتا ہے جب آپ مقصد حاصل کر لیں گے تو آپ بہت مطمئن ہو جائیں گے۔ اس سے  
آپ پیسہ، بہت زیادہ پیار، بہتر محنت، عزت نفس، بہتر حجاب، اچھا گمراہ، بہت سارے سفر کے  
موقع بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ آپ کا مقصد خواہ کچھ بھی ہو، مقصد حاصل کرنے کے بعد آپ ایک  
اور حقیقت سے واقع ہوں گے وہ کچھ اور پیز ہے، جو کہ میں آج آپ کو بتانا چاہتا ہوں کیونکہ یہ  
جو کچھ بھی ہے وہ آپ کے مقصد کو ظاہر کرتا ہے۔

کیلیٹے ون اردو کے فلم کیزار پیٹ

® SCANNED PDF By HAMEEDI

آج کے دن  
آپ اس بات کوہراں کی آج کے دن سے میں اپنے کامیاب مستقبل کی طرف سفر کر رہا  
ہوں۔

دولت، بحث، خوشی 42 دنوب کا عملی کورس

53  
لوگوں سے بھی ملتا ہوں ان کی زندگیوں میں ثابت تبدیلی لاوں۔ میرا درس ا مقصد یہ ہے کہ ان  
لوگوں کی تحریف کروں اور خود کو ان لوگوں میں شامل کروں جنہوں نے مجھے زندگی میں کچھ کر  
دیکھانے کے قابل ہیا ہے۔ میرا تیرسا مقصد یہ ہے کہ میں ساری زندگی سیکھتا ہوں، کبھی بھی علم  
حاصل کرنا نہ چاہوں۔ ان تین مقاصد کے ساتھ میں خود کو اس قابل ہو جو کہ میرا اور بہت سارے سفر کے  
خود کو اپنے منزل حاصل کرنے کے لیے آمادہ کروں۔ ان تین مقاصد مجھے کام کرنے کی تحریک دیتے  
ہیں۔

بغیر مقصد کے تم اپنا راستہ کھو دیتے ہیں اور زندگی ہمیں اپنی مرضی سے بہالے  
جائی ہے۔

اگر آپ نے اپنی سکن اپنی منزل میں پوشیدہ مقصد حاصل نہیں کیا ہے تو اس میں فکر کی کوئی  
بات نہیں ہے۔ آپ کو اس بارے میں بہت زیادہ گرفتار ہوئے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ آپ  
جب آئے والے ہوں میں اس بارے میں سوچیں تو میں یہ جانتا ہوں کہ تب آپ اس بارے میں  
ضرور سوچیں کہ آپ کی منزل آپ کو اس کے علاوہ اور کیا گی۔ آپ اس بارے میں سوچیں کہ  
آپ اس سے اور کچھ سی حاصل کرنا چاہتے ہیں۔

میں اکثر لوگوں سے پوچھتا ہوں کہ آپ کا سے پوچھ جائے کہ آپ کی تین خواہشات  
پوری کردی جائیں کی تو آپ کوئی تین خواہشات کریں گے۔ وہ فرماتا ہے دیتے ہیں کہ مجھے نہیں  
معلوم ہیں۔ میکا سوال آپ اکر کی سچے سچے کریں گے تو وہ فرماتا ہے گا کہ مجھے اس کی کرم  
کے پہاڑ چاہیں، وہ کھللوں کی خواہیں کرے گا اور نہ قوم کے دل کیلیں کی خواہیں کرے گا کہ  
میں اپنی پسندیدہ محلیں بھیتیں ہیں۔ بڑے ہوئے کے ساتھ تم خواہیں کریں گے کہ ہماری طور پر  
حکم ہوں، کسی دوسرے ملک پہنچیاں گزارنے جائیں اور ہم ابھی محنت کی خواہیں کریں گے۔  
جب آپ اس بارے میں سوچیں گے تو آپ کی تین خواہشات کیا ہوں گی، اور جب وہ پایہ محل  
کے پہنچ جائیں گی تو آپ کو ان سے کیا حاصل ہو گا۔ یہ بات بہت اہم ہے میں اس بارے میں  
جانا چاہیے کیونکہ ہماری زندگی میں بہت بڑی اور غیر لذتی تبدیلیاں لاتی ہیں۔ میں آپ سب کی  
حوالہ افرادی کروں گا کہ آپ کی زندگی میں کوئی مقصد ضرور ہو نہیں۔ آپ دیکھیں گے کہ آپ  
کے مقصد میں کامیابی کے علاوہ اور کبھی بہت ہی تا تامل فرم خصوصیات ہوں گی۔ آپ اس سے مقصد  
کے علاوہ اور بھی بہت کچھ حاصل کریں گے شاملاً ادا فوائد، وہی سکون اور خود اعتمادی۔

دولت، بحث، خوشی 42 دنوب کا عملی کورس

52

ہماری منزل کے پیچے ہمیشہ ایک مقصد ہوتا ہے

ہر منزل کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے خواہ وہ مادی، جذباتی یا روحانی ہو، میں مقصد ریافت  
کرنے کی ضرورت اس لیے ہوتی ہے کہ وہ سب سے خاص ہے اور زیادہ اہمیت کا حال ہے۔  
مقصد کے بغیر چیزیں پہنچنی سختی کوہوتی ہے۔ ہر فماں کام اور مقصد کے بارے میں پہنچاہتے  
اہم ہے۔ آپ کا مقصد آپ کی منزل حاصل کرنے کے لیے بہت اہم ہے۔ جب بھی آپ اپنے  
مقصد کو دیکھیں تو آپ اپنے آپ سے سوال کریں، یہ مجھے کیا دے گا؟ بلا خدا آپ کو پہنچنے ہو  
جائے گا کہ یہ صرف ایک چیز عالمی ہے، پیکن پر وہ پیسی ہی ہو گا اور آپ کو مالی طور پر حکم بھی  
کرے گا، لیکن مجھے اس بات کا یقین بھی ہے کہ آپ کی منزل میں درسے مقاصد کے ساتھ ساختے  
صحت، خوشیاں، پیار اور ہمیشہ سکون بھی شامل ہیں۔

کیا آپ کی منزل آپ کے مطلوبہ مقصد کے لیے موزوں ہے؟

آپ جب بھی اپنی منزل کا تھیں کریں تو آپ کا پہلا سوال یہ ہونا چاہیے کہ: میری زندگی  
میں اس کا کیا مقصد ہے؟ میں جب بھی پوری دنیا سے خطاب کرتا ہوں، میرا تمام جھیلوں سے پہلا  
سوال بھیشکی ہوتا ہے کہ اس خطاب کا کیا مقصد ہے؟ یہ بات سمجھے بغیر کہ اس کا کیا مقصد ہے،  
میں درسوں کو مناسب طریقے سے مطمئن نہیں کر سکتا۔  
بہت سے لوگ اپنی سکون کرنے کے حکما دیے ہیں کہ وہ اپنی منزل کی دعویات بہت اچھی  
طرح جانتے ہیں اور ان کے تمام مقاصد بہت اہم اور بہت اچھے خیالات پر بنتی ہیں۔ محمد پر تھیں  
کریں کہ آپ کے مقاصد بہت گہرے نہیں ہوئے چاہیں۔ آپ کوئی فلسفی بخشی کی ضرورت نہیں  
جو کہ اسی اپنی چنان پرستیا ہوا سچتا ہے کہ اسے کوئی اتنی اچھی اور حکمندان سوچ آئے گی جو کہ  
پوری دنیا کو دن کر دے گی۔ تو اس بات کی ہے کہ جب آپ اپنے مقصد کے متعلق سوچیں گے  
اور اس کا تجویز کریں گے تو آپ کو معلوم ہو گا کہ مقصد کا حضول ہے اس سامنے ہے۔ آپ کو یہ معلوم  
ہونا چاہیے کہ آپ کے مقصد کی آپ کے لیے کیا اہمیت ہے۔

آپ کا مقصد آپ کو تحریک دے گا اور کام کی تلقین کرے گا

میرے تین مقاصد میں جو میں سمجھتا ہوں کہ بہت اہم ہیں۔ میرا پہلا مقصد یہ ہے کہ جن

دولت، بحث، خوشی 42 دنوب کا عملی کورس

55  
یاد رکھیں کہ

دولت، بحث، خوشی 42 دنوب کا عملی کورس

آج جب آپ اپنا کام شروع کریں گے تو اپنے مقصد کے بارے میں بھی سوچیں اور اس  
سوال کے بارے میں بھی سوچیں، آپ کی زندگی میں کوئی کامیابی ایسی ہے جو آپ کو سب سے

آپ کا مقدمہ آپ میں کام کرنے کی خواہی پیدا کرے گا اور آپ کو کام کے لیے تحریک دے گا۔

### آج کے دن

آپ جو کوئی بھی مقدمہ وضع، پہلے اس کا تجویز کریں کہ آپ کو اس مقدمہ سے کیا حاصل ہو گا پھر آپ اپنے مقدمہ کا حصہ کریں۔



ناول کیلئے ون اردو کے تمکن گزار ۳

زیادہ مطمئن کرے گی اور سب سے زیادہ خوشی دے گی؟ جب آپ کا بہت بڑا گمراہ ہو گا آپ کے پاس بہت اچھی گھری ہو گی؟ یا آپ کے پاس آپ کی پسندیدہ گاڑی ہو گی؟ یا پھر خدا تری اور جنم کا بنہ بہ ہو گا جو کہ آپ دوسرے لوگوں کے لئے رکھتے ہیں؟ یا پھر یہ طینان اور سکون ہو گا جسے آپ نہیں کرتے ہیں؟ یا پھر یہ خوشی اور ثروت رو ہو گا جو آپ ہر موقع پر اور ہر جگہ اپنا نہ چاہتے ہیں؟ سوچیں کہ آپ ان میں سے کسی بھی کام کا حاصل کرنا چاہتے ہیں۔

جب ہم اپنے مقدمہ اور اس سے حاصل ہونے والی خوشی کے بارے میں

سوچیں گے تو یہ میں کام کرنے کی تحریک دیں گے

زندگی میں کوئی صورت حال بھی مستقبل نہیں رہتی اور انسان کے حالات بھی ایک چیز ہیں رہتے ہیں۔ ہم چیزوں کو بہت پاس نہیں رکھ سکتے۔ اس لئے یہیں ان چیزوں سے وابستہ نہیں ہیں ہم چاہیے اور نہیں کہ زندگی ایک ایسا مسئلہ ہے جو کہ مستقبل میں واقع ہوں گی یا ہمارے پاس رہیں گی۔

زندگی میں کسی چیز کی مراحت نہیں کرنی چاہیے، بھرپور طریقے اور زندہ دلی سے زندگی گزرنی چاہیے

مقدمہ کے تھاقب کے لیے ان ان مسلسل کوشش کرتا ہے جس کی کوئی حدیث ہوتی۔ ہم بیشہ طالب علموں کو مقدمہ کی تحریک کے لیے کوشش کرنے کا کہتے ہیں۔ آپ جو کوئی بھی مقدمہ ہتا ہیں اس کے لیے کوشش اور محنت کریں۔ اگر آپ ضروری سمجھیں تو اسی بادن کے کسی بھی وقت آپ اپنے مقدمہ کا دبادبہ تھیں کریں۔ اگر آپ بھیجتے ہیں کہ یہ مقدمہ آپ نے تھیں کیے ان سے آپ کو کوئی خاص فائدہ نہیں ہو نے والا آپ کوئی نامقدمہ نہیں، لیکن آپ جو کوئی بھی یا مقدمہ وضع کریں وہ ایسا ہو گا جاہیے جس سے آپ کو بہت فائدہ پہنچے اور وہ آپ کے پرانے مقدمہ سے بہتر ہو۔

دولت، محنت، خوشی 42 دنوں کا عملی کوڈس  
صرف حاصل کرنا ہی نہیں ہوتا بلکہ آپ خود پیدا ہیں جو آپ مقدمہ حاصل کر کے بنا چاہتے ہیں  
اور جیسی زندگی آپ گزرنی چاہتے ہیں۔  
مقدمہ حاصل کرنے کے لیے اپنے اندر جذبہ پیدا کریں اور اگر آپ کو کمی پر بیانی برداشت کرنی پڑے تو آپ بہت شہادتی بلکہ جذبے کے ساتھ کوشش کریں۔

آپ کا شوق اور جذبہ آپ کو اس قابل بنائے گا کہ آپ جو کوئی منزل حاصل کرنا چاہتے ہیں، اس کے لیے آپ اگلے سے کام کرتے ہیں۔ آپ جو منزل بھی حاصل کرنا چاہتے ہیں، وہ ہر وقت آپ کے ذہن میں موجود ہوئی چاہے۔ پھر آپ جو کام بھی کریں گے۔ آپ کو اکاہزادہ ہو جائے گا کہ آپ کا کام آپ کو اپنی منزل سے فریب کر رہے ہیں اور درکار ہے۔  
ایسی منزل کو حقیقت میں بدلنے کا جذبہ آپ کو اس قابل بنائے گا کہ آپ اپنی ذات میں سے خوف نکال کر خود کام کرنے کے لیے رضاہمند کریں اور منزل حاصل کرنے کے لیے اپنے مقام پر جا کیں اور کامیابی حاصل کریں۔ اس سے آپ کو جسمانی طور پر کوئی تکلیف نہیں پہنچی گی اور نہ ہی فیر پر جو پہنچا گا۔ یہ بہت طاقتور ہے، پھر کوئی ہمیشہ اپنی تمام خواہشات پوری کرنے کے لیے جذبہ نہیں پایا جاتا کوئی نہیں بھکاتے ہیں اور کوئی بھی خفرہ مول نہیں لیتے۔ آپ کو اس میں کوئی تکلیف نہیں ہوتا جائے، ایک دفعہ جب آپ اپنے مقدمہ حاصل کرنے کا جذبہ پیدا ہو جائے تو ہر آپ کمکن پر کوئی نہیں بلکہ مقدمہ حاصل کر کے لیے چھوڑتے ہیں۔ آپ کمکن پر کمی ہمت نہیں ہارتے اور سرہنگی ہار مانتے ہیں۔ جذبہ ایک بہت شدید جو شدیداً حساس ہے، یہ ایک عمدہ خواہیں ہیں ہے اور نہ ہی کوئی اچھوٹا خیال ہے میں کے بارے میں آپ کو سچے سچے ہیں۔ یہ ایک الک طاقت ہے جو اس وقت آپ کی سمات پڑھائی ہے جب دوسرا لوگ بہت پارچے ہوتے ہیں۔

اس بات کی توقع ہے کہ آپ کی زندگی میں، بہت سے انتہی خیالات ہوں گے جو صرف خیالات ہی ہوں گے اور آپ نے انہیں حقیقت میں نہیں بدلنا ہو گا ایسا کیوں ہے؟ کیا ایسا کرنے کے لیے آپ کے اندر جذبے اور شوق کی تھی؟ دنیا میں جتنے لوگوں نے بھی بھی کامیابیاں حاصل کی ہیں ان سب کامیابیوں کے پیچھے آپ کو بھیزی بہت بڑا جذبہ اور بڑی خواہیں لے گی جو کر انہیں کامیابی کے لیے اکساتی تھی۔ لوگ اپنی منزل حاصل کرنے کے میں سب سے بڑی غلظی کیا کرتے تھے؟ اس خیال سے بہت سے نظریات موجود ہیں، میں یہ سور کہتا ہوں کہ میرے خیال میں یہ ایک سادہ بات ہے کہ ان میں کامیابی کے لیے جذبہ اور ارادہ موجود نہیں

دولت، محنت، خوشی 42 دنوں کا عملی کوڈس

پہلا ہفتہ  
ساتواں دن

### ولول

”ہمارا جو شہنشاہی دوہادوتوت ہے جو ہماری روح کو اذن پر داز عطا کرتا ہے۔“

ڈسٹریٹ یونیورسٹی فراصی فلاسفی وادیب (عبد حیات: 1713-1784)

آج کے دن میں، مقدمہ پر قزوی اور روشنی ڈالنا چاہوں گا اور اس کے ساتھ جذبے اور شوق پر بھی جو کہ مقدمہ حاصل کرنے کے لیے بہ عذر و ضروری ہیں۔ مقدمہ سے یہیں صاف طور پر پاہام جاتا ہے کہ یہ اماری منزل میں پوشیدہ مقدمہ ہے لیکن اس مقدمہ کو زندگی میں داخل کرنے کے لیے یہیں جذبے اور شوق کی ضرورت ہوتی ہے۔

آپ کو حصول مقدمہ کے لیے بہت زیادہ جو شہنشاہی دوہادوتوت ہے  
میرے زندگی جذبہ، بہت شدید جو شہنشاہی اور بہت شدیداً حساس ہی ہے جو ہمیں کوئی کام کرنے کے لیے اس کا ساتا ہے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ اج اس بارے میں سوچیں کہو گا اپنی زندگی کی اس بارے میں۔ شاید یہ اماری، ہمارے خاندان، ہمارے ائمہ، ہمارے ائمہ ایسا ہے۔ آپ اپنے زندگی کے جذبے جو شہنشاہی دوہادوتوت ہے۔  
مقدمہ اور شوق ایک دوسرے کے بغیر نہیں رہ سکتے یعنی آپ کو شوق نہیں ہے تو آپ کو کمی مقدمہ حاصل نہیں کر سکتے۔ شوق اور مقدمہ دونوں پر توجہ مرکوز کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ بات ہمکن ہے کہ آپ کو کوئی چیز کا بھی شوق نہیں ہے۔

اپنے مقدمہ پر توجہ مرکوز کریں  
آپ اپنی منزل کا چیز تھیں کریں اور جذبے کے ساتھ اس مقدمہ کے لیے کام کریں۔ مقدمہ

ناول کیلئے ون اردو کے تمکن گزار ۳

دوسرا ہفتہ  
آٹھواں دن

## آپ کی اصل دولت

اگر آپ یہ خیال کرتے ہیں کہ آپ کی آزادی اور خود قدری دولت سے  
وائستہ ہے، تو آپ اسے حاصل نہیں کر سکتے۔ حقیقی تحفظ کا حصول اس  
نیاں صرف آپ کے علم، تجربہ اور تقلیل کی دولت سے ممکن ہے۔

ہنری فورڈ امریکی منظکار (عہد حیات: 1863ء تا 1947ء)

زیادہ تر لوگ غریب کی بجائی امیر ہوتے ہیں۔ دولت آپ کو زندگی کی بہت کی مشکلات سے بچاتی ہے، جبکہ غربت آپ کو نکر رہتا ہے اور غیر محفوظ کو دیتی ہے جس کی وجہ سے آپ کو زندگی میں بہت کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ جب تمہارے کئے ہیں کہ تم دولت مند ہوئا چاہے ہیں تو اس میں کیا کامیاب مطلب ہوتا ہے؟ کیا اس کا ایسا مطلب ہوتا ہے کہ تم ایک شخص کو 100 لیکن یوں حاصل کرنا چاہے ہیں؟ اس صورت میں آگر آپ کی ایسے شخص سے ملے ہیں جس کے پاس ایک پینٹن پوچھتے ہیں تو کیا وہ شخص آپ سے 100 گناہیاں دے دیں یہ بات واضح ہے کہ وہ شخص جس کے پاس ایک میں یوں ہے وہ آپ سے 100 فیصد زیادہ خوبیں ہیں اور نہیں وہ آپ سے 100 فیصد زیادہ بھرپور اور عملی بیانیں کرنا رہتا ہے، پھر آپ کے خیال میں کتنا پھر خوبی کے لیے کافی ہوتا ہے؟

میرا یہ ذاتی خیال ہے کہ سب سے پہلے ہمیں اس بات کا تجویز کرنا چاہیے کہ دولت مند ہونے کا ہمارے نزدیک کیا مطلب ہے۔ میرے نزدیک دولت کا مطلب بہت وافر مقدار ہے۔ اس حق کی وافر قدر جو چیز ہم چاہتے ہیں اور ہماری زندگی میں روزانہ وافر خوشیاں حاصل ہوئیں تو ہمیں یہ کہاں کہم دیں؟

ای طرح میں اس بات کو بھی اچھی طرح سمجھتا ہوں کہ آگر آپ بینک میں جائیں اور آپ کہن کر آپ بینک سے قرضہ لے کر گھر خریدنا چاہتے ہیں تو غیر آپ سے عام طور پر سمجھی سوال

Andrew Carnegie تھا جس نے سب سے پہلے اس بارے میں *حالت کیا تھا کہ آپ دولت مند کیسے بن سکتے ہیں اور زندگی میں کامیابی کیسے حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ ٹھوٹ 2002ء میں دنیا کا امیر ترین شخص تھا۔ یہ اس بات پر یقین رکھتا تھا کہ ایک ایسا عملی طریقہ ہے جس پر عمل کر کے آپ مال کا کامیاب حاصل کر سکتے ہیں۔ وہ طریقہ محنت کے ساتھ ساتھ تصور کی ملک کرنا ہے جس میں آپ خود کو بہت دلتنہیں اس مقام پر تصور کرے ہیں جیسا کہ آپ بننا چاہتے ہیں۔*

آپ کو مالی طور پر کامیاب ہونے کا تصور کرنے کی مشق کرنی چاہیے اور اس کی اہمیت سے واقف ہونا چاہیے

یہ سب بہت آسان اور سادہ ہے کہ آپ اس بات کو بخوبی جائیں سمجھنے بہت سے لوگ اس پر یقین نہیں رکھتے یا مجھ سے کہ اس کا انداختا نہیں کر سکتے۔ اس لئے میں اپنی کافی آپ کو بنانا چاہتا ہوں۔ اس امید کے ساتھ یہ آپ پر اپنا ادارہ ہو گی اور آپ کو اعتماد دے۔ سادہ انظہروں میں اس طرح کہ جائے گا کہ آپ جس پر چیز پر بھروسی توجہ کر کریں گے اس کی جملک آپ اپنی زندگی میں دیکھ لیں گے۔ وہ سرے لفڑیوں میں، اگر آپ اپنا سوچیں گے کہ آپ بال طور پر بہت سمجھنا اور خوشحال ہیں تو آپ مستقبل میں ایسے ہی ہو جائیں گے اور اگر آپ اپنا سوچیں کرے تو آپ بال طور پر سمجھنا نہیں ہیں بلکہ آپ سرہست مند ہیں تو ہم آپ اپنے ہی ہو جائیں گے لیکن کہ آپ اپنے بارے میں جو سوچیں گے اور جو تصور کریں گے آپ خود کو دیے دیں جو جائیں گے۔

میں نے اپنی زندگی کا کافی دروغ رہت میں بخیر ہے کہ کہا رہا ہے۔ میرے پاس کرایہ دینے کے لیے بھی مناسب رہت ہے اور ہم اچاک دولت مندین جائیں تو اس کا اثر ہماری زندگیوں پر ہے۔ میرے پاس اتنے پیسے بھی نہیں ہوتے کہ میں دوستوں کے ساتھ کام کرنے کے لیے جانتا توجہ بھی کوئی بھی میرے مکونے کے لیے کہتے تو میں کچھ پر بیان ہو جاتا کوئکہ میں سب دوستوں نے مل کر ادائیگی کرنی تو ہی۔ اس کا مطلب ہر گز نہیں تھا کہ میں بہت بخوبی اور تھا کہ میں بیشتر سے خود کو بہت فراخ دل انسان سمجھتا تھا کیونکہ میری تربیت اسی انداز سے ہوئی تھی۔ میری توجہ بیشتر پر بھی مرکوز تھی اور

دولت، محنت، خوشی 42 دنون کا اعلیٰ کورس  
تفا۔ ان لوگوں میں ماضی کی ناکامیوں اور اس کی وجہ سے ہونے والی یا یہ موجود تھی جس کی وجہ سے وہ اپنے مقدمہ کے لیے کام کرنا چھوڑ دیتے تھے۔

جب آپ اپنی منزل حاصل کر لیں گے تو آپ مطمئن ہو جائیں گے، خود کو اہمیت دینے لگ جائیں گے اور آپ کی تصور کرنے کی سطح میں حیرت اگزیز تبدیلی آجائے گی

جب بھی آپ اپنے مقدمہ کے بارے میں بات کریں گے تو آپ کو حقیقی معنوں میں خوشی حاصل ہو گئی ہے آپ ان لوگوں میں بھی باٹھا چاہیں گے جن سے آپ بات کر رہے ہوں۔ آپ مرف اس بارے میں بات کر کے بہت بہر اور اچھا سمجھ کریں گے۔

آپ جو کام بھی کریں گے اور حقیقی محنت بھی کریں گے وہ مقدمہ کے حصول کے بعد حاصل ہونے والی خوشی کا احساس پیدا کرے گی۔ آپ جو کام بھی کریں گے وہ آپ میں یہ احساس پیدا نہیں کرے گا کہ آپ کوئی غیر ضروری کام کر رہے ہیں بلکہ پھر آپ کے ہر کام اور جگہ بے کوئی مطلب ہو گا۔ آپ کام کرنے کی خواہی اور کامیابی کا جذبہ کی تھے کیا کام میں مصرف رکھے گا۔ بالآخر جو کچھ بھی ہو اور ماخی میں آپ نے بحقیقی ناکامیوں کا سامنا کیا ہو، آپ بھی بھی ہمت نہیں ہاریں گے اور کام کرنا نہیں چھوڑیں گے خواہ کسی بھی صورت حال ہو، آپ اپنے مقدمہ کے لیے کام کر رہیں گے۔

یاد گھٹیں کہ

جب منزل حاصل کرنے کے لیے جذبہ اور اس میں پوشیدہ مقدمہ صحیح سمت پر ہوں تو یہ بہت موثر طریقے سے کام کرتے ہیں۔

آج کے دن

آپ اپنے خابوں، مستقبل اور زندگی کے بارے میں بہت پرمادیہ ہو جائیں گے کہ اس کی جنگ آپ کے قاتماں کا مول میں دکھائی دے۔



کرے گا کہ آپ بھی قرض لیا چاہتے ہیں، کیا آپ کے پاس اس کے رابر کوئی جائیداد یا یقینی تھی ہے میں رکھ کر آپ قرض حاصل کریں۔ اگر آپ جو اب میں مکرا کریے گئیں گے کہ آپ دیباں سب سے خوشی آؤں تو وہ خانہ تھی میلے کو بلا کر آپ کو باہر نکلوادے گا کیونکہ صرف خوشی کی دولت ہی کافی نہیں ہے۔ پہلے عملی دولت ہے کہ ہم روپیہ کچھ ہیں، وہ ہے اور ہر آپ کی ذاتی دولت ہے جسے آپ ذاتی یا کسی بھی اور جیسی کام اور کام کرنے کے لیے جو کام کرنا چاہتے ہیں۔

آپ کی دولت صرف رقم ہی نہیں بلکہ کسی اس چیز کی فرداں ایسے ہے جو کہ آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں

میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ اس بارے میں فور کریں کہ کیا آپ کی زندگی میں یہ دنوں تم کی دولت موجود ہے؟ عملی دولت پھر ہے۔ یہ دنیوں کا دو ذخیرہ ہے جس کی پر دولت آپ اپنا شریطے ہیں اور یہ آپ کو مالی طور پر مکمل کرتا ہے اور آپ مالی سودہ حال ہوتے ہیں۔ دوسرا دن آپ کے اندر وی اساتھی ہیں کہ آپ کے پاس وہ تمام چیزیں وافر مقدار میں موجود ہیں جو کہ آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں میں اسے ذاتی دولت کا نام دیتا ہوں۔ یہ ذاتی دولت، پہار، ظہور، سرے جا یا دسرے لوگوں کے کام آتا، ان میں سے کچھی ہو سکتی ہے۔ یہ دنیوں میں جو ہمیں بہت زیادہ پر سکون کرتی ہے اور ملکہن اور ملکھوں کرئے ہیں۔ صرف عملی دولت ہی نہیں دولت مند نہیں بلکہ عملی دولت کے ساتھ ساتھ ذاتی دولت ہی بہت ضروری ہوتی ہے۔ جو لوگ یہ سچے ہیں کہ عملی دولت ہی خوشی اور سکون کے لیے کافی ہوئے تو وہ لوگ غلط سوچتے ہیں۔

اگر ہمارا انعام لکل آتا ہے اور ہم اچاک دولت مندین جائیں تو اس کا اثر ہماری زندگیوں پر ہے۔ اس انداز سے ہوتا ہے کہ لوگ عیش و غرفت کی زندگی گزارنا شروع کر دیجئے ہیں اور بہت کی گزاریاں خرچ لیتے ہیں، جنمیں سنبھالے رکھنا ہمارے لیے بہت مکمل ہو جاتا ہے۔ اس عیش و غرفت کی وجہ سے ہماری ازدواجی زندگی بھی متاثر ہوتی ہے۔ جس اس پہلے حصے میں ہم دولت کے بارے میں بات کریں گے۔ میری پہلی کتاب

میں بھی کفر مدنہ تھا تو کہ کیسے دولت کمالی چائے اور جنت کی بات ہے کہ میرے پاس پھر بھی پیش نہیں ہوتے تھے۔ پھر میں نے ثبت سوچ کے بارے میں پڑھنا شروع کر دیا کہ کس طرح سوچ میں ثبت تبدیلی لا کر آپ بہت زیادہ دولتمد ہو سکتے ہیں۔

**Natural Born Winners**  
تھی جو کہ کامیاب لوگوں، شخصوں اور اقویوں میں موجود تھے جن کی بنا پر انہوں نے ترقی کی تھی اور بہت زیادہ دولت حاصل کی تھی۔ یہ بہت دلچسپ بات ہے کہ دنیا میں پہلا شخص

### خود اعتمادی سے آپ دوسرا لوگوں کے دل جیت سکتے ہیں

میں نے خود میں تبدیلی لا کر یہ طرزِ عمل اختیار کر لیا کہ میں نے چھوٹی کی بجائے بڑی چیزوں کے بارے میں سوچنا شروع کر دیا اور اپنی سوچ کو سوچ کر لی۔ میں امید رکھتا ہوں کہ آپ کی اس تصور پر عمل کر سکتے ہیں اور یہ طریقہ اپنا سکتے ہیں۔ آپ کے خیالات، آپ کا اعتقاد اور جو آپ کا تصور ہے، ان تمام بیوں کی جملک آپ کو اپنی آنکھے زندگی میں نظر آئے گی۔ ظاہر ہے کہ عجھ آپ کے پاس نہیں ہے آپ اسے سوچنے نہیں کر سکتے لیکن جب آپ بہت زیادہ یقین اور 100 فصد اعتماد کے ساتھ اپنے اندر یہ احساس پیدا کر لیں گے کہ آپ نے وہ چیز حاصل کرنی ہے جو آپ چاہتے ہیں یا آپ دیے ہوئے ہیں کچھ میں جیسا کہ آپ چاہتے ہیں تو یقیناً آپ کی سوچ حقیقت میں تبدیل ہو جائے گی۔ جب آپ کے ذہن میں کھوکھ کر لیتے ہے اور وہ آپ کی سوچ کو حقیقت میں تبدیل کرنے کا راستہ ڈھونڈ لیتا ہے اور اسے کچھ ثابت کر دیتا ہے۔ میں اپنے بارے میں جس اندازے سے سوچتا تھا اسے میں بالکل دیکھا ہو گیا ہوں میں اب کسی بھی احساس میں جاؤں تو میں بہت پراعتماد طریقے سے بولتا ہوں اور میرا دردیہ بہت پراعتماد ہوتا ہے۔

چور زندگی میں ہم جو کچھ بھی سوچتے ہیں وہ ہماری طرف کھینچتا آتا ہے۔ آج بہت یقین سے اس بات کو درست جائیں۔ ہم جو کچھ سوچتے ہیں اسے اپنی طرف کھینچ لیتے ہیں۔ اسی طرح ہم استحصال کر لیتے ہیں۔

آپ جو حاصل کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ وہ تمام اشیا اور فرمدار میں حاصل کر لیں تو یہ آپ کو بہت اچھا محسوس ہو گا اور آپ کی ذات کی محفل کا احساس دے گا طاقتور سوچ کی دولت پیدا کرنی ہے۔

ہم اس بات پر یقین کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ دولت یعنی میں خوشی دیتی ہے اور دولت سے ہم اپنی ضرورت کی اشیا خریدتے ہیں۔ سادہ الفاظ میں ہم یہ کہیں گے کہ دولت اپنے باختیار اور طاقتور بنا دیتی ہے۔ اگر آپ حرامی سفر کر رہے ہیں تو 10 ٹلنی کی اسٹریفار

### غربت کا شعور

میں بھی شے اس بات پر بہت یقین رکھتا تھا۔ میں بہت چھوٹی عمر سے یہ غربت سے واقف ہاں ہوں۔ میں نے بہت واضح طور پر یہ دیکھا ہے کہ غربت کس طرح سے میری سوچ بڑی تھی تو قاتا اور میری زندگی پر اثر انداز ہوتی رہی۔ پھر میں نے ایک لمحے میں یہ فیصلہ کر لیا کہ میں غربت کو دولتمدی میں تبدیل کر دیں گا لیکن کہ میں نے اپنی سوچ بھی شے کے لیے بد ڈالی اور میں خود کو دولتمدی تصور کرنے لگا۔ میں بہت یقین سے اس بارے میں سوچنے لگا کہ میری زندگی میں بہت بڑی تبدیلی آئے گی اور میں بہت زیادہ دولتمدی پوچھا چاہا گا۔

میں اس بات کی نشاندہی کرنا چاہوں گا کہ میں نے اسی لمحے سے باخبر رکھ کا فیصلہ کیا۔ میں ملازمت حاصل کرنے سے صرف کچھ مہتوں کی دوری پر تھا اور مجھے امیر بھی تھی کہ چھ مہتوں کے بعد مجھے ملازمت مل جائے گی۔ اگر میں خود کا تقدیمی جائزہ لوں گا تو میں جس دن سے دولت کے بارے میں جانے اور اسے حاصل کرنے کے بارے میں سوچا تھا، اس دن سے میں شہری طور پر کچھ بھی غربت کے بارے میں بھی سوچا تھا۔ میں نے اس بات پر یقین کر لیا تھا کہ میں بہت ساری دولت کاواں گا اور مستقبل قریب میں بہت دولتمد انسان بن جاؤں گا۔ اس سوچ کے نیک چھ مہتوں کے بعد سے میری سالانہ آمدی فی کاشت زیادہ ہو گئی۔

سوچ بدلتے کے بعد میں نے وہ گاری میں جگہ میری ملازمت شروع ہوئے وائی تھی، میں نے تکلیف طریقے سے اس بات پر یقین کر لیا کہ آنے والے دن خواہ کیسے بھی ہوں، میں اپنی زندگی میں بہت زیادہ دولت حاصل کرلوں گا۔ میں نے جب اپنی کمپنی میں کام شروع کیا تو میری آدمی ابتدائی چھ مہتوں میں چار گناہ یہ بڑھ گئی۔ یہ میری زندگی میں بہت بڑی تبدیلی تھی۔ میری کمپنی کے پاس میری پرانی ملازمتوں کی تفصیلات موجود نہیں تھیں، میں نے بہت پہنچت یقین اور سوچ کے ساتھ کام شروع کیا۔ میں بہت سے نئے لوگوں سے ملے لگا اور بے شمار سوچے کیے تھے ہر ٹیکا موڑا پہلے سے زیادہ بڑا ہوتا۔ اس طرح میری سالانہ آمدی پہلے سے بہت زیادہ بڑھتی چاری تھی۔ یہ کیا اتفاق ہے؟ بہر حال میں با توں کے بارے میں پہلے نہیں جانتا تھا لیکن اب یہ سب باشیج ہو گئی تھیں۔ صرف سوچ بدلتے سے میری زندگی میں بہت بڑی تبدیلی آئی۔

### یاد رکھیں کہ

دولت صرف پیسے ہی کام نہیں ہے بلکہ زندگی میں آپ کی ذاتی خوشی اور ان مادی اشیا کی فروائی کا کام ہے جو کہ آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں۔

### آج کے دن

آپ اپنی زندگی میں ان دفراشیا کی اہمیت کا اندازہ لگائیں اور اپنے دل اور روح سے اپنی دولت سے باخبر ہو کر زندگی کرداریں۔



آپ کے اتنے کام نہیں آئیں گی۔ حقیقتی کا ایک ماچ حرامی آپ کے کام آئیتی ہے۔ ایک فیصلہ اپنے رہنمای اپنی زندگی کے آخری ایام میں وہیں کا دوlut مدد ترین فیصلہ تھا کہ وہ اپنے تھام تر دولت قلائل کا محسوس ہے۔ میں نے اپنے فیصلے میں یہ فصلہ کیا تھا کہ میں جو کامیں۔ وہ اس بات پر یقین رکھتا تھا کہ انسانی روح کی تربیت اور ترقی کے لیے تھام انجامی ضروری چیز ہے۔ میں نے چھوٹیں ہو کر کوئی دیکھ دیا کہ آپ کے کام آئیں۔ اس کتاب کا نام یقیناً ہے کہ آپ کے کام آئیں۔ اس کتاب کا نام یقیناً ہے کہ آپ کے کام آئیں۔ یہ ایک شاہکار کتاب ہے۔ اسے لکھنے کے 56 مہال کے بعد کے گزے سے ہے اس کے 14 مہینے نئے پوری دنیا میں فروخت ہوئی ہیں۔ اس کتاب میں یہ تیار گیا ہے کہ دولت آپ کی سوچ کی طاقت سے پیدا ہوئی ہے۔ اگر آپ کسی سوچ طاقتور ہو گئے تو آپ کے تینی دو یا اور آپ کے دلیاء تعلیم اور آپ کی ذہانت پر اثر انداز ہو گئی۔ اپنی سوچ کو طاقتور بنا کر آپ کے زندگی کے ہر میدان میں ترقی کر سکتے ہیں۔

یہ بات زیادہ اہم ہے کہ آپ اس بات کو صرف سمجھیں یعنی نہیں بلکہ اس پر پہنچت یقین کریں۔ بعض اوقات صرف سمجھ لیتا ایک خیالی بات لگتی ہے جو کہ کچھ مجب معلوم ہوتی ہے اور یہ میں منطقی بات نہیں ہو گئی۔ ہم سب یہ حقیقت جانتے ہیں کہ کائنات موجود ہے۔ ہم اس میں رہتے ہیں ایک کائنات کیا ہے آئی ہے؟ مجھے اس بات کا کوئی اندازہ نہیں ہے۔ اس میں زندگی کے آثار کی تحریک بھی اسے نہیں آئیں ہیں؟ میں نے جدید Big Bang کا نظریہ پڑھا ہے لیکن وہ صرف ایک نظریہ ہے، میں ابھی بھی اسے نہیں سمجھ سکا، درحقیقت وہاں میں بہت سے الٹے نظمات موجود ہو رہے ہیں اور اس زندگی کا

میں بہت سا وقت ان دعویات کو جانتے میں گزار سکتے ہیں لیکن ہمیں بجائے اس کے اپنی زندگی سے لفظ اخانا چاہیے اور تمام نعمتوں سے لفظ اندر ہونا چاہیے۔

میں زندگی میں آپ کی ہر کامیابی کے لیے دعا گوہون خواہ وہ آپ کی ذاتی ہو یا مادی دولت ہو۔ میری سب سے بڑی خواہی یہ ہے کہ آپ اسے بہت ٹھہری سے اور دوسرے لوگوں کے فائدے کے لیے استعمال کریں۔ اپنے آپ کو کمی ہی اس بات کی اجازت نہیں کہ آپ ان تمام خواہیوں کے خادی ہو جائیں کہ ان کے قیمتی بن جائیں۔ ہمیں جس چیز کا بھی خبط ہوتا ہے اور وہ ہمارے سے اپنے حادی ہو جائیں تو بلا خدا اس کے قیمتی بن جاتے ہیں۔

گاہ پر امید کا یہ مطلب ہے کہ آپ میں یہ احساس پیدا ہو جائے کہ آپ کے کام بہت اچھے ہو جائیں گے۔

### جب ہم امید کا دامن چھوڑ دیتے ہیں تو ہم سب کچھ ہار جاتے ہیں

امید دینا کی سب سے زیادہ طاقتور چیز ہے، کیونکہ یہ ہمیں اس قابل بناتی ہے کہ ہم ثابت انداز میں سوچیں، اور ہمیں پختہ یقین دلاتی ہے کہ ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ ثابت سوچنے والے انسان کے لیے امید ایک غیر فانی اعتماد ہے۔ وہ ہمیشہ کمی سوچتا ہے کہ آئندی تو کل میرا کام کمل ہو جائے گا۔ لیکن جو اوری پر امید نہیں ہوتا وہ سب کچھ چھوڑ کرنا کافی کوئا پناہ مقدم رکھ لیتا ہے۔ یہ دنیا کی تجربہ تین یقینوں میں سے ہے کہ ہم میں سے بہت سے لوگ جو کہ ملکات میں زندگی برقرار ہے ہوتے ہیں وہ امید کا دامن چھوڑ دیتے ہیں اور جو کوئی بھی محالہ ہو وہ اسے بے کار رکھنے لگتے ہیں۔ ایسے لوگ ہمیشہ قلی سوچتے ہیں کہ ان کے حالات کبھی بہتر نہیں ہو سکتے۔

امید ایک بہت ہی طاقتور چیز ہے جو آپ کو اپنے مقاصد حاصل کرنے میں بہت مدد و گار ملتا ہوئی ہے۔ ہم سب لوگوں کو اپنی زندگیوں میں امید کو شامل کر لیتا ہے اور ہمیشہ کمی گمان کرنا چاہیے کہ ہمارا مقدمہ خدا کوئی بھی ہو وہم ضرور کامیاب ہوں گے۔

اگر آپ عمل نہیں کریں گے تو آپ کی امید ختم ہو جائے گی آپ کو کامیابی کے لیے خواہش کے ساتھ ساتھ عمل کرنا چاہیے کامیابی کے لیے امید اور عمل دونوں ضروری ہیں۔

میں اس بات پر یقین رکھتا ہوں کہ ایک عملی امید ہوتی ہے اور ایک امید پر یقین میں ہوتی ہے۔ پر یقین کے امید ہبہ ہوتی ہے جب آپ ثابت الفاظ استعمال کرتے ہیں لیکن آپ کو ان باتوں پر یقین نہیں ہوتا۔ آپ کہہ سکتے، مجھے امید ہے کہ میرا الغام ملک آئے گا لیکن درحقیقت آپ کو اس باتوں پر یقین نہیں ہوتا کہ اسیا ہو گا۔ بعض اوقات ایسے حالات پیدا ہو جاتے ہیں کہ آپ کو ان پر کوئی اعتماد نہیں ہوتا۔ میں صورت میں امید کرنا کہ ایک م Jorge آگتا ہے کہ واقعی ایسا ہو سکتا ہے۔ میں امید کا یہ مطلب ہے کہ جب آپ کی چیز کی خواہش کرتے ہیں کہ ایسا ہو جائے تو آپ کو پورا یقین ہوتا

دوسرہ اہم  
نواد دن

### روشن امید

امید تو روشنی کا ایک فروزانہ ہے جو ہماری رہاہوں کو روشن کرتا، خیگوار ہنا یا اور آرائستہ کرتا چلا جاتا ہے۔ رات کا نہ صراحت، جس تدریج ہوتا ہے، امید کی روشنی اسی قدر تیز ہو جاتی ہے۔

آلیور گولڈ سٹھن، آئرش ڈراما نگار، (عہد حیات: 1730 تا 1774ء)

آپ نے اکثر دیکھا ہوا گا کہ آپ محلے کا آغاز ان الفاظ سے کرتے ہیں، مجھے امید ہے، چیز کے مجھے امید ہے کہ میری ترقی ہو جائے گی..... مجھی گاؤں ہو گی..... پارنگ کی جگہ جو گی..... نئے تعلقات ہوں گے؟ آپ نے تمام باقوں کی تصویر ہوتا ہو گئی۔ امید سے ہمارا کیا مطلب ہوتا ہے؟ آپ کو یہ بات دلچسپ لگی کہ مجھی کہنی ہے اہم عناصر، اعتماد، پیار اور امید پر مشتمل ہے۔ میں اس طرح امید روشنی کا ایک نہایت اہم پہلو ہو۔

اب ہم امید پر روشنی ڈالیں گے۔ امید بنیادی طور پر احساس ہے کہ آپ کی خواہش پروری ہو جائے اس عام طور پر مستعمل لغات میں اس کا بھی مطلب لکھا ہوتا ہے۔ ہم یہ لفظ اکثر استعمال کرتے ہیں جب ہم تو قبیل مجھی نہیں کرتے کہ ہماری خواہش پروری ہو جائے۔ اکثر ہم ایسا کہتے ہیں کہ مجھے امید ہے کہ اندر وی طور پر آپ کو یقین نہیں ہوتا اس لیے ایسا کہتے ہیں کہ مجھے امید کے مجھے ملازم تسلی جائے گی یا میرا کام کمل ہو جائے گا جبکہ اندر وی طور پر آپ کو یقین نہیں ہوتا کہ ایسا ہو جائے گا لیکن پھر مجھی آپ امید کاظنا طریقہ استعمال کرتے ہیں۔

اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کاظنا طریقہ پر اڑاٹا ہت ہو تو آپ مقدمہ حاصل کرنے کے بارے میں یقین کریں کہ آپ مقدمہ حاصل کر لس گے اور مقدمہ سے کاڈ پیدا کریں، اس طرح آپ کاظنا امید بہت پراٹر ہو جائے گا اور مقدمہ حاصل کرنے میں آپ کو کامیابی سے ہمکار کرے

### یاد رکھیں کر

کبھی بھی اپنے خوابوں کی تجھیں کے لیے امید کا دامن نہ چھوڑیں۔ ہمیشہ ایک راستہ ایسا ہوتا ہے جو کہ آپ کے خوابوں کو حقیقت میں بدل دیتا ہے۔

### آج کے دن

عملی امید کی مشت کریں، اور اب اس امر پر یقین رکھیں کہ آپ کے مقاصد ضرور ایک دن پاچھیں کو رکھیں گے۔



ہے کہ حقیقت ایسا ہو جائے گا کیونکہ آپ حقیقت پنداشتہ طریقے سے ہوچتے ہیں کہ ایسا ہونا ممکن ہے۔

عملی امید سے مراد یہ یقین ہے کہ آپ کے مقاصد حقیقت میں تبدیل ہو جائیں گے

مغلی امید سے مراد یہ ہے کہ آپ یا راہ رکھ لیتے ہیں کہ آپ اپنا مقدمہ حاصل کر لس کے اور آپ کو اس بارے میں علم بھی ہوتا ہے۔ اور یقین بھی ہوتا ہے۔ اگر ہمیں اپنے بارے میں ثابت امید ہے تو ہم اسے دوسرے لوگوں کے منتظر ہو جائے سے جتنی حاصل گر جائے کہ اور زیادہ بڑھا سکتے ہیں۔ اگر آپ سے کوئی بھی فرضیہ یہ ہات کہ کہہ کر وہ کچھ حاصل کرنا چاہتا ہے لا جو کچھ چاہتا ہے تو آپ ہمیشہ اس کی حوصلہ افزائی کریں۔

میں جب بھی کسی ایسے فرضیہ سے ملتا ہوں جو مجھے اپنی امید اور خواہشات کے بارے میں تھا تا ہے تو ہمیشہ بھی کوئی ہوتی ہے کہ میں اس فرضیہ کی امید اور توقعات بڑھاؤں جس سے

وہ کامیاب ہو سکے اور اس لی بغیر مل کی امید میں تبدیل ہو جائے۔ میری بیکی کوشش ہوتی ہے کہ وہ فرضیں باقاعدہ نہ کرے بلکہ عملی ہی کرے۔

اکثر اوقات ہم زندگی میں امید کو دیتے ہیں اور دلبرداشت ہو جاتے ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ ہم میں سے بہت سے لوگ جو کہ یہ کتاب پڑھ رہے ہیں، ان میں سے اکثر لوگوں کو یہ امید ہو گئی کہ وہ پڑھ کر اس پر عمل کر سکتے ہیں لیکن انہیں اس بات کا پختہ یقین نہیں ہو گا کہ وہ اتنی ایسا کر سکتے ہیں اور خود کو تبدیل کر سکتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ آج کے دن آپ وقت نہ کالیں اور واضح طور پر اس خوش اور کامیابی کے بارے میں سمجھ جو کہ آپ اگلے چھ بیمنٹوں میں اپنے مقاصد تک پہنچ کر حاصل کرنا چاہیے ہیں۔ آپ جب کبھی بھی کسی مسئلہ کا سامنا کریں تو آپ عملی امید کا استعمال کریں۔ آپ کو اس بات کا پرواہ یقین ہونا چاہیے کہ آپ اس مسئلہ کا سامنا کر لیں گے اور اپنے مقاصد میں کامیاب ہو جائیں گے۔ جب آپ ایسا کریں گے تو اسریہ آپ میں یہ احساس پیدا کر دے گا اور آپ کی ہمت بڑھانے گا اور آپ انہا مقاصد حاصل کر لیں گے۔

اس حد تک بڑھ جاتی ہیں کہ آپ ایسا سوچتا شروع کر دیتے ہیں کہ اسکی زندگی سے موت زیادہ بہتر ہے۔

### زندگی میں بُرے اور اداس کر دینے والے واقعات بھی پیش آتے ہیں

12 سال کی عمر میں شدید واقعی تشویش میں جلا ہو گیا جو کہ 16 سال کی عمر تک رہی جب میں صرف 20 سال کا تھا تو یہرے والے واقعات پا گئے۔ میں ٹیکلی ویڈیوں میں پانچ پہلا سطھے اور پوٹر گرام کرنے والا تھا جس میں نے بہت اچھا کردار ادا کرنا تھا لیکن میرے والد کی وفات کے بعد ہمیشہ بُرے بُرے محسوس سلطان کا امراض را حق ہو گیا جس کی وجہ سے مجھے تیکی کیلیں سے کمال دیا گیا۔ جس لڑکی سے میری بہت دوستی تھی، اس نے بھی مجھے چھوڑ دیا کیونکہ وہ محسوس کرتی تھی کہ میں اسے وہ زندگی اور آسانیں نہیں دے سکتا جو وہ چاہتی تھی۔ ان تمام واقعات نے میرے اعتماد اور عزت نفس کو بہت بُھی سبھاچی اور بُرے بُرے ایتھے پہنچنے کا باقاعدہ سفر جانے کے بعد جیسا بھی ہوں ان واقعات کی وجہ سے ہوں، ان تمام واقعات نے مجھے بہت بُکھر سکھایا ہے۔ میں نے ان تمام واقعات سے سبق حاصل کیا ہے اور ان سے اپنے مستقبل کو سوارنے میں مدد دی ہے۔

ہم میں سے ہر انسان زندگی میں ایسے واقعات کا تجربہ کرتا ہے جو کہ اسے پھر کی طرح گھما کر کر دیتے ہیں اور اسے سوچنے پر بوجوہ کر دیتے ہیں کہ میرے سامنے ایسا کیوں ہوتا ہے؟ یہ تجھک نہیں ہے۔ کیا آپ کے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے؟ ہم سب کو زندگی میں وحدا دینے والے واقعات جیسے ہیں اور ہمارا بہت نقصان بھی ہوتا ہے۔ بہت سے لوگ ان واقعات کا سامنا نہیں کر سکتے اور انہیں خوش انسانی سے سمجھنا نہیں سکتے۔ وہ اپنے غصے اور تکلیف سے باہر نہیں کل پاتے۔ جب تک ہم ایک تکلیف دہ واقعات کو پس پشت نہیں ڈال دیتے۔ یا اپنے ذہن سے نہال نہیں دیتے تو تب تک ہم ان پر قابو نہیں پاسکتے، اس طرح سے ہم خود کو بدست محسوس کرنے لگ جاتے ہیں اور ہماری تکلیف میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ مجھے ظلمات بھیں اگر میں ایسا سوچتا ہوں کہ اگر میرے والد زندہ ہوتے اور میری زندگی میں وہ تکلیف دہ واقعات نہ ہوتے جو کہ گزر چکے پورا شہ پاتے ہیں۔ ایسے لوگوں کی زندگیاں کافی مُشكل ہوئی ہیں۔

ہمارا کردار ان واقعات سے تکمیل نہیں پاتا جو کہ ہماری زندگی میں پیش آتے ہیں۔ بلکہ ہمارا کردار اس چیز سے ملتا ہے کہ ہم ان واقعات سے کیا سمجھتے ہیں اور کیسے اسی عملی احتیار کرتے ہیں۔

مجھے اس بات پر کوئی تکمیل نہیں ہے کہ ہم میں سے ہر فرد زندگی میں واقعی اور جسمانی تکالیف جیلتا ہے، بعض اوقات یہ تکالیف اتنی زیادہ ہو جاتی ہیں کہ ان کی کوئی حد نظر نہیں آتی۔ یہ تکالیف

دوسری ایک  
دووال دن

### مشکلات پر قابو پائے

”زیادہ مشاہدہ کرنا زیادہ مصائب جیلنا اور زیادہ طالعہ کرنا علم اور تربیت کے لیے پیش رکھنا ہے۔“

تبیخن ڈسراٹیکل، سیاست دان (محمد حیات 1804ء - 1881ء) اب آپ تھیں کے درمرے بُخت سے گزر رہے ہیں۔ آپ نے عادات اپنے اپنے خانہ میں ایک غذا کو زندگی پر قابو حاصل کر دیا ہے۔ اور تھیں کا سامنا کرتے ہوئے اپنے پرانے خانہ خلافت اور عقاوی کو بدل کر رہے ہیں۔ کیا آپ اپنے اندر تبدیل محسوس کر سکتے ہیں؟ غالباً دوسرے لوگ بھی آپ کے اعتماد تبدیلی دیکھ رہے ہوں گے۔

یہ بہت اہم ہفتہ ہے، آپ دوسرے بُخت سے گزر رہے ہیں اور آپ اس عمل کر رہے ہیں۔

آن میں اس بات پر روشنی ڈالوں گا کہ آپ کس طرح سے اپنی مشکلات پر قابو پائیں گے اور اپنے بُخت کرنا سکیں گے۔ ہم سب لوگوں کو مختلف درجے کی تکالیف سنبھال کر تجربہ ہوتا ہے۔ کچھ لوگ ان مشکلات سے تھوڑا مشتعل ہوتے ہیں اور انہیں زندگی کے واقعات کا ایک سمجھتے ہیں۔ اور دوسری جم کے لوگ غریب گھرانے میں پیدا ہوتے ہیں اور غربت کی بُکھی میں پتے رہتے ہیں۔ ایسے لوگ غیر تعلیم اور یادار کے پورا شہ پاتے ہیں۔ ایسے لوگوں کی زندگیاں کافی مُشكل ہوئی ہیں۔

ہمارا کردار ان واقعات سے تکمیل نہیں پاتا جو کہ ہماری زندگی میں پیش آتے ہیں۔ بلکہ ہمارا کردار اس چیز سے ملتا ہے کہ ہم ان واقعات سے کیا سمجھتے ہیں اور کیسے اسی عملی احتیار کرتے ہیں۔

مجھے اس بات پر کوئی تکمیل نہیں ہے کہ ہم میں سے ہر فرد زندگی میں واقعی اور جسمانی تکالیف جیلتا ہے، بعض اوقات یہ تکالیف اتنی زیادہ ہو جاتی ہیں کہ ان کی کوئی حد نظر نہیں آتی۔ یہ تکالیف

اہم مشکلات سے خود کو بچا کر ان پر قابو نہیں پاسکتے، ہم صرف اس طرح مشکلات پر قابو پاسکتے ہیں جب ہم بہت بُرے بُرے ایک دن گزرا جائیں گی، اور ہم ان سے بُکھر کچھ بُکھر کی کوشش کرتے ہیں اور ان کے ثابت پہلو کو دیکھتے ہیں۔

### آپ کو صحیح وقت پر صحیح فیصلہ کرنا چاہیے

ایک وفسد میں نے ایک ادا کار کی کہانی پڑھی تھی، اس نے بہت اچھا کردار دیا اور فلم کے ایک حصے میں بہت بُھکل کردار لیا جس کی وجہ سے اس کی قلم بہت کامیاب ہو کیتی تھی لیکن اس کو دار کر کے، فلم میں، سہا 1... 2... 3... 4... 5... جم کا سارا ہم احتضان کا شام کو ہو گئا۔ آ-

ہم سب لوگوں کے ساتھ زندگی میں ایسے واقعات پیش آتے ہیں جو کہ ہمیں ہونی، جسمانی اور جذباتی طور پر ایسے ہیں۔ پھر ہم ان واقعات پر کیسے قابو پائیں، شروع میں ہم انہیں نظر انداز نہیں کر سکتے اور نہ ہی ان واقعات سے بھاگ سکتے ہیں۔ ہمیں اپنے آپ کو بہت صاف الفاظ میں اور بہت جسمانی طریقے سے کہا ہے کہ یہ تمام واقعات گرجا جائیں گے بھیش باقی نہیں رہیں گے۔

ان مشکل سالوں میں یہ بات ہیرے لیے بہت اطمینان کا باعث تھی کہ مشکل وقت بھیش باقی نہیں رہتا۔ جب میرے والے واقعات پا گئے تھے اور مجھ سے سلطان ہو گیا تھا تو میں اپنے والد کو یاد کر کے، بہت پریشان ہوتا تھا اور روتا بھی تھا، لیکن اس وقت بھی مجھے اس بات کا یقین تھا کہ

زندگی میں جو کچھ بھی کریں آپ کو اس بات کا علم ہو جائے کہ آپ کا فحصلہ مجھے ہے یا نہیں، ہمیشہ صحیح وقت پر صحیح فیصلہ کریں۔

میرے والد کی وفات سے میں لے رشتہ سے مغلن یہ تجویز کیا کہ ہمیں اپنے رشتہ داروں سے بہت اچھا سلوک کرنا چاہیے اور جس حد تک مکن ہوا یا کہ دوسرے کو محنتا چاہیے اس لئے آپ جن لوگوں کے ساتھ رہ رہے ہیں۔ آپ کو انہیں یہ احساس دلانا چاہیے کہ وہ آپ کے لئے ہم اہم ہیں۔ اس طرح سے آپ بھروسہ زندگی کی داریں اور زندگی میں ہال مول سے کام نہ بچے۔

آپ زندگی میں جس چیز کی توقع کرتے ہیں۔ اگر واقعی طور پر ایسا نہیں ہوتا تو پھر بھی آپ ثابت قدم رہیں۔

جب مجھے سلطان جسم ارض لائق ہوا تو مجھے اس بات کا احساس ہوا کہ میں سب لوگوں سے کتنا پار کرنا ہوں اور سب لوگ بھی مجھے بہت پیار کرتے ہیں۔ میں نے پیاری سے خدا تعالیٰ کیسی اور یہ سکھا کر کی بھی دوسرے لوگوں کے بارے میں خدا سے راستے قائم نہ کریں۔ میں نے پریشانی سے یہ سبق حاصل کیا کہ دنیا میں ہر سلسلے کا حل موجود ہے اور ہم نہیں ہماری چاہیے اور سلسلے کا حل ڈھونڈنا چاہیے۔ میں نے یہ سکھا ہے کہ جب بھی آپ اپنے سماں سے بھائیتیں تو آپ کو یہ چلا ہے کہ آپ نے ان سماں سے چھوٹا۔ ہماری بھائیتیں اپنے اسی طور پر ایسا ہے۔ اگر بھی آپ کے راستے پر ایسا ہے۔

® SCANNED PDF By HAN

ٹکلیف کے پیدا گزرجائیں گے۔ میں نے زندگی میں اس حقیقت کا اندازہ لگایا ہے کہ زندگی کے واقعات بذاتِ خود اچھے یا بُرے نہیں ہوتے۔ ہماری زندگی میں جو بُرے واقعات ہوتے ہیں وہ اچھے واقعات میں بھی تبدیل ہو سکتے ہیں۔ یہ سب آپ کی سوچ پر محضہ ہے کہ آپ کسی واقعہ کو کس طرح سے لیتے ہیں۔ ہر حال یہ بات تھیک ہے کہ آپ ٹکلیف وہ واقعات سے بھی بہت کچھ سکتے ہیں اور وقت بھیسا نہیں رہتا۔ برادوں کی گزرجائی ہے۔

میں بہت سے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جنیں درست میں بہت دولتی ہے۔ آپ شاید ان لوگوں کو بہت خوش قسمت صورت کرتے ہوں گے۔ صرف 3 سال کے بعد کسی بڑی چیز کے عادی ہونے کی وجہ سے شفاخانے جاتے ہیں یا کسی ہپٹاں میں داخل ہوتے ہیں۔ میں بہت سے ایسے لوگوں کو بھی جانتا ہوں، جن کے خابوں کی تخلی ہو جاتی ہے۔ انس ان کی پسند کی ملازمت کے لیے بیسے جاتے ہیں لیکن ان کے شادی کا میبا نہیں ہوتی، زندگی میں اچھے اور بُرے واقعات ساتھ ساتھ ہوتے ہیں۔ میں ہمیشہ بھی کہتا ہوں کہ ٹکلیف وہ واقعات بھی اچھے ہوتے ہیں، وہ صرف اس لیے کہتا ہوں کہ ٹکلیف وہ واقعات بھی بھیسا نہیں ہوتے ہیں۔ میرے والد کی وفات اور وہ ٹکلیف جو میں نے زندگی میں اور آپ اس سے بہت کچھ سکتے ہیں۔ میرے والد کی وفات اور وہ ٹکلیف جو میں نے زندگی میں انجامی ہے، اس سے میں نے بہت کچھ سکھا ہے اور خود کسی پہنچا ہے کہ میں کون ہوں۔ یہ بات اہم ہے کہ کہ آپ یہ بات پار ہیں کہ اگر آپ اذیت دہ وقت کز از رہے ہیں، ایک دن فتح ہو جائے گا۔

دولت، محنت، خوش 42 دنوب کا عملی کورس

75

یاد رکھیں کہ  
محلکات آپ کا مقدمہ نہیں ہیں، ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ مشکل وقت گزرجائے گا۔

آج کے دن

آپ اپنے پاسی کے ٹکلیف دینے والے تجویزات پر نظر رکھیں اور اس بات کا اندازہ لگائیں کہ آپ نے ان سے کتنا حقیقی سبق حاصل کیا ہے۔ ان تجویزات نے کس طرح سے آپ کی سوچ پر ثبت اور حقیقی انداز میں اڑ کیا ہے۔ ہماراں کے بعد آپ صرف اپنی تجویز تجویزات پر مرکوز کریں۔



ناؤں کیلیے وہ ازدھو کے شکر گزار 3

دولت، محنت، خوش 42 دنوب کا عملی کورس

74

آپ اپنے سماں سے بھی بھاگ نہیں سکتے۔ آپ کو ضرور ان کا سامان کراچا ہے اور ان پر قابو پانا ہے۔ میں نے اس تجویز سے پہلے سکھا ہے کہ مکون حاصل کرنا اور پریشانی سے ازادی حاصل کرنے کی کوئی چیز نہیں ہوئی جہاں جا کر آپ ان تمام چیزوں سے چھکاڑہ حاصل کر سکتے ہیں، بلکہ یہ آپ کی وحی کیفیت ہے جسے تبدیل کر کے آپ مکون اور آزادی حاصل کر سکتے ہیں۔ دنیا میں صرف واحد ایسی ہے جو کہ آپ کو چھٹی خوشی دے سکتی ہے اور وہ آپ کی ذات ہے۔

میں دنیا کوئی کمی سے نکالے جانے کے بعد میں نے یہ سکھا ہے کہ ہم جس چیز کی خواہیں رکھتے ہیں، اسی سے اسی طرح نہیں چاہیے چھے کہ وہ ہیں۔ یہیں مل صورت حال کا مقابلہ کرنا چاہیے۔ اس انداز میں نہیں سوچنا چاہیے کہ اگر ایسا نہ ہوتا تو کیا ہوتا، نہیں یہ کہ میں جانتا ہوں کہ یہاں ہماری مرہٹی کے مطابق ہوتا۔ اس سے میں نے یہ سکھا ہے کہ ہم جس چیز کی خواہیں رکھتے ہیں، میں پسند کرتا ہو اور وہ مجھے چورکر جلی گی تھی، اس دلے تھے میں کمی تو ازان نہیں ہو سکتا۔ آپ کو کمی بھی اس غصے کے ساتھ رہنے کی خواہیں نہیں کریں چاہیے جو آپ کے ساتھ رہنے کی خواہیں نہیں رکھتا۔

اگر آپ اپنے راستے سے بہت جانا چاہیے ہیں اور ہر حقیقت پر زندگی کی محلکات نے پہنچا چاہیے ہیں تو اس طرح سے آپ صحیح زندگی نہیں گزراہیں گے، آپ زندگی کے بہت سارے تجویزات سے گردم ہو جائیں گے۔

آپ کی روح آپ کو اس قابلیتی ہے کہ آپ زندگی میں محلکات سے متاثر نہ ہوں۔ آپ صرف اپنے بھم پریشکل نہیں ہیں اور زندگی آپ اپنے ذہن یا جذبات پر مشتمل ہیں۔ میں اس بات پر یقین رکھتا ہوں کہ ہم سب روحانیت پر مشتمل ہیں۔ ہر انسان کے اندر روح موجود ہے اور وہ آپ کی مشکل حالات سے نجٹے کے لیے مدد کرتی ہے۔

ٹکلیف حقیقت میں موجود میں اور یہ آپ کو اذیت دینی ہیں۔ لیکن اگر تجویز کیا جائے تو آپ کو پا چلتا ہے کہ ٹکلیف کا وقت بھی بالآخر گزرا جاتا ہے۔ اور ہم اس تجویز سے وہ کچھ حاصل کرتے ہیں جو مشتمل میں ہمارے کام آتا ہے اور زندگی میں ہر ٹکلیف اور مشکل سے ہم ایسا تجویز ضرور کرتے ہیں جو تمہاری باقی زندگی میں ہمارے کام آتا رہتا ہے۔ میں آپ اپنی ماہی کی ٹکلیف کا تجویز کریں اور یہ کمیں کہ آپ نے ان سے کیا حاصل کیا ہے۔

دولت، محنت، خوش 42 دنوب کا عملی کورس

77

چوں کی طرح نہ ہیں، دنیا کو اپنی ذات کے حصار میں رہ کر دیکھتے ہیں تو ہم بھی سوچتے ہیں کہ دنیا ہمارے لیے کیا کرتی ہے۔ اس طرح سے ہم میں ہمدردی کا احساس پیدا نہیں ہوتا کیونکہ ہم صرف اپنے لیے حق سوچتے ہیں اور اپنے انداز سے دنیا کو دیکھتے ہیں۔ ہماری صرف اپنی صورتیات ہی

دولت، محنت، خوش 42 دنوب کا عملی کورس

76

دوسرا حصہ

کیا رہواں دل

دیکھتے ہیں اور ضرورت مند ہن جاتے ہیں اور بجاۓ اس کے کہ دوسرے کام آئیں ہم دوسرے لوگوں سے تو قحط وابستہ کر لیتے ہیں۔

میں نے اپنے تجربے سے بہت غیر معمولی چاقی سکھی ہے جو یہ ہے کہ جب آپ دوسرے لوگوں کی مدد کرتے ہیں تو اس سے آپ کو بھی بہت فائدہ پہنچتا ہے۔ اس میں جسمانی مدد و دعا میں اور ثابت خیالات تمام چیزیں شامل ہیں۔ میں اس کام سے اوقاف ہوں۔ آپ دوسرے لوگوں کے لیے حرم کا جذبہ رکھتے ہیں، تو وہ کسی کی صورت میں آپ کے پاس اپنی آٹا ہے۔ جب کسی بھی میں شکل انسان سے متباہ ہوں وہ کتنا بھی غیر مہذب اور غصیلاً کوئی نہ ہو میں بیش اس کے سامنہ ہردو کرتا ہوں اور اس کے بارے میں اپنے خیالات اور روایتیں اچھار کتا ہوں۔

رحم دلی کمزوری نہیں ہے بلکہ یہ آپ کو طاقت دیتی ہے اور آپ کی شخصیت کی نشوونما کرتی ہے۔

میں اپنے دل میں ہر شخص کے لیے ہردو کا جذبہ رکھتا ہوں۔ اگر کوئی غصیلاً ہوتا ہے تو مجھے واقعی اس سے ہردو ہوتی ہے اور اس کے درمیے پاؤں ہوتا ہے۔ میں نے دیکھا ہے کہ جب کسی شوری طریقہ پر ایسے انسان کے ساتھ اچھا بنا کر تکرنا کرتا ہوں اور ہردو ہر کوئی تو اس فضیل کا خصہ، فخر اور جاہیت میرے ساتھ تباہیاً ختم ہو جاتے ہیں۔ دوسرے لوگوں کے پارے میں رحم کا جذبہ رکھنا ایک ایسا ملاحت ہے جو نہیں انسانیت سمجھاتی ہے۔ میں اس بات کی پوری کوشش کرتا ہوں کہ میں دوسرے لوگوں کا دکھ سکوں اور ان کی مدد کر سکوں، پھر جب وہ لوگ میرے ساتھ ہٹھے اور جاہیت کا دریہ رکھتے ہیں تو میں اس کا برائیں مانا تاکہ میں اس بات کو سمجھی کی کوشش کرتا ہوں کہ وہ لوگ تکلیف میں ہیں، ان کا دن اچھا نہیں زیر زیادہ لوگ مجھے پسند نہیں کرتے خواہ کوئی صورت کی ہو میری یہ ذمہ داری ہوتی ہی کہ میں ان کے ساتھ اچھا سلوک کروں، اس لیے میں بیہقی اپنے قابویں رکھتا ہوں۔ اگر تم سب لوگ کوشش کریں اپنی رویہ اپنے قابویں کر سکتے ہیں اور لوگوں کے ساتھ رحم دلی سے پیش آئتے ہیں۔

© SCANNED PDF By HAMEEDI

درودمندی  
آرچٹ شوپنہار، قطبی، (عهد حیات: 1788ء تا 1860ء)

42 کے چلچیخ میں آپ کا ایک ضروری کام یہ کرنا ہوگا کہ آپ کو ہر روز کوئی شکل کا کام کرنا ہوگا۔ یہ بہت اچھی بات ہے، جب ہم کسی بھی دوسرے شخص کی مدد کریں یا اس سے بغیر کی صلح کے ہمدردی کا انتہا کرتے ہیں۔ رحم دلی اور ہمدردی یہ دلوں جذبے ساتھ ساتھ ہیں، اگر آپ رحم دل انسان میں تو آپ لوگوں کے ساتھ ہمدردی کا سلوک کرتے ہیں اور لوگوں کے کام آتے ہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ رحم دلی صرف آپ کے کاموں سے ہی ظاہر ہو بلکہ آپ اگر کسی شخص کے بارے میں اچھے خیالات رکھتے ہیں تو وہی آپ کی اس شخص سے ہمدردی کو ظاہر کرتے ہیں۔

ہمدردی کرنا یا کیسیں

بُنْتیٰ سے ہم میں سے بہت سے لوگ بہت بھگ نظر نظر سے دیبا کو دیکھتے ہیں اور اسی طرح اپنی پوری زندگی گزار دیتے ہیں۔ بچ جب چھوٹے ہوتے ہیں اور وہ صرف اپنی ذات کی محظوظ رہتے ہیں۔ ان کی دنیا صرف ان کی ذات کے کردار ہوتی رہتی ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جب یہ بچے بڑے ہو جاتے ہیں تو ان میں سے کچھ بچے اپنی ذات کے حصار سے باہر لکل آتے ہیں اور کچھ بچے اپنی ذات کے کردار دو رہتے ہیں اور ان کے لیے دنیا پہلی بھی ہی رہتی ہے۔ وہ ایسے سوچتے ہیں کہ دنیا کس طرح ہمیں خدمت کرتی ہے؟ لوگ میرے لیے ہیں؟ میں ہے ہیں؟ میں سے اٹو لوگ اسی انداز میں سوچتے ہیں کہ دنیا ہمارے لیے کیا کرتی ہے جبکہ ہمیں اس انداز میں سوچتا ہے کہ ہم دنیا کو کیا دے رہے ہیں۔ ایک کام جو ہم سب لوگوں کے لیے کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم ان کے دکھ دو دیں اور جس طرح ہمکن ہوان کی مدد کریں۔ آپ غالباً

یاد رکھیں کہ  
آپ کار ہم دلی کا جذبہ دوسرے لوگوں کے دلوں پر اس طرح اثر انداز ہوتا ہے کہ آپ سوچ  
بھی نہیں سکتے۔

آج کے دن

آپ موافق عالی کریں کہ آپ دوسرے لوگوں کے ساتھ اپنے خیالات، افلاط اور کاموں  
سے ہمدردی ظاہر کریں۔

## دوسروں کو دیکھتے تا کہ آپ کو دیا جائے

”اگر آپ دوسروں کو دینے کی عادت پختہ بنالیں گے تو پھر دوسروں کو عطا کرنے کی خواہ میں از خواضاذ ہو جاتے گا۔

والاٹ وٹ میں، امر کی شاہر (عهد حیات: 1819ء تا 1892ء)

میں نے یہ دیکھا ہے کہ آپ جو کچھ بھی کی کو دینے ہیں ہمودی طریقہ اس سے بڑھ کر آپ کو دامن لٹا ہے۔ آپ کسی پر طصر نہ کلتے ہیں۔ وہ آپ کے پاس کی اور صورت میں والیں آجاتا ہے۔ اگر آپ کسی کے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں تو وہ بھی کسی کی مدد کی صورت میں آپ کے پاس دامن آجاتا ہے۔ اگر آپ کسی کو پیار، ہمدردی، اور مدد دیتے ہیں تو یہ سب کچھ قیمت ہو کر اور بہت بڑھ کر آپ کے پاس والیں آجاتا ہے۔ آج میں جاتا ہوں کہ آپ لوگوں کو کچھ دینے کے بارے میں سوچیں، یقینی بات ہے کہ ہم سب لوگ زندگی میں کچھ کچھ چاہے ہیں، جس کے بارے میں ہم سوچتے ہیں اور تسلی اس کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہمارے پاس جو کچھ بھی ہو، پھر بھی ہم زیادہ کی خواہیں رکھتے ہیں۔ ہم پہلے سے زیادہ بڑی گاری، زیادہ گاڑی، زیادہ اچھے پڑے اور پہلے سے زیادہ اچھی چیزیں گزارنا چاہتے ہیں۔ جب ہم یہ سب کچھ حاصل کر لیتے ہیں تو ہم ہم اس سے زیادہ کی خواہیں کرنے لگتے ہیں اور ہم یہ مانتے ہیں کہ جب ہم اس سے بھی زیادہ حاصل کر لیں گے تو ہم خوش اور مکمل انسان بن جائیں گے اور ہم اور چیزوں کے بارے میں پر یثاث ہونا چھوڑ دیں گے۔ بہت سارے صوفی اور روحانی اسٹادان تمام بادی چیزوں کو چھوڑ دیتے ہیں اور ان کی خواہیں رکھتے ہیں۔ بیکن ہم ایک حقیقی دنیا میں رہتے ہیں، حقیقی وقت میں رہتے ہیں، ہم لازمت کرتے ہیں، ہماری جسمانی اور مادی ضروریات ہیں، لیکن میں آپ کو یہ ہر گز نہیں کہوں گا کہ آپ یہ مادی دنیا چھوڑ دیں اور پہاڑ کی چیز پر بیسرا کر لیں۔ مادی اشیا کو بھی بھی خود پر حاوی نہ ہونے دیں، اکٹو لوگ یہ یقین رکھتے ہیں کہ اگر ان کے

© SCANNED PDF By HAMEEDI

رکھیں۔ دنیا میں خود کو سمجھنے کا انداز بدلتیں۔ اگر آپ دنیا کو خود سمجھنی سے یا اپنی ذات کے حصار میں رہ کر دیکھتے ہیں تو آپ خود کو غیر محفوظ محسوس کرنے لگ جائیں گے اور ایسے انسان بن جائیں گے جو کمی ملٹھن پڑیں ہوتا ہے، بیش پہلے سے زیادہ کمی تو فوج کرتا ہے۔ یہ ایک انسان خود و سروں کے لیے کچھ کرنے کی بجائے بیش و سرے لوگوں سے توقعات والیتہ کرتا ہے۔ آپ صرف اس سادہ چالی کو سمجھیں کہ آپ اگر زندگی میں دوسرا لوگوں پر خرچ کرتے ہیں اور ان کی مدد کرتے ہیں تو آپ بدلے میں اس سے بہت زیادہ حوصلہ کر لیتے ہیں۔

یاد رکھیں

اہم بحثنا زیادہ دوسروں کو دیں گے اس تاریخی ذیادہ وصول کریں۔

### آن کے دن

آپ لوگوں کو کمودیتے کے موقع خلاش کریں۔

\*

پاس باہی اشیا کافی تھا میں موجود ہیں تو ان میں احساس تحفظ پیدا ہوتا ہے جبکہ ایسا نہیں ہوتا۔ اسی سوچ رکھنے والے لوگ ان تمام بیرونیوں کے غلام بن جاتے ہیں۔ آپ ایسے کہنے ہی لوگوں سے ملے ہوں گے جیسی آپ اوس طریقے کے یا خود فرض انسان سمجھتے ہیں میرے تھرے بے میں یہ یات آئی ہے کہ وہ لوگ جیسیں ہم ابھی فطرت کا نہیں سمجھتے یا جیسیں ہم خود فرض کرتے ہیں۔ وہ لوگ کسی نہ کسی حد تک خود کو غیر محفوظ سمجھتے ہیں کہ لوگوں پر اس پہنچ سے دیکھتے ہیں کہ وہ دنیا میں بے کاری ہے؟ یا یہ دنیا میرے لیے کیا کریں۔ ایسے لوگوں کے پاس کوچھ نہیں ہوتا، وہ دنیا سے اس کی توقع کرتے ہیں، اور کچھ ان کے پاس کافی مقدار میں موجود ہوتا ہے وہ اس سے بھی زیادہ کمی تو فوج کرتے ہیں۔ آپ اینا ہیں اسی طرز سے تیار کریں کہ آپ سب لوگوں کے کام آئیں، اسیں اپنا وقت دیں اور مالی طور پر ان کی مدد کریں۔ اپنے آپ ان میں سے بھروسہ کریں اس طرح آپ اپنی طور پر ملٹھن اور اپنے لوگوں سے آزاد ہو جائیں گے۔

زندگی جلد گزر جاتی ہے ہمیشہ باقی نہیں رہتی۔ آپ جتنے بھی دولت مند ہوں، اپنی دولت ساتھ نہیں لیجا سکتے۔ پس جس حد تک بھی ملکن ہوا سے دوسرے

لوگوں میں پاشش

اب میں آپ کو ایک اور بات کا حوالہ دیا ہوں۔ کیا آپ تھد لیا تا تھد بیان پسند کرتے ہیں؟ جب میں جوہنا تھا تو مجھے تھذیلی بہت پسند تھا کہ کس اور سری بیدائیں کا دن، یہ دو موقع تھے جب مجھے تھذیلیا تھا اور مجھے ان دونوں موقع ایسی تھے کہ بہت انتہا تھا۔ یہرے والے دن، اور یہرے دوست مجھے ختنے دیتے تھے۔ میں تھذیلی بہت خوش ہوتا تھا اور مجھے خوش دیکھ کر دے سب لوگ بھی خوش ہوتے تھے۔ اب میں بڑا ہو گیا ہوں تو مجھے اپنے سے چھوٹے لوگوں کو دے کر، بہت خوشی محسوس ہوئی ہے۔

آپ کو اس حقیقت کو مانتا ہو گا کہ جب تک آپ اپنا نقطہ نظر نہیں بدلتیں گے

جب تک آپ دنیا میں کوئی تبدیلی نظر نہیں آئے گی

چلچلی اس بارے میں ہے کہ آپ اپنی ذات سے دافت ہو جائیں اور اپنا نقطہ نظر بدلتیں اور آپ اپنے مقدمہ کی طرف بثت اندماز میں بڑھیں اور اپنی جسمانی محنت کا بھی خیال

پھر یہ کہنا آسان ہے کہ تم اپنے قہاں ہیں۔ اس بات کو لے کر اگر ہم تمصور کریں کہ تم مادے جوہم نے دیکھے ہیں پانچ دیکھے، وہ تم اپنالی ہیں تو یہ ہمارے تمصور کی بہت بڑی چالاک نہیں ہے۔ یہ بھی آسان ہے کہ ہم اسے لے کر جوہنا قدم اٹھائیں اور چھوٹی بات سوچیں۔ مثلاً یہ جب بھی ہمارے ذہن میں کوئی خیال یا سوچ آتی ہے تو وہ بھی توہاں ہوتی ہے۔ پس میرے لے یہ بات حقیقت سے دور نہیں ہے کہ جب ہم چیزوں کے سختی سوچتے ہیں تو ہم سبکی توہاں استھمال کرتے ہیں۔ ہم میں سے ان لوگوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ ہم جس شخص کے بارے میں سوچ رہے ہوئے ہیں اپنے کہیں کر سکتے ہیں اسی تھہارے بارے میں ہم سوچ رہا تھا۔ یا یہ کہ آپ اپنے دوست سے کسی فلم کے سختی بات کر رہے ہوئے ہیں تو وہی فلم تھی، وہی پرانی شروع ہو جائی ہے۔

آپ کا تحت الشور سوچ کو حقیقت میں تبدیل کر دیتا ہے

جب آپ اپنے ذہن میں کوئی بہت واضح مقدمہ بیان لیتے ہیں تو آپ کا تحت الشور، آپ کی شوری توجہ کے بغیر سے حقیقت میں بدلتے کے موقع خلاش کر لیتے ہیں اس لیے ایسا ہوتا ہے کہ جب آپ ایک کٹاں کی دکان پر جاتے ہیں تو آپ کا کام کے صرف عوام پر ہے اسیں، آپ اپنی اگھیں اور ذہن تقریباً پارا مکمل دیکھ لیتے ہیں۔ آپ جس کتاب کو بھی ڈھونڈ رہے ہوئے ہیں یا کسی خاص مخصوص کو جو آپ کی دیکھی کا باعث ہتا ہے تو آپ کا تحت الشور سے آپ کے شوری ذہن کی کوشش کے بغیر بھی ڈھونڈ رہا ہے اور ایسے آپ کی نظریوں کے سامنے لے آتا ہے۔ آپ کا شوری ذہن پیدا ہو جاتا ہے۔ اس کتاب کو اٹھا لیتا ہے اور آپ بہت خوش ہوئے ہیں کہ بھی وہ کتاب ہے جسے میں خلاش کر رہا تھا۔ آپ وہی طور پر شاید ایسے کو اتفاق کیجئے ہیں، لیکن یہ مخصوص اتفاق نہیں ہوتا بلکہ اس کے پیچے دو جوہات موجود ہوئی ہیں جن سے آپ کا شوری ذہن واقع ہوتا ہے۔ میں نے یہ سمجھا ہے کہ جب ہم اپنی سوچ کی مقدمہ پر ہتھ سے کر لیتے ہیں تو وہ خود بخوار طرف کھا جاتا ہے اور ہم اسے حوصل کر لیتے ہیں اس لیے آپ کو اپنے مقدمہ کا تین کرنے میں احتیاط کرنی چاہیے۔ اور اسے حوصل کرنے کی بہت محدود ارادہ کرنے کا تو آپ کے اندر سے توہاں ہیکی ہے جو ساری دنیا میں بکھل جاتی ہے۔ آپ کو یہ

دوسری ہفتہ

تیرہواں دن

### اتفاقی مطابقت

"یہ جوہ زمرہ زندگی میں اتفاقات رومنا ہو تو یہ ہے یہیں، یہ غلطیاں نہیں ہوتیں بلکہ یہ تمام واقعات اور اتفاقی حدادات اس فاعلیت سے نہیں ہیں کہ تم ان سے بہت کچھ سمجھتے ہیں۔"

نا معلوم انشور

میں کسی اتفاق پر یقین نہیں رکھتا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی واقعہ کی مقدمہ کے بغیر وہ نہیں ہوتا اور ہر واقعے آپ اپنے تصویر سے بھی زیادہ اڑا انداز ہوتے ہیں۔ کچھ کتاب گلری جو اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ خلافات جیزیں ہیں، اور پوری کائنات میں توہاں کی بھلک ہے، اور چیزوں کا غایبی ہر دن اتنا حقیقی اور طاقتور نہیں ہے جو تھا اس کی طرز۔ کے بارے میں تصویر حقیقی ہے۔ اگر آپ مادے کے سختی پر ہیں گے تو آپ یہ بات سے چھوٹی سی کامی ہے کہ جوہر سب سے چھوٹی کامی ہے جسے تھیں جسیں بیوی تھیں کیا ہے۔ پھر کچھ تھیں کرنے والے سائنداؤن نے نے ہیات دریافت کی کہ جوہر بدنات خود چھوٹے دنات سے مل کر بناتا ہے۔ اس طرح سے چھوٹی ایسی دنات کا نظریہ جو دنیا آیا تھا۔ ان سائنداؤن نے ان چھوٹے دنات کے بارے میں چارچ پڑھاں کی کہ جوہر بدنات کی بندیا ہے۔ پھر کچھ تھیں کرنے والے سائنداؤن نے نے ہیات دریافت کی کہ جوہر بدنات کی بندیا ہے۔ اس دریافت سے یہ بات سامنے آئی کہ کوئی بھی چیز مسلم اور مضمون نہیں ہے۔ جوہری دنات ایک توہاں ہیں جوں کرتے ہیں جو اسی طریقے سے حرکت کرتے ہیں کہ یہ ظاہر دیکھنے

http://issuu-downloader.abuoday.com/printpage.php?url=asifbashir%2Fdocs%2Fduolat\_sehat\_khushi\_42\_dinon\_ka\_

کرنے لیے اس بات کو جھنٹے لی ضرورت نہیں ہے بلکہ آپ اوس چیز کا بہت واضح تصور رکھتا ہے جو آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں پھر وہ چیز آپ خود بخوبی حاصل کر لیں گے۔

میں بہت مصروف دلکھائی دیتے ہیں، اور جب یہ سب آپس میں جڑ جاتے ہیں تو یہ ظاہری دنیا ہے جانی ہے جسے ہم دیکھتے ہیں اور جس میں ہم رہتے ہیں۔

85

دولت، بحث، خوشی 42 دنور کا عملی کورس  
کر سکتے ہیں جبکہ بعض واقعات کو ہم دیکھ سکتے اور نہیں بیان کر سکتے  
جیسے انہم باتیں یہ ہے کہ تم ان واقعات کی حقیقت کو تسلیم کریں۔ خواہ ہم  
اس اتفاق پر یقین رکھیں یا اس رکھیں یہ واقعات ہماری زندگی میں رہنے والیں  
ہوتے رہیں گے اور ہماری زندگیوں پر اثر انداز ہوتے رہیں گے۔

پار رکھیں کہ  
اگر چون فرشتہ آتیں یہ قدرت کا ایک نظام ہے۔

آج کے دن  
آپ زندگی میں ہونے والے اتفاق کو تسلیم کریں کہ یہ قدرت کا ایک حصہ ہے۔



## ® SCANNED PDF By HAMEEDI

ناول کیلئے ون اردو کے شکر گزار ۳

دولت، بحث، خوشی 42 دنور کا عملی کورس

میں نے یہ سیکھا ہے کہ جب بھی آپ کی زندگی میں کوئی اتفاق ہو تو آپ خیر انہوں نہ ہوں،  
درحقیقت، میری زندگی میں بہت سارے ایسے فلکیاتی واقعات رومنا ہوئے ہیں لیکن جب بھی  
ایسے واقعات ہوتے ہیں، میں ان سے پریشان نہیں ہوتا۔

### ایک بے سوچا سمجھا واقعہ ایک اتفاق کا اظہار

ایک دفعہ میں لاس انجلس میں غمیں کے کارے رہا تھا۔ مجھے  
جنیوار کیں میں ایک ٹیلی ویژن شو کے لئے تکمیل کا موقع ملا اور وہ لوگ  
چاچے تھے کہ میں نوٹے کے طور پر کچھ لکھ رکھ لیا۔ میں نے یہ میں کہا اس پر  
رائز پر ایک کہانی لکھی جس کا نام Reunion (دوسرا طیار) تھا۔ یہ پانچ  
لوگوں کی ملاقات کے بارے میں تھی جوونے نے پڑھے سالوں سے ایک  
دوسرا سے کوئی دیکھا تھا۔ اور وہ گھنٹے تک میں یہ کہاں لکھتا رہا پھر مجھے  
خیز کے لیکے اور کافی کی خواہیں ہوئی۔ میں نے یہ فیصلہ کیا کہ میں اپنے  
پالوں کے نیکس کو ساتھ لے کر جاؤں گا جو گمراہ تھا۔ میں نے نیکس کو  
سامنہ لیا، جب ہم نے سڑک پار کی تو میں نے نیکس کو چوڑا دیا، وہ ساحل  
کی طرف ایک ٹنگ راستے سے ہوتا ہوا جا گئے۔ جب ٹنگ راستے سے  
ہوتے ہوئے کافی درج کلی گئے تو میں نے کچھ قابلے پر دو آدمیوں کو  
کھڑے ہوئے دیکھا۔

ای لمحے جب میں نے نیکس کو زور سے آواز دی، دو آدمی میں گزر کے  
فاضلے پر ٹکڑے تھے۔ ان میں سے ایک آدمی تھے آواز دی، رونیں، کیا یہ  
تم ہو؟ اس کی آواز مجھے بہت شناسائی، وہ میرا دوست تھا جو کہ گلاں کو سے  
آیا تھا اور میں اسے سات سالوں کے بعد دیکھ رہا تھا۔ اس نے مجھے تھا یا  
کہ وہ ایک کارڈ پارادور سے کے سلسلے آیا تھا۔ اور وہ غمیں سال پر اس لیے  
آیا تھا کہ اس کی ملاقات منسوخ ہو گئی تھی۔ اس طرح ہم دلوں دوست  
دوبارہ مل گئے۔ آپ بہشتیں بات کے لیے تاریخ ہیں کہ ہماری زندگی  
میں کئی واقعات اتفاق سے ہوتے ہیں۔ ان واقعات کو بھی بھی بے کافان  
بھیجیں۔ یہ دنیا کا اتفاق ہے، ہم کچھ واقعہ کو دیکھ سکتے ہیں اور انھیں بیان

87 دولت، بحث، خوشی 42 دنور کا عملی کورس

طرح یہ منقی عقاقد آپ کے ذہن میں پڑھ جاتے ہیں۔ اگر آپ ست ہیں اور کامیاب نہیں ہوتے تو  
اس کی وجہ بھی آپ کے غلط عقائد اور غلط خیالات ہیں اور آپ کی کامیابی کے راستے میں رکاوٹ  
بنتے ہیں۔

آپ کا تحت الشعور حقیقت اور تصور میں فرق نہیں جانتا آپ جو کچھ بھی  
سوچتے ہیں وہ اسے سمجھتا ہے

آپ جزو بہان استعمال کرتے ہیں وہ بہت طاقتور اور اہم ہوتی ہے، اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ  
میں فلاں کامنہیں کر سکتا تو آپ کا ذہن اسے گھوڑ کر لیتا ہے اور اسے قیام لیتا ہے۔ اگر آپ یہ  
کہتے ہیں کہ میں غیر ملکی زبان نہیں کہ سکتا تو آپ کا ذہن اس بات کو بھی گھوڑ کر لیتا ہے اور آپ کا  
ذاتی تصور بھی ایسا ہی بن جاتا ہے کہ آپ یہ کامنہیں کر سکتے ہیں۔ پھر جب بھی آپ غیر ملکی زبان  
یعنی کوچھ کریں گے تو آپ ایسا نہیں کر پائیں گے۔ آپ کے ذہن میں پڑھی ہوئی بات آپ  
کی کامیابی میں رکاوٹ بنتے کی۔

اس لمحے آپ صرف ثابت اندماز میں ہی سوچیں اور بہشت کامیابی کی عی بات کریں کوئی نکالو جو  
کہ آپ پر لے اور سوچتے ہیں، آپ کا ذہن اسے گھوڑ کر لیتا ہے اور اسے حقیقت میں بدلتا  
ہے۔

اگر آپ بھی اپنی ذات کے متعلق محدود و منقی عقاقد رکھتے ہیں تو آپ کی زندگی  
اس وقت تک نہیں تبدیل ہو سکتی جبکہ آپ اپنے عقاقد نہیں بدلتے گے

دولت، بحث، خوشی 42 دنور کا عملی کورس

86

دوسرہ اجھتہ  
چودہواں دن

## ® SCANNED PDF By HAMEEDI

ناول کیلئے ون اردو کے شکر گزار ۴

### اپنی ذات کو مدد و کردینے والے خیالات

اپنی جہالت میں مسلسل اضافے کا ایک طبقہ ہے جسی کے کہ آپ اپنے  
مدد و کرم، آراء اور خیالات سے مطمئن ہو جائیں اور اسی پر اعتماد کرنے  
لگیں۔

البرٹ ہمارہ، امریکی مدرس، (عبد حیات: 1856ء - 1915ء)

میں اس بات کی بہت زیادہ امید رکھتا ہوں کہ آپ اپنی تعلیمات اور ملاحیت سے پہلے  
کہنی زیادہ واقع ہو گئے ہیں اور پہلے آپ جن کاموں کو نامکن سمجھتے تھے، اب آپ انہیں گھن  
سمجھنے لگ گئے ہیں۔ اب آپ اپنے بارے میں یہ نظری تبدیل کر رہے ہیں کہ آپ اپنے انسان ہیں  
جو اپنی ملاحیت سے واقع نہیں تھے اور اپنی ذات کے حصار میں جلا تھے۔ اب آپ اپنی  
ملاحیت سے واقع ہیں۔ اب آپ اپنی ذات سے متعلق منقی عقاقد کو بثت حق کر میں تبدیل  
کر رہے ہیں۔ چاہیں آپ کے مقاصد بہت عی جھوٹے کہوں ہوں، آپ نے پرانے خواب  
عقائد کو بدل دیا ہے۔ اگلے چار ہفتہوں میں آپ نے چھوٹے چھوٹے مقاصد کو بھی نظر انداز نہیں  
کریں گے جیسی آپ نامکن سمجھتے تھے، اور جھیل آپ حلیم کرتے تھے۔

آپ کو اپنی ذات کے متعلق بحث و عقائد کے بارے میں جانا چاہیے کہ وہ عقائد کیا ہیں۔  
ان میں سے بہت سے حقائق بہت عسرے سے آپ کے ذہن میں محفوظ ہیں اور آپ نہیں جانتے  
کہ یہ کس طرح سے آپ کی زندگی پر اثر انعام از ہو رہے ہیں۔

ان سب میں سے سب سے بڑا عقیدہ جو میں جانتا ہوں، آپ بھی اس سے واقع ہیں، وہ  
یہ ہے کہ میں زیادہ اچھا انسان نہیں ہوں، کو لوگ مجھے پیار کریں، یا میں دوست اور خوشی کا متعلق  
نہیں ہوں، ہم جب بچے ہوتے ہیں تو سب لوگ ہمیں بہت پیار کرتے ہیں اور ہماری بہت  
تعریف کرتے ہیں۔ لیکن ہمارے والدین اور درسرے لوگ جو ہمارا خالی رکھتے ہیں، وہ وقت کے

## مخطوط خیالات میں کام کرنے پر آمادہ کرتے ہیں

آج میں ذات تک محدود ان حقائق پر روشنی ذاں لوں گا جس آپ سچے سمجھتے ہے اور جن حقیقت میں کوئی دوچیز ہے۔ ہم بہتر اپنے مخطوط خیالات کی سمت ہی حرکت کرتے ہیں۔ ہم جو بھی سچے ہیں وہ ہماری زندگی میں خاہر ہو جاتا ہے۔ ہمارے مخطوط خیالات حقیقت کا روپ دھاری لیتے ہیں۔ آپ اپنے ذہن میں اپنی ذات کے متعلق بہت سی حقیقت کا لیتے ہیں کہ میں یہ کام کر سکتا ہوں یا نہیں کر سکتا۔ آپ ان خیالات پر مسلسل توجہ مرکوز رکھتے ہیں اور اسی

89 دولت، بحث، خوشی 42 دنوب کا عملی کورس

آپ اپنا تجویز کر کے تمام غلط عقائد کو بہت کیلی چھوڑ دیں یا انہیں ثبت عقائد میں تبدیل  
کر لیں۔

## متفق خیالات کو ثبت خیالات میں بدل دیں

کیا آپ ایسا چاہیں گے کہ آپ کے بچے اندر ہرے کا خوف دل میں بخاک بڑے ہوں،  
اور وہ یہ عقائد رکھیں کہ وہ کامیابی اور خوشی حاصل کرنے کے قابل نہیں ہیں اور وہ زندگی میں پیار  
حاصل نہیں کر سکتے؟ یقیناً آپ ایسا نہیں چاہجے ہوں گے کیا آپ ایسا چاہیں گے کہ آپ کے  
بچے ان خیالات کے ساتھ بڑے ہوں کہ وہ اہم نہیں ہیں؟ یقیناً آپ ایسا نہیں چاہیں گے!  
آپ ان کے لیے ہبھریں کی خواہش کریں گے۔ خوشی، پیار، دولت، بحث اور کامیابی، یہ ان میں  
سے کم از کم چیزوں ہوں گی جو کہ آپ اپنے بچوں کی لیے چاہجے ہوں گے۔ آپ ان کے لیے اس  
سے بھی بڑے کرچاہے ہوں گے۔ یقیناً آپ چیزوں ان میں سے بہت کم جو کہ آپ اپنے  
لیے چاہجے ہوں گے۔ میری بات پر یقین کریں کہ آگر آپ اپنی ذات سے متعلق عقائد کو ثبت  
عقائد میں تبدیل کر دیں گے۔ آس لیے یہ بہت ضروری ہے کہ آپ اپنے متفق خیالات کو  
ثبت خیالات میں تبدیل کریں اور یہ شہرت سوچیں۔

یاد رکھیں کہ  
آپ اپنی ذات پر جو بھی حدود مقرر کرتے ہیں وہ آپ کی زندگی اور آپ کی طاقت بیان  
کرتی ہیں۔

## آج کے دن

آپ اپنی ذات سے متعلق عقائد کے بارے میں سوچیں اور جو عقائد آپ کی ترقی کی راہ  
میں رکاوٹ بنتے ہیں انہیں ثبت عقائد میں بدل دیں۔



® SCANNED PDF By HAMEEDI  
ناول کیلیٹے ون اردو کے مشک کنار پڑھ

88 دولت، بحث، خوشی 42 دنوب کا عملی کورس

ساتھ ساتھ ہمارے خیالات تبدیل کر دیتے ہیں۔ عام طور پر بلا ارادہ اور بغیر کسی بغرض کے وہ  
ہمارے اندر اپنے روپیے سے یا حاس پیوں کر دیتے ہیں کہ ہم اچھے انسان نہیں ہیں کہتے کوئی بھی  
ہمیں پہنچنے کر سکتا، ہم دولت نہیں حاصل کر سکتے، خوش نہیں رہ سکتے اور اچھی ملازمت خلاش  
نہیں کر سکتے، میکی خیالات جب دہراتے جاتے ہیں تو ہماری ذات تک محروم مقابد ہیں جاتے۔

یہ بہت دلپت بات ہے کہ ترقی پر ہمارا کے لوگ جب ہجرت کر کے کام کرنے کے  
لیے ترقی یا نہ ماں لک میں آتے ہیں تو ان کے کامباون کے اور بہت زیادہ دلتنہ بخے کے  
امکانات ہوتے ہیں۔ ایسے لوگ اکثر ترقی یا نہ ماں لک کے باشندوں سے کہیں زیادہ  
ترقی کرتے ہیں۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ وہ لوگ ترقی یا نہ ماں لک میں ہجرت کر کے صرف  
کامیابی حاصل کرنے کے لیے ہی آتے ہیں اور وہ اپنی ذات کو کسی حصاریں قید نہیں کرتے اور انہی  
ذات تک بخود عقائد نہیں رکھتے، جب وہ ایک ترقی دیتا ہے یہ اس تو مرف ترقی کر کے  
موافق رکھتے ہیں۔

ہم سب لوگوں نے اس بات کو بھی اپنے ذہن میں کہیں نہیں اور یافت ضرور کیا ہوتا ہے کہ  
ہمارے اپنی ذات سے متعلق عقائد کا حقیقت ملک اتفاق ہوئے ہیں، جو کہ ہم نے لوگوں کی غلط رائے  
سے یا تو کسی ناکامی کی وجہ سے اپنے ذہن میں بٹھائے ہوئے ہیں۔ لیکن بدلتی سے اپنے اداہم ان  
خیالات کو کوئی بکھر لگ جاتے ہیں اور ان غلط خیالات کی وجہ سے ہم مستقبل کا غلط تصور اپنے ذہن  
میں بٹھایتے ہیں۔

آپ اپنے نظریات اور توقعات کو بدل ڈالیں، اس طرح سے آپ کا مستقبل  
بھی بدل جائے گا

ہماری زندگی خیالات پر ہی مشتمل ہوتی ہے۔ اگر ہم متفق اور ناخوشگوار خیالات رکھتے ہیں تو  
ہم مستقبل میں ناخوشگوار زندگی کر ارہیں گے۔ آج کے دن تجویز کریں کہ آپ نے کون سے غلط  
عقائد اپنے ذہن میں محفوظ کر کے ہیں۔ اور اپنے آپ سے یہ سوال کریں کہ میں ان عقائد کو کج  
کیوں کھٹا ہوں؟

میں آپ کو آج کے دن کے لیے اپنے خیالات دیتا ہوں۔ وہ یہ ہیں کہ آپ یہ قول  
نہیں ہیں، بصورت نہیں ہیں اور آپ کی قسم میں ناکامی اور غم نہیں ہیں۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ

91 دولت، بحث، خوشی 42 دنوب کا عملی کورس

## جب آپ پھر پور توجہ مرکوز کرتے ہیں تو پھر آپ سچے طریقے سے روکل کا اثلہار کرتے ہیں

جب ہم اپنی تجویز کی خاص نسل پر مرکوز کرتے ہیں تو اس سے ہم اپنی قابلیت پر حاصل کے ہیں  
اور ہم سچے طریقے سے کام کر سکتے ہیں۔ آپ کے ساتھ کوئی رفتاریا واقعہ رہنا ہوا کہ آپ کی  
معصی سے حوار فرماتے ہیں، وہ آپ کو اپنا نام تھا تاہے اور وہ سکھیں بعد ہی آپ اس کا نام  
بھول جاتے ہیں۔ ایسا کوئی ہوتا ہے؟ اس لیے کہ آپ اس لئے دہاں موجود نہیں ہوتے اور بات  
کو اپنی تجویز سے نہیں نہیں پہنچتی اسی وجہ سے سننا چاہیے۔

اپنا مقصد متعین کریں اور پھر اپنی تجویز مقصود پر مرکوز کر دیں تا کہ آپ کی تجویز

آپ کے مقصد پر مرکوز رہے  
کھلاڑی موجودہ لمحے میں رہنے سے واقع ہوتے ہیں اور وہ اس پارے میں اکٹھاتا  
کرتے ہیں۔ وہ جو بھی کمیں کیلئے ہیں اس پر پھری طرح سے توجہ مرکوز رکھتے ہیں۔ جب بھی آپ

® SCANNED PDF By HAMEEDI  
ناول کیلیٹے ون اردو کے مشک کنار پڑھ

90 دولت، بحث، خوشی 42 دنوب کا عملی کورس

تیسرا ہفت  
پندرہ ہواں دن

## ارکا از توجہ

"اگر میں کوئی مفید اشیاء ایجاد کرتا تو ان میں سے زیادہ مفید شے مبر آزم  
توجہ ہوتی، جو ہر دوسری صلاحیت سے افضل ہے۔"

آن زک شیخ، اگریز سائنس و ان (عہد حیات: 1642ء تا 1727ء)

محظی ہاد ہے کہ مجھے میرے ایک دوست جو کہ ایک بہت مشہور اداکار تھا، اس سے اموری  
کرنے کا موقع لایا، وہ سر و ساخت کی لے جا رہا تھا اور جاتا چاہتا تھا کہ ہماری زندگی میں جو  
ناخوشگوار اوقاعات ہوتے ہیں۔ ان کا مقابلہ کس طرح سے کیا جائے۔ میں نے اپنے دوست سے

کھلائی ہی انکھوں میں دیکھیں گے جو کس لمحے تھیں کا رکورڈی دکھارتا ہو گا تو آپ کو ایسا معلوم ہو گا جیسے کہ وہ وجہ دش ہے۔ ان کی ترتیب اس طرح کی جاتی ہے کہ مکمل کے دروان اپنی پوری توجہ ایک طرف روز کرتے ہیں کہ وہ اس وقت باتی سب باشیں بھول جاتے ہیں۔ ہر ٹانی دفت کا ایک ہے۔ ہر لمحے آپ اپنے موجودہ وقت پر ہی توجہ دیں۔

اس کتاب 42 کے لحاظ میں اکمرزی خیال اور نظریہ یہی ہے کہ آپ کو توجہ مرکوز رکھنا آنا چاہیے۔ آپ جب بھی کسی سے مل 100 نصف توجہ سے اسی بات میں اور جب بھی آپ کسی کے لیے کوئی کام کریں تو وہ بھی ہمیشہ پوری توجہ سے کریں۔

آپ موجودہ صورتحال میں بھی توجہ مرکوز کر سکتے ہیں کہیں، اس طرح سے آپ اس صورتحال سے زیادہ سے زیادہ فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ آپ اپنے مقصد پر جب توجہ مرکوز کرتے ہیں تو اس طرح آپ زیادہ تباہی استعمال کرتے ہیں جو کہ مقصود حاصل کرنے میں مدد و گارہ بات ہوتی ہے۔ آپ اپنی زندگی میں توجہ مرکوز کرنے کی سلسلہ کا جو یہ کہیں کہ آپ کس حد تک توجہ مرکوز کرتے ہیں۔ بعض اوقات ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم پوری توجہ سے کام کر رہے ہیں جبکہ حقیقت میں ایسا

انہر دیوبنی یہ پوچھنا تھا کہ کسی بھی فحص کو کام کے لیے کسی طرح سے آمادہ کیا جاسکتا ہے۔ اس دکھارنے بہت توجہ سے ہے اور بات کرنے کے دروان کسی اور طرف میں نہیں کیا۔ کچھ لوگوں میں یہ بات قدرتی طور پر موجود ہوتی ہے اور کچھ لوگوں میں یہ قابلیت موجود ہوتی ہے کہ وہ جس طرح بھی دیوار دیہی اختیار کر سکتے ہیں۔ ایسے لوگ بات کے دروان آپ کو یہ ظاہر کرواتے ہیں کہ آپ ان لیے دیا کے اہم ترین انسان ہیں۔

جو کوئی بھی صورتحال ہے۔ آپ آج کا دن گزار رہے ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ آپ کمبل طور پر اپنی توجہ آج کے دن پر ہی مرکوز رکھیں۔ اگر آپ اپنے کسی سماں سے گھٹکو کر رہے ہیں اور آپ آج سے پہلے بھی کسی دفعہ گھٹکو کچھ ہیں تو آپ پھر بھی کمبل توجہ سے اس کی بات نہیں اور بات فتح ہونے کا انتظار کریں، آپ بات کے دروان مداخلت نہ کریں بلکہ پوری توجہ سے اس کی بات نہیں، جب بات ختم ہو جائے تو پھر اپنے روپ مل کا انتہا رکریں۔

شیراہفتہ  
سوہنواں دن

## اعتراض و قبولیت

”چاہئے کی جو اُت و جہارت کہ آپ کی حیثیت کیا ہے اور یہ اور اُک کہ آپ میں قلاں خوبی نہیں ہے، یا امریزادات خود ایک انفرادی خوبی ہے۔“  
ہنری فریڈریک ایمال، موس شاعر (مہدیات: 1821ء تا 1888ء)

آج کے دن میں اس بات پر روشنی میں گا کہ آپ خود کو اور اپنے خیالات کو قول کرنا سمجھیں۔ ہم میں سے بہت سارے لوگ غیر مطمئن اور بخیر خوبی کے زندگی گزار دیتے ہیں۔ زیادہ تر لوگ اُن باتوں پر ناخوش ہوتے ہیں جن پر ان کا انہا کوئی اختیار نہیں ہوتا۔ ان حالات کی وجہ سے ان کی مشقیت چاہ ہو جاتی ہے۔ ایسے لوگ کسی بھی صورتحال میں مطمئن اور خوش نہیں ہوتے ہر وقت میں سچے سل رہتے ہیں اور مایوس رہتے ہیں۔ اپنے خوبیوں اور مخالموں کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیتے ہیں اور ان کے حصول کے لیے کوئی کوشش نہیں کرتے۔ یہ بات بہت اہم ہے کہ ہمیں ان دلوں پیچ دل کے دریاں فرق معلوم ہو، ایک تدوہ جاؤ اپ کے اختیار نہیں ہیں اور دوسری وہ جو کہ آپ کے اختیار میں نہیں ہیں۔ یعنی وہ قبول کرنے کا یہ مقصد نہیں ہے کہ آپ اسیں جدیل کرنے کا نہ سوچیں اور امید کا دامن چھوڑ دیں، بلکہ اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ پیچ دل کو ایک مزدہ میں مظلوم رہیں۔ جو چیزیں آپ کے اختیار میں ہیں، اُنہیں تبدیل کریں اور جو کچھ آپ کے اختیار میں نہیں ہے اُس کے لیے پریشان نہ ہوں۔

کام پر توجہ دینے کے لیے اسے قبول کرنا ضروری ہے۔ ہم میں سے اکثر لوگ اسی دھوکے میں رہتے ہیں کہ ہم ایک مکمل انسان میں، ہم میں کوئی شخص نہیں ہے۔ وہ ایسا شخص کرتے ہیں کہ انہیں حق ہے کہ وہ دوسرے لوگوں کے بارے میں آزادانہ رائے دے سکتے ہیں۔ میں پورے دُوق سے یہ بات کہ سکتا ہوں کہ جتنے بھی مذاہب، روحاںی اشتادار اور ظائفی ہیں، سب اس ایک سمجھے پر اتفاق کرتے ہیں کہ ہم تمام انسان اگرچہ دیکھنے میں مختلف نظر آتے ہیں لیکن، ہم سب ایک ہے

بہت خوش ہوئے، پہنچنے لگے اور باتیں میں معرف ہو گئے۔ اسی لمحے مجھے بہت شرم دیگی کا حساس ہوا کہ مجھے اس فحص کے بارے میں اس طرح سے سوچنے کا کوئی حق نہیں تھا، میں نہیں جانتا تھا کہ کسی زندگی گزارہ تھا اور کسی صورتحال سے دوچار تھا۔ مجھے کوئی حق نہیں تھا کہ میں کسی بھی فحص کے بارے میں اس ظاہری حالت اور لباس دیکھ رہا تھا قائم کروں۔ میں اس وقت بہت شرم دیگہ ہوا تھا اور میں نے دوبارہ کسی بھی فحص کے بارے میں اس طرح سے رائے قائم نہیں کی تھی۔ یہ مری رائے درسرے لوگوں کے بارے میں بہت منی ہوئی تھی، اسی وجہ سے میں نے دھنے رکھ دیا۔

92  
دولت، بحث، خوشی 42 دنوں کا عملی کورس  
ہوتا ہے کہ ہم پہنچل ہی توجہ مرکوز کرتے ہیں۔ اس صورتحال کو ہم صرف خود ہی تبدیل کر سکتے ہیں اور کوکش کر کے کسی بھی کام پر توجہ مرکوز کر سکتے ہیں تاکہ ہم کامیابی حاصل کر سکیں۔

یاد رکھیں کہ

بنی توجہ مرکوز کے ہم اپنے کام کی استکھو دیتے ہیں۔

آج کے دن

آپ جو کام بھی کریں اسے 100 نصف توجہ کے ساتھ کریں اور یہ بھر کیجھیں کہ یہ صرف آپ کی عین نہیں بلکہ آپ کے لئے جلدی والے لوگوں کی زندگیوں میں بھی بہت تبدیلی لائے گی۔



MEEDI  
ناول  
کہلیتے  
ون  
ازدو  
کے  
تمک  
کہلیتے  
ناول

اگر ہمارا خیر نظر ڈالیں تو ہمیں پہلے گا کہ دنیا میں حقیقی جسمی جیسی جھوٹی جھوٹیں گزرویی ہیں اور جتنے بھی ادارے ہیں، ان سب کے مطابق تمام انسان ایک درسرے کے برابر ہیں۔ یہ ہر جسموری حکومت کی بنیاد پر کہ ہر انسان درسرے کے برابر ہے۔ لیکن میں یہ بات یقین سے کہ سکتا ہوں کہ آپ سب لوگ تھبب کا ٹھکارا ہیں۔ جاہیز یہ تھبب کو میں آپ اس بنا پر کچھ لوگوں کو گزروی اور کچھ لوگوں کو کترت سمجھتے ہیں۔

آپ جو کچھ بھی ہیں اگر آپ خود کو قول کر لیتے ہیں تو اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ اپنی موجودہ صورتحال کی حقیقت کو تحلیم کرتے ہیں اور اگر آپ اسے پسند نہیں کر لے تو آپ بیچنے سے جو کہ کٹھا ہے، اگر ہم کٹھا ہے، اگر ہم کٹھا ہے، کہ کچھ کٹھا ہے، کہ کچھ کٹھا ہے۔

MEEDI  
ناول  
کہلیتے  
ون  
ازدو  
کے  
تمک  
کہلیتے  
ناول

اس سہ بسا دیجئے اسے بارے میں غلط رائے فام سری ہے۔ اسی کو کہا جائے کہ یہ میں نے محض کیا کہ وہ فحش بھی بالکل بھری طرح ہے، دوستوں کے ساتھ میں اور زندگی سے لطف اندر ہوتا تھا، بھری طرح وہ بھی چاہتا تھا کہ لوگ اس سے پارے ملے۔ جب اس کے دوست اس سے ملے تھے تو وہ بہت خوش ہوا تھا۔ اسی شام بیٹھے پلٹت قائم پر میں نے اس حقیقت کو حلیم کیا کہ ہمیں کسی بھی فحش کے بارے میں رائے قائم کرنے کا کوئی حق فحش ہے کہ ہم اس طرح سے دوسرے لوگوں کو اپنے سے حفظ بھیں اور انسانوں کی بھرپوری کریں۔ ہم اکثر ایسا کرتے ہیں کہ میں مجھے سین ہے کہ ہم صرف ایک بھی وسیع سے ایسا کرتے ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان سے بہتر ہیں اور وہ لوگ جن کا تم مذاقِ اڑاتے ہیں وہ ہم سے کتر ہیں، اس کی وجہ پر ہے کہ ہم خود کو غیر محفوظ کھینچتے ہیں جس کی وجہ سے ہم لوگوں کو خود سے کھڑکیتے ہیں۔

ہم جب بھی کسی دوسرے فحش کے بارے میں رائے قائم کرتے ہیں تو ہم اسے انہا فرض سمجھتے ہیں اور خود کو اس فحش سے بہتر ہوں کرتے ہیں۔ آپ جب بھی کسی فحش سے ملتے ہیں، آپ نہیں جانتے کہ وہ کیا سفر ملے کر کے آیا ہے، کن پر یادوں کا وہ سامنا کر کے آیا ہے اور کیا کالیف برداشت کر کے آیا ہے۔ قول کرنے کا بھی مطلب ہے کہ آپ خود کو دوسروں کو بغیر قیاس آرائیں کے جس طرح میں اسی طرح قول کریں۔ دوسروں کو قول کرنے کے لیے یہ شرط ہے

قول کرنے کا یہ مطلب ہے کہ ہمیں ان کے بارے میں کوئی رائے قائم نہیں کر لیتی ہے۔

### ظاہری طور پر رائے قائم نہ کریں

آج سے 20 سال پہلے جو کسی شام میں ریلی گاڑی سے سفر کرتا ہوا ہے دوست سے ملنے لگتا ہے۔ جب میں ریلی گاڑی کا انتشار کر رہا تھا تو میں نے دیکھا ایک فحش مجھے سے کچھ فاصلے پر گزرا تھا۔ اس فحش سے کافی چکون اور سفید جو ایڈیٹ کرنی ہوئی تھیں جو کہ اس کی پتوں کی وجہ سے بہت نمایاں ہو رہیں تھیں۔ اس فحش نے کالے رنگ کے جو تھے میں رکھے تھے جو کافی بڑے دکھائی دے رہے تھے اس کی جیکٹ کا لارنگ کی تھی جو کہ اس کی کمر سے بالکل بھی ہوئی تھی۔ اس کی سفید تھیں کا کالا اسکی جیکٹ کے کالا پر قما اور اس فحش نے بہت عجیب طرح کے بال کو اے ہوئے تھے۔ میں نے سوچا کہ وہ فحش بہت سمجھکر خیلگ رہا تھا۔ میں سوچ رہا تھا کہ وہ فحش یہ سمجھ رہا ہو گا کہ وہ بہت اچھا لگ رہا ہے جو کہ وہ فحش سے بہت دلکش ہے۔

اسنے دلوگ اشیش پر پہنچا اس فحش کو پہنچان کر اس کے پاس گئے اور نہایت گریجوشی سے اسی فحش سے ملے۔ وہ لوگ ایک دوسرے سے ملے

### یاد رکھیں کہ

آپ لوگوں کو اسی طرح سے قول کریں جیسے وہ ہیں، بھی بھی لوگوں کو اپنی مرثی سے نہ رکھیں جیسا آپ چاہتے ہیں۔ بلکہ جو جیسا ہے اسی حال میں رکھیں اور قول کریں۔

### آج کے دن

اپنی زندگی میں ان حالات کو حلیم کریں جو کہ آپ کے اپنے قابوں نہیں ہوں، اُنہیں قول کریں اور یقین رکھیں کہ وہ ایک دن بدل جائیں گے۔



دولت، بحث، خوشی 42 دنوب کا عملی کورس  
رکھیں کہ وہ آپ کے مرثی کے مطابق ہلیں گے تو آپ ان کو قول کریں گے بلکہ جو جیسا بھی ہے اسے اسی حال میں قول کریں۔

میں نے دیکھا ہے کہ قول کرنے کا یہ مطلب ہر گز نہیں ہے کہ آپ اس فحش کی بے قدری کرنے لگ جائیں، ہم سب کے پاس یہ طاقت ہے کہ وہ ہر چیز کا خود اخراج کریں۔ ہم جو کچھ بھی کرتے ہیں وہ اپنی مرثی سے کرتے ہیں، اس لیے ہم سب کو جائیے کہ ایک دوسرے کی قدر کرنا سکھیں۔ مجھے تھب، تھب، نظری، ظلم اور بے رحمی، ان تمام صفات سے نفرت ہے، میں جب بھی ایسے لوگوں سے ملتا ہوں جن میں یہ صفات ہوتی ہیں، ان کا روایہ اور طور طریقے منظر ہوتے ہیں، میں ان کے بارے میں رائے قائم کرنے کے لیے ان کے پاس نہیں بیٹھا، شاید میں ان لوگوں کو کچھ نہیں پاتا یا ان کے بارے میں نہیں جانتا کہ وہ لوگ ایسا روایہ کر رکھتے ہیں۔ بلکہ میں نے دیکھا ہے کہ یہ بہتر ہے کہ لوگ جیسے بھی ہوں، انہیں اسی حال میں قول کیا جائے اور انہیں مناسب طریقے سے تبدیل کیا جائے جیسے میں اپنے مثالوں سے لوگوں کو تبدیل کرنے کی کوشش کی ہے۔

اگر آپ ایک جگہ بیٹھے لوگوں کے بارے میں قیاس آرائیاں کرتے رہیں گے تو اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ لوگوں کے لیے کچھ نہیں کر رہے بلکہ بیٹھ کر ان کا مشاہدہ کر رہے ہیں، اگر آپ لوگوں کے بارے میں کچھ کرنا چاہتے ہیں تو ان کے بارے میں رائے قائم نہ کریں بلکہ کوئی ایسا کام کریں جس سے ان کی مدد ہو اور انہیں اس سے کوئی فائدہ نہیں کر سکتے۔

دنیا کے تمام روحانی اسٹاد اور قرآن بڑے مذاہب بھی ہاتھ کھتے ہیں کہ ہمیں چیزوں کے ساتھ اور انکی احتیار نہیں کرنی چاہیے لیکن ہمیں اپنی تمام اشیا جو کہ ہمارے پاس نہیں، اور اپنی عزت لہی کے بارے میں بہت زیادہ حساس نہیں ہوتا چاہیے۔ اسی طرح سے اگر ہم اپنی اپنے حصار میں ہی رہیں گے تو ہم دوسرے لوگوں کو اور اشیا کو وادیٰ طور پر نہیں دیکھ سکتے۔ اگر ہم وادیٰ نہیں دیکھ سکتے تو ہم اپنی ذات کو اور دوسرے لوگوں کو اسی طرح قول کر لیتے ہیں اور سچے طور پر فحصلہ نہیں کر سکتے۔

ہمیں یہ دیکھا جائیے کہ ہم اپنی ذات کو اور دوسرے لوگوں کو اسی طرح قول کریں جیسے وہ بیس ان کے بارے میں بھی بھی غلط رائے قائم نہ کریں۔

### اپنے اندر کام کرنے کی بھت پیدا کریں

تیرہ اپنے  
ستر ہواں دن

یہری آخری کتاب (اپ) You can change your life any time you want جب بھی چاہیں اپنی زندگی تبدیل کرنے کے میں، اس میں نے یہ کہا کہ تم میں سے بہت سے لوگ کام کرنے کے لیے اتفاقی حالات کا انظار کرتے ہیں، ہمیں ایسے حالات کا انظار نہیں کرتا چاہیے۔ بہت سے لوگ مشکل حالات سے ہی سبق حاصل کرتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ اپنے اندر کام کرنے کی ہمت پیدا کریں۔ ہمیں اپنی ضرورت کے مطابق کام کرنا چاہیے اور بھی بھی آج کا کام مکمل پر جیں چھوڑنا چاہیے۔

میں بہت اسے اپنے لوگوں سے لاہوں جو کہ بغیر کسی کو وجہ کے اپنی ملازمت چھوڑ دیتے ہیں اور یہ بحث ہیں کہ اپنی ایسا بہت پہلے کر لیتا چاہیے تھا۔ وہ لوگ یہ بحث ہیں کہ انہوں نے پریادت کر لیا ہے کہ وہ جب بھی چاہیں جہاں بھی چاہیں ملازمت کرنے کے ہیں جس طرح ایک پونڈ اپنے پروپوں کے دریجے جہاں بھی جانا چاہتا ہے وہ جاسکتا ہے۔ جہاں پر میں نے پوندے کا ذکر استھان کے طور پر کیا ہے۔

لوگوں کے کام مذکورے کی ایک بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ انہیں ناکامی کا خوف ہوتا ہے کہ وہ اپنے مقدمہ میں کا جاب اپنی ہو سکتے۔ آپ جانتے ہیں کہ اگر آپ کام میں نہیں کریں گے تو آپ ناکام نہیں ہو سکتے۔ لیکن اس طرح سے بغیر کام کے آپ کامیاب بھی نہیں ہو سکتے۔ جیسے کہ علامہ اقبال کا ایک شعر ہے کہ

”عمل سے زندگی فتحی ہے جنت بھی جہنم بھی  
یہ خاکی اپنی نظرت میں نہ لوری ہے ناری ہے

یہ بڑف آپ کو اس قابل ہے کہ آپ اپنے پوندے کے مطابق کامیابی حاصل کر سکتیں، آپ کبھی بھی ناکامی سے خوفزدہ نہ ہوں، کام کریں، اگر آپ ناکام ہو بھی جائے ہیں تو آپ اس سے سبق حاصل کریں گے۔ آپ کی ماخی کی ناکامیابی مُستقبل میں کامیابی حاصل کرنے میں آپ کی مدد کریں گے، اگر آپ کوشی نہیں کریں گے آپ کبھی بھی سکھنیں پائیں گے۔

## عمل

”سوچتا آسان کام ہے، عمل کرنا مشکل ہے اور کسی خیالِ عملی جامد پہنچا

زیادہ مشکل کام ہے۔ دنیا میں سب سے زیادہ مشکل بات تھا ہے۔“

جوہن ولاف گینگ دان گوئے، جوہن ادیب، سائنس دان اور فلسفی

(عہد حیات: 1749ء تا 1832ء)

اب آپ 40 دن کے چلچھ کا ایک تھاںی ہے سے زیادہ عرصہ گزار پہنچ ہیں۔ مجھے امید ہے کہ اس نے آپ کی توجہ کو اپنے قابو میں کر لیا ہے۔ اب آپ اس کتاب کے مطالعے کی مدد سے اپنے مقدمہ پر پہلے سے ہتر طریقے سے توجہ کر رکھ رہے ہیں۔

مقدمہ یہ ہے کہ آپ کو آپ کی ذات اور آپ کی طاقت سے دوبارہ سے دوبارہ سے متعارف کر دیا جائے۔ اگر آج آپ اپنے بچھلے 16 دنوں پر نظر دوڑا اپنی تو آپ کو بہت غریبوں ہو گا۔ آپ نے خود کو بہت اچھے مقاصد دیتے ہیں اور ان سے بہت کچھ سیکھ جائے۔ اب آپ اپنے مقدمہ کے لیے بہت اچھی طرح سے عمل کر رہے ہیں اور اپنے کامیابی کے سفر میں درست سہ پڑا رہے ہیں۔

جب تک آپ مل نہیں کریں گے تب تک آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ کچھ بھی حاصل کرنے کے لیے کام کرنا ضروری ہوتا ہے۔ زندگی کی یہ سب سے واضح حقیقت بہت سارے لوگ کو دیتے ہیں۔ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ لوگ یہیں بھی کھجتے تھے کہ ان کے پاس بہت وقت ہے۔ وہ لوگ ٹال مول کر کرے تو چیز ہیں۔ ہم فلاں کام مکمل کر لیں گے، اسکے لفڑی کر لیں گے، اسکے سینے کر لیں گے یا اسکے سال کر لیں گے، اسی طرح کئی سال گزر جاتے ہیں اور وہ کچھ بھی نہیں کر پاتے۔ اسی طرح بہت سارے لوگ ایک دن اس غفلت سے جاگ جائیں گے اور پھر وہ دیکھیں گے کہ وہ

آپ جب بھی بھی ناکام ہوں، خود سے دوسراں پوچھیں، میں نے اس سے کیا سبق حاصل کیا ہے اور میں مستقبل میں کس طرح اس سے مختلف طریقے سے کام کروں کہ جس سے میں کامیابی حاصل کر سکوں۔

آپ دو طریقوں سے زندگی گزار سکتے ہیں، یا تو آپ تماثلی بن کر زندگی کو دیکھ سکتے ہیں یا اس کے کمیں میں شامل ہو سکتے ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ تم زندگی کے کمیں میں ایک اہم فردی حیثیت سے شریک ہوں۔ آپ اپنے خواہیں کو حقیقت میں تبدیل کر سکتیں، اور خود کو تجدیل کر رہے ہیں جیسا کہ آپ چاہتے ہیں۔ کوئی ملی ہی نہ کردار سے کوئی نہ کوئی نہ کوئی کام ضرور کریں، اس سے یا تو آپ کامیابی حاصل کریں گے یا تو اس سے کوئی سبق حاصل کریں گے۔

بہت اچھا کام کرنا گھنی ایک اتفاق ہی نہیں ہے

میرا ایک دوست ہے، جس کے پیٹ کے پھٹے بہت اچھے ہیں۔ جس طرف بہترین کھلڑیوں کے ہوا کرتے ہیں۔ ایک دن میں نے اپنے اس دوست سے اس کا راز پوچھا تھا۔ اس نے مجھے بتایا کہ وہ روزانہ 80 انگل بیٹھ کر ورزش کرتا ہے۔ میں اپنے ایک اور دوست سے ملا جو کہ بہت اچھی گونف کی گئی وغیرہ لگاتا تھا۔ اس نے مجھے بتایا کہ وہ تیرہ سال سے انہیں سال کی مریخ بیٹھ میں 1000 وغیرہ لگوں کے گیند کو ضرب لگاتا تھا اور اس حصے کے بعد بھی وہ کمیونیکس کی کارٹ رہا تھا۔ یہ کوئی جمرت کی بات نہیں ہے۔ بلکہ یہ اس بیٹھ میں کامیابی ہے جو کہ آپ سلسلہ کرنے میں اور اپنی پسند کے مذاق حاصل کرنے میں ہے۔ اسی طرح سے آپ بھی اپنی خواہیں کے مطابق کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔

ہمیں کوئی بھی نتیجہ حاصل کرنے کے لیے عمل کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر آپ کوئی عمل نہیں کرے تو آپ اس طرح اپنے دوست شانع کر دیتے ہیں۔ آج کے دن آپ جو بھی کام کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، آپ اپنے اچھا حصہ کریں، اپنے کوشش کو سراہیں، یہ تسلیم کریں کہ آپ کا یہ کام آپ کی کامیابی کی زندگی ہے۔

یاد رکھیں کہ  
اگر آپ مل نہیں کرے تو آپ کبھی بھی کوئی نتیجہ حاصل نہیں کر سکتے۔

آج کے دن

اس بات کو کھنٹا شروع کر دیں کہ آپ کا ہر کام کو آپ کے مقدمے قریب کر دے گا اور در کر دے گا، اس لئے یہی شوچ کبھی کام کریں۔



دولت، محنت، خوشی 42 دنون کا اعمالی کورس

102

تیراہفتہ  
اخبار وال دن

103  
دولت، محنت، خوشی 42 دنون کا اعمالی کورس  
کر مجاہرے میں بے شمار مخالفات میں ہماری جیت ہی سب کچھ ہے جب تم روزمرہ زندگی کے چھوٹے چھوٹے کاموں میں ناکام ہوتے ہیں۔ مثلاً اپنی خود کا کھانہ نہ رکھنا یا درزش نہ کرنا، بھرہ خود سے پیڑا رہ جاتے ہیں اور اپنے مقاصد پر بے کئے بخیر اپنی چھوڑ دیتے ہیں۔

### اگر آپ کوش ہی نہیں کرتے تو آپ ناکام نہیں ہو سکتے

ہم ناکامی کو سرفہرست کا صفاتیہ ہائی اور نہیں اس سے کچھ سبق حاصل کر سکی گے۔ آپ ناکامی کو اپنی عزت کا مسئلہ نہیں کرتے اسے اپنی کامیابی کے راستے میں رکاوٹ بننے دیں۔ ہر انسان ویسے بات پسند کرتا ہے کو لوگ اسے ابھیت دیں، جبکے اس کے کام کی ناکامی کی وجہ سے اس کا مارک ازا نہیں۔ میں اپنی زندگی میں ناکامی کے خوف کے وجہ سے کسے مقابلہ نہیں کرتا تھا اور مقابلہ کرنے کی وجہ سے میں زندگی کے کھلیں کے حصہ اپنیں خالکا ایک تاثالیں بن گیا تھا۔ آپ بھی زندگی کے کھلیں میں تاثالیں نہ بنیں بلکہ ایک کلازوی نہیں جو کامیابی حاصل کر سکتا ہے۔

ناکامی ہمیں سبق سیکھاتی ہے؛ اور کامیابی سبق نہیں سیکھاتی۔ ناکامی حد نہیں

ہے بلکہ آپ کے لیے ہمیشہ کچھ کرنے کی لیے موجود ہوتا ہے  
اپنی زندگی کے آخری درمیں آپ اپنی ناکامیوں کو تسلیم کر لیتے ہیں اور اس بارے میں نہیں سوچتے کہ آپ کتنی سمجھتے کام ہوئے ہیں۔ لیکن یہ بات میں بہت دووقت سے کہہ سکتا ہوں کہ آپ ناکامی کے سبق نہیں بلکہ پچھاڑا کے لیے جو بھی ہے اسی ہوئے ہیں۔ ہم میں سے اکثر لوگ اپنی ناکامیوں کو یاد کرتے ہیں اُن مامن غنی مذہب اس کے ساتھ جو کہ ہماری ناکامیوں کے ساتھ وابستہ ہوتے ہیں۔ ہمارے انہیں خیالات کی دہ سے ہم مستقبل میں بھی ناکام ہوتے ہیں۔

ناکامی کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ جب ہم ناکام ہوتے ہیں تو اس وقت ہمیں تکلیف پہنچتی ہے، پھر جب ہم ناکامی کو بخلاف دیتے ہیں اور اسے چھوڑ دیتے ہیں تو ہم اس میں اتنی طاقت نہیں رکھتی کہ وہ نہیں پریشان کر سکے۔

اپنے آپ کو سمجھی ہماری کام رسم بھیں اور سبق اپنی ناکامی کا حال دیں۔ یہ لاشوری طور پر آپ کے ذائقے تصور کو بہت زیادہ تفصیل پہنچاتی ہے۔ ناکامی آپ کی استاد ہے۔ اگرچہ، ہمیں ناکامی سے تکلیف دہ سبق حاصل ہوئے ہیں پھر بھی اُنہم ناکام ہوتے ہیں تو ہم ہر دفعہ ناکامی

© SCANNED PDF By HAMEEDI  
نالوں کیلئے وزیر ازد و کل قشکوہ کیا کیا رہے

### ناکامی کا خوف

خواہ اعتمادی میں اضافے کا ایک طریقہ ہے کہ آپ اس کام کو کہاں لے جاؤ کہ کوئی مطلوب ہوتا ہے اور اپنے کام بتر بات میں اضافہ کرے۔ قسمت محض اتفاق کا نام نہیں بلکہ یہ آپ کو میسا کے گئے موقع میں سے انتخاب کا نام ہے جس کے لیے انتخاب کی نہیں بلکہ حصول کے لیے وہی کی ضرورت ہے۔

ولیم جوکو بریان، امریکی دکیل دیساست دن (1860ء تا 1925ء)  
کل ہم نے کام کرنے کے بارے میں قیاس کی تھا لوگوں کو قارئ غرض پر بینے کی جائے کوئی نہ کوئی کام کرتے رہنا چاہیے۔ ہم نے یہ دیکھا تھا کہ لوگوں کی کام بہت کرنے کی بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ ناکامی سے خوفزدہ ہوتے ہیں۔

میرا ایک دوست ہے، وہ جو بھی کاروبار کرتا ہے اس میں کامیاب ہوتا ہے اور اب وہ انجامی دوستہ انسان ہے۔ وہ ایک خاموش، ہمہ ران اور روزین انسان ہے۔ جب میں اپنی اس کتاب 42 دنون کے چیختے کے بارے میں حقیقت کر رہا تھا تو میں اپنے اس دوست سے کامیاب کا راز پوچھا۔ میں اس کے جواب سے بہت جمن ہوا جب اس نے مجھے کہا کہ اس کا کوئی خاص راستہ نہیں ہے۔ پھر اس نے ایک لمحے کی لیے ہوم پا اور کہا کہ، ناکامی آپ کی کامیابی کا پہلا قدم ہے میں سے سوچا کہ اس نے بہت دنائی اور دوسری دنی سے جواب دیا ہے۔ مجھے اس کا فتح نظر بہت پسند آیا تھا۔ ناکامی ہماری کامیابی کا پہلا قدم کے لیے کہنا کامیاب ہمارے لیے بہترین اسٹار ہے۔

بیچپن میں ہم ناکامی سے بچے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم تحریف سے خوش ہوتے ہیں۔ ہم چاہئے ہیں کہ نہیں اس بھت کاموں کا حل سے ہم جیتنا چاہئے ہیں اور اگر ہم کی وجہ سے کامیاب نہیں ہو پسند آئیں بہت دنائی اور دوسری دنی سے جواب دیا ہے۔ مجھے اس کا فتح نظر بہت پسند آیا تھا۔

105  
دولت، محنت، خوشی 42 دنون کا اعمالی کورس  
میں ایک کھنچے بک پول نہیں پایا جکہ بہت سے لوگ میرے پاس آئے اور مجھے سے کہا کہ فکر کی کوئی بات نہیں کھنچے بک پول نہیں پایا جاتا ہے لیکن میرے اندر کی آزادے مجھے بولنے نہیں دیا اور میں ناکامی سے بہت زیادہ خوفزدہ ہو گیا تھا۔

میں بہت مایوس ہوا اور میرا نہیں چل رہا تھا کہ میں اُس فحص کو ہرا دوں۔ جس نے مجھے ہر لایا تھا۔ اُس کی جیت برداشت نہیں کر پا رہا تھا۔ اس روشنی نے بہت عی تکلیف دہ سبق سیکھا تھا کہ انسان کے اندر بہت زیادہ انسانی ہونی چاہیے۔ آپ کی بات کو بھی انا کا مسئلہ بنایا ہے اور چیزوں کو اپنے طریقے سے قابو میں کریں۔ کوئی بھی سورج تال ہو اسے قبول کریں اور کبھی بھی پچھاڑاے اور سچے کو خود پر خادی نہ ہونے دیں۔ میں نے اس حقیقت کو تسلیم کیا کہ مرف کیل ہوتا ہے، اگر آپ جیت جاتے ہیں تو آپ کو بہت خوش ہوتی ہے۔ لیکن کیل کی زندگی اور موت کا مسئلہ بنایا ہے میں بلکہ اس کو صرف ایک کیل بھیں جس میں ہار اور جیت کو کھو بھی ہو سکتا ہے۔ میں نے یہ خیال ڈھنے کا نکال دیا کہ میں نے ہر بات کو اپنی انا کا مسئلہ بنایا ہے اور نہیں کھل کے تیجے کو میں خود پر خادی ہونے دھا تھا، جیسے یہی میں نے ہر بات کو اپنی انا کا مسئلہ بنایا ہے اور نہیں کھل کے تیجے کو بیرے ماس سے وابستہ تھی جذبات ختم ہو گئے۔

اپنی بار کو بھیس لیں پہنچ دیں ایک منفرد میں مفتر سے دیکھیں۔ ہماری جیت بھی ہے، اسی طرح سے دیکھیں کچھ کامیابی ہمارے زندگی پر بہت ری طرح اڑا دعا ہوئی ہیں اور ہماری زندگی ایک الیسین جاتی ہے۔ میں ایسے واقعات کی احیت کہ نہیں کرنا چاہتا بلکہ میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ ان سے سبق حاصل کریں اور ان واقعات کو کوئی بات نہیں۔

میرا آج کے دن کا سبق ہے کہ آپ اپنے اندر کامیابی کا سامنا کرنے کی بہت بیدا کریں۔ آپ ناکامی سے سبق حاصل کریں لیکن میں اپنی ناکامی کو سوچ کر بچتا ہیں نہیں، یہ چیز آپ کو اندر ہی اندر کے کھرو کر دیتی ہے۔ آپ ناکام ہو جاتے ہیں تو کوئی بڑی بات نہیں ہے آپ کھڑے ہو جائیں اپنے کپڑے جھاڑیں اور ناکامی سے سبق حاصل کریں۔ یعنی اس سے والی تھام غنی مذہب اس کو جھک کر دنی سے باہر کاٹاں دیں۔ لوگ آپ کی تحریف کریں گے اور آپ کی عزت کریں گے۔ سب سے بڑھ کر یہ آپ خود اپنے آپ کو پسند کرنے لگتی گے اور اپنی

دولت، محنت، خوشی 42 دنون کا اعمالی کورس  
سے یادیں حاصل کرتے ہیں۔ میں یقین سے بات کہ کہاں ہوں کہ میں اتنی دفعہ کامیاب نہیں ہوا جتنی دفعہ کام ہوا ہوں یعنی میں نے کامیابی کے کٹل زیادہ ناکامی کا سامنا کیا ہے اور زندگی میں ایسا ہوتا ہے کہ بھی کوئی ہمت سے ناکامی کا سامنا کرتا ہوں۔ لیکن یہ میری کامیابی ہے کہ میں ناکامی سے بھی سبق کہنا ہوں اور اپنی کوشش جاری رکھتا ہوں۔

اس چیختے سے آپ بہت کچھ سیکھتے ہیں۔ اگر آپ ناکام ہوتے ہیں تو اس سے آپ کو آپ کی زندگی پر قابو حاصل ہوتا ہے، آپ کے سوچ کے کانز اچہر ہو جاتا ہے، آپ اپنے ہارے میں غصہ انداز میں سوچنے لگ جاتے ہیں۔ اور انی ڈاٹ کے ساتھ چھل کو ہر کو سوچتے ہیں۔ آپ اس سے پہنچتے ہیں کہ آپ کو انہاڑا ہن ستمال کر کے ناکامی کے اڑکو اور اس کے نیچے کو سکھتا ہے۔ یہ چیخ کامیابی کے بارے میں ہے، وہ کامیاب آپ ناکامی کے بعد اس کے نیچے کو سیمیتے ہیں۔ یہ سکھنا بہت آسان نہیں ہے اور وہ نہیں آپ فوراً تینی ڈاٹ کے ساتھ ہوا جاتا ہے اسی نیچے کو سیمیتے ہیں، لیکن جب آپ ناکامی سے کچھ کھلے لیتے ہیں تو یہ بھیش کی لیے آپ کی زندگی میں بہت جدی لیتی لاتی ہے۔

آج کے دن میں یہ چاہوں گا کہ آپ اپنی کامیابیوں کو ایک نئے انداز سے دیکھیں۔ اپنی ماخی کی ناکامیوں پر نظر اٹھیں کہ آپ ان سے کیا کہتے ہیں، خاص طور پر ان بڑی ناکامیوں کے بارے میں وہ میں جو کہاں جا کر آپ کو اپنے گھلکن کر دیتی ہیں۔

جیتیں، ہاریں یا کوئی بھی نتیجہ لکھی یہ صرف ایک کھیل ہے

میں ایک دفن گول کے مقابلے میں ایک فحص کے ساتھ میں میں فحص کے تھے ہم دلوں جیت نہیں کا تھا۔ جب دوسرا فحص مقابلہ جیتا تو اس نے بہت فاتحانہ انداز سے میری طرف دیکھا۔ اگر وہ ہار جاتا تو وہ بہت زیادہ خوش دکھائی نہ دیتا بلکہ پریشان ہو جاتا اور خدا کا گھر گزارنے ہوتا۔

ایک دفعہ مقابلے کے دوران میں ایسا معلوم کر ہم آخوندی سے میری سرط میں وہ فحص کے تھے ہم دلوں دوسرا سے سوچنے لگ پہنچ اور گیند کو سوچنے میں ڈالا تھا۔ ہم دلوں کو سوچنے میں اچھی ضرب لگا کر جیت جائیں لیکن میں سوچنے میں گیند نہ ڈال سکا اور مقابلہ ہار گیا۔ میں جسمانی طور پر بہت

مرتبریں سے۔

پریستان ہولیا اور حوف، بیرافی مارے تسلیم خشنہ حامیں رہا، بوتے تی لوکس لے باوجود

107

دولت بحث، خوشی 42 دنوب کا عملی کوڈس

## تیراہفتہ انیسوال دن

### آپ اپنی معمولی حالت پر اکتفانہ کبھی، عظیم تربیتی

”ایک مشین معمولی حجم کے پھوس افراد کا کام کر سکتی ہے لیکن ایک غیر معمولی غصہ کا کام کوئی شین نہیں کر سکتی۔“

البرٹ ہیرڈ، امریکی ادیب (عہد حیات: 1856ء-1915ء)

ہماری یہ کتاب 42 دن کا جلچ قریباً آدمی ہونے والی ہے، میں بہت خالص ہو کر یہ آمد کرتا ہوں کہ آپ نے خود پر قابو حاصل کر لیا ہے، آپ کاروباریت ہو گیا ہے، آپ جسمانی طور پر خود کو مطمئن تصور کرنے لگے ہیں۔ آپ دروش کرتے ہیں، اپنے کام میں تبدیلی چھوٹی چھوٹی کر رہے ہیں اور اپنا ذائقہ تصور تبدیل کر لیا ہے، اب آپ میں بہت زیادہ خود اعتمادی پیدا ہو گئی ہے اور آپ کی زندگی پہلے سے کئی زندگا باتفاقہ ہو گئی ہے۔ اب یہ اس سے زیادہ بہتر ہو جائے گی۔

آن کے دن میں چاہتا ہوں کہ آپ خود کو بہتر جوں کریں اور ایک اوسط معمولی درجے سے بڑھ کر زندگی گزاریں۔ یہ لفظ بھل خود کو درسرے لوگوں سے بہتر یا کترنس سمجھنا چاہیے، لیکن یہ سمجھنا چاہیے کہ ہم ایک بے شان انسان ہیں میں کام طلب کر آپ بہت اونچے اور خاص انسان ہیں، کوئی بھی غصہ ایسا نہیں ہے۔ سے بالکل آپ جسمی زندگی گزاری ہے اور ہم کوئی ایسی زندگی گزارے گا، اس لیے آپ پر بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ آپ کو ایک منفرد اور غیر معمولی انداز میں زندگی گزارنی ہے۔

جب تک آپ لوگوں سے پار کرنا خود کو پسند کرنے نہیں سمجھیں گے جب تک آپ اپنے طرز سے زندگی گزاریں گے۔ آپ کی لیے یہ سلسلہ ہے کہ آپ تمام لوگوں سے چاہیا کریں گے اس سے قلعہ نظر کراچی کیے دھکائی دیجیے ہیں، کیے بولتے ہیں اور کیے کہتے ہیں تو ہم آپ زندگی میں مختلف حجم کے ہجڑے کرنے لگتیں گے۔ خود سے پار کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے

109

دولت بحث، خوشی 42 دنوب کا عملی کوڈس

ہے کہ لوگوں سے آگے پوچھیں اور ہر میرے ان میں بڑھ کر زندگی گزاریں۔

### تھوڑا اخیز چلنے کی عادت ڈالیں

میں ایک اپنے غصہ کو چاہتا ہوں جو کہ بہت خوب پہنچ کا دادی ہے، وہ جہاں کہنی بھی جائے عام غصہ سے بیش تر فرقاڑے چلتا ہے۔ ایک دن میں نے اس کی وجہ پر چھپی اس نے مجھے بتایا کہ اس نے ناہے کہ ایک اوسط درجے کا آدمی ایک لفڑی میں 2.5 کلی کی رقابتے چلتا ہے اور وہ یہ یقین کرنا چاہتا تھا کہ وہ ایک اوسط درجے کے انسان کے سینے اگے ہے وہ اُن سے تیز رفقاڑے چلتا ہے۔ وقت طور پر تو مجھے اس غصہ کی یہ بات بہت احتفار محسوس ہوئی لیکن بعد میں جب میں نے اس بارے میں سوچا تو مجھے پاچلا کہ یہ اس غصہ کا ایک طریقہ تھا کہ وہ خود کو ایک اوسط درجے کے انسان سے بہتر بنا لئے کی کوشش کر رہا تھا۔

میرے نزدیک اوسط کا لفڑا طرح ہے جیسے کہ میں کی بات ”ٹھیک ہے“ کہتے ہیں، سمجھ کر میں ٹھیک ہے۔ یہ اس طرح ہے جیسے کہی غصہ سے پوچھا جائے کہ تمہارا کھانا کیسا تھا؟ وہ کہتا ہے کہ وہ اوسط درجے کا تھا۔ فلم کیسی تھی جو کہم نے دیکھی تھی؟ اوسط درجے کی تھی، تمہاری زندگی کیسی ہے؟ اوسط درجے کی ہے۔ مجھے یہ لفڑی ہے کہ آپ اوسط درجے کی نہیں بلکہ بہتر ہیں اور غیر معمولی زندگی گزارنے کے حق ہیں۔

آپ کی زندگی ایک خالی کیوں (Canvas) کی طرح سے شروع ہوتی ہے جس پر کوئی گل کھایا رکھ نہیں ہوا ہوتا۔ اگر آپ اس پر برش سے بہت زیادہ ضرب لگاتے ہیں تو یہ گمراہ جائے گا۔

® SCANNED PDF By HAMEEDI

ناول کیلئے ون اردو کے شکر گزار 3

دولت بحث، خوشی 42 دنوب کا عملی کوڈس

106

یاد رکھیں کہ  
ناکامی کبھی بھی حقیقی نہیں ہو سکتی جب تک کہ آپ اس کو قول نہ کر لیں۔

آج کے دن

آپ اپنی ہر ناکامی کے تجربے سے سبق حاصل کریں اور ہمت نہ باریں بلکہ دوبارہ کوشش کریں تاکہ آپ کامیاب ہو سکیں۔



دولت بحث، خوشی 42 دنوب کا عملی کوڈس

108

آپ میں تکمیر آجائے اور آپ خود کو درجے گل جائیں، بلکہ اسکا مطلب یہ ہے کہ آپ خود کو توجیہ کریں، ایک اچھا اور منفرد انسان سمجھیں جس کی بچوں خواہش اور مقاصد میں اور یہ احساس ہے کہ آپ جو ہمیں چاہیں وہ حاصل کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کی گرفتاری میں کوئی چیز ہے تو آپ اس پر سے بہشیر کہتے ہیں کہ اس کے ذمہ میں جو کچھ بھی خواہش اور مقاصد ہیں، وہ کوشش سے وہ سب کچھ حاصل کر سکتے ہیں۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم کبھی بھی اپنے لیے یہ ایسا نہیں سوچتے ہیں۔

کبھی بھی اپنا موائزہ درسرے لوگوں سے نہ کریں

خود سے پار کرنے کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ آپ گھوٹوں شیخ کے سامنے بیٹھ رہیں اور خود کو بہت عالی شان انسان سمجھیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ قابل تقدیر انسان ہیں۔ میں آپ کو اس سے اپنا چاہیے کہ آپ کا مطلب یہ ہو ہوتا ہے کہ آپ خود کو توجیہ کریں اور آپ میں یہ خوگران اور اسیں کرنی چاہیں، بلکہ خود کو توجیہ کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ خود کو اچھا انسان سمجھیں اور اپنے اندر ہمیزی بھر جگی پیدا کریں۔

اپنا موائزہ درسرے لوگوں سے نہ کریں کیونکہ آپ ان کی زندگیوں کے بارے میں نہیں جانتے

اپنے آپ کو کبھی بھی اوسط اور معمولی درجے کا انسان نہ سمجھیں۔ ہمیں خود کو اوسط درجے سے بہتر سمجھنا چاہیے اور اس کے لیے کوشش بھی کرنی چاہیے، اگرچہ تم مخفی طور پر توجیہ کر لیتے ہیں کہ ہم بہت اہم اور منفرد انسان ہیں لیکن حرمت کی بات یہ ہے کہ ہم اس خالی کوئی تھی دفعہ جھکتے ہیں

شاید یہ خوبصورت بن جائے یا شاید کوئی غیر واضح تصویر بن جائے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے اس کو بنانے کے لیے اور اسے رنگ کرنے کے لیے کوشش کی ہے۔ اب تک آپ کی زندگی جیسی بھی گزروی ہے آج سے آپ اسے اوسط درجے سے بلند اور غیر معمولی انداز سے گزارنے کی کوشش کریں۔ اپنی زندگی کے کیوں کو خوبصورت رنگوں سے بھریں۔ یہی خود اعتمادی کے ساتھ کوشش کریں پھر بھیں کہ آپ بہت جلد اپنے مقاصد میں کامیاب ہو جائیں گے۔

اور خود کو معمولی انسان سمجھنے لگ جاتے ہیں۔ ایک معمولی انسان ہونا کوئی بڑی بات نہیں ہے اس میں کوئی خرابی نہیں ہے لیکن یہ خواہ کرنی چاہیے کہ تم ایک غیر معمولی اور بہت اچھے انسان نہیں۔

اپنی عزت کم کرنے کی ایک بندیدی وجہ یہ ہے کہ لوگ خود کو کہتے ہیں کہ میں بہت اچھا اور خاص انسان ہوں۔ آپ بہت خاص اور غیر معمولی انسان ہیں۔ آپ کو ہمیشہ یہی کوشش کرنی چاہیے کہ آپ اوسط درجے سے اعلیٰ زندگی گزاریں۔ آپ کو اپنے خوبیوں کا تعاقب کرنا چاہیے اور اپنے اندر اتنی بہت پیدا کرنی چاہیے کہ آپ ایک مفراد انداز میں زندگی گزاریں۔ اس کا مطلب ہے۔

یاد رکھیں کہ

اگر آپ میں غیر معمولی صفات موجود ہیں تو پھر آپ ایک اوسط درجے کی زندگی کیوں سزاواریں؟

آج کے دن

اپنی زندگی کے کی ایک اپنے پہلو پر نظر رکھیں جس میں آپ بہت زیادہ بہتری کرنا چاہیے ہے۔ اپنہا معمول نہیں اور بہت آن سے اس کے لیے کوشش کریں تاکہ آپ اس پہلو میں اپنی پسند کے مطابق کامیابی حاصل رکھیں۔



## صبر و برداشت

آپ قدرت کی خاص نظرت اور خاصیت اختیار کیجئے جس کا راز صبر اور استقلال میں مخفی ہے۔

رافائل والٹ ایمیرسن، امریکی ادیب (عبدالحیات: 1803ء تا 1882ء)

اہم اکثر ایسا گھومنے کرتے ہیں کہ ہم اپنے کام میں جلد کامیابی حاصل نہیں کر رہے۔ بعض وجوہات کی پناہ رکھا ہوتا ہے لیکن ہمارے پاس جو چیزوں موجود ہیں، ہم ان کا شکر کرنے کی بجائے جو کچھ ہمارے پاس ہیں، مجھے بھیش اسی کے ہمارے میں سوچتے رہ جائے ہیں۔ جدید ذیادت کی گھر انی میں حلقت ہے اور وقت ایک ایسا گھر ہے جو کہ بھی ہمارے پاس کافی نہیں ہوتا، ہم ہر وقت اس کی کمی کی ڈھانکتے کرتے رہ جائے ہیں۔ اگرچہ ہم گزرتے ہوئے وقت کا اپنے قابو میں جنمیں کر کر کھاتے ہیں، یہ ہمارے پاس میں ہے کہ ہم وقت سے سبق حاصل کر سکتے اور ان تحریقات کو یاد رکھ سکتے۔

اپنی رفتار و ہمی رکھیں اور غصے پر قابو پائیں۔

آج کے دن ہم اس صورتحال پر نظر دو رہائیں گے جب ہم پر بیانی کا فکر ہو جاتے ہیں اور صورتحال سے بھاگ کر سوچتے ہیں کہ کیسے اس صورتحال سے چھکا رہ حاصل کیا جائے۔ ہمارا ذہن متنی خیالات سے بھر جاتا ہے۔ بعض اوقات ہم اس صورتحال سے دوچار ہوتے ہیں جب ہم ایک سمت رفتار قرار میں کسی سٹوئر میں یا ہوا کی جہاز کا لٹک خریدنے کے سلسلے میں کھڑے ہوتے ہیں۔ آپ کامی و دیرانت خلا کرتے رہ جائے ہیں کہ آپ اکٹھے مطلوب ٹھنکے پر چھکیں گے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ قطار میں کھڑے لوگوں میں سے کسی غصے کا کوئی سلک ہوتا ہے جس پر ساتھے والے غصے سے کوئی بحث ہو جاتی ہے تو اس کی وجہ سے قطار میں کھڑے تمام لوگوں کو دیر ہو جاتی ہے۔ ہم اس وجہ

ناول کیلئے وزن اردو کے مشکل گزار ہے۔

ناول کیلئے وزن اردو کے مشکل گزار ہے۔

اور آپ کو خود پر قابو حاصل ہو جائے گا۔ اس طرح آپ اپنے احساسات کو قابو میں کر کے صورتحال میں اپنی ہمیشی کے مطابق ردمیں خالی ہاہر کر سکتے گے۔

## برداشت

اس کتاب کے شروع میں ہم نے اس بات کا شاہد ہوا کیا تھا کہ آپ کا روایہ کس طرح سے نتیجے پر اثر انداز ہوتا ہے۔ یہ ایک پرانی کہاوت ہے کہ آپ کا روایہ اور آپ کا راجحان آپ کی عقائد کا تعین کرتا ہے۔ جیسا کہ پہلے یہ بات یہاں کی دی گئی ہے کہ ہمارے رویے پر ہمارا ذہن، فہمد ہوتا ہے تو پھر ہمیں کوئی کھٹکی چاہیے کہ ہم اپنے پیارے قابو میں رکھ لیں۔

آپ کا روایہ آپ کے سوچنے کے انداز پر اثر انداز ہوتا ہے، آپ کا کروار آپ کے کام کرنے کے طریقے پر اثر انداز ہوتا ہے اور کام کرنے کا انداز آپ کے کامیابی پر اثر انداز ہوتا ہے۔

آپ پر ارادہ کر لیں کہ آپ اپنے تھیڈی یا پر ایضاً کامیابی کی طرف سے میں زندگی میں ثابت تباہ حاصل کرنے کی لیے بثت روایہ اختیار کرنا ہوگا، یا کامیابی کی طرف سے مغلوب نہ ہونے دیں بلکہ خود کو اپنے پس میں بیو رکھیں۔

جس میں اونچا، نفقة، مجھ کے، نصیحت، کام، آگرفت اس مرہت مضمون ہو گی۔

سے بہت غصے میں آ جاتے ہیں۔ اس صورتحال میں ہم بھکلی ہی کرپاتے ہیں، یا تو ہم کی کتاب کا مطالعہ شروع کر دیتے ہیں یا پھر ارگوڈ بھکنا شروع کر دیتے ہیں۔ ہم بہت پریشان ہو جاتے ہیں اور بعض اوقات یہ سوچنے پر بھروسہ ہو جاتے ہیں کہ ایسا صرف ہمیشہ میرے ساتھ ہی کیوں ہوتا ہے۔ وہ حقیقت ہم غصے کا خود انتخاب کرتے ہیں، یہ سب اتنا اچھا ہوتا ہے کہ ہم اسے دلفت نہیں ہوئے اور وہ اتنی ہذبات ہمارے ذہن میں آ جائے لگ جاتے ہیں۔

مر بکھر لیں مہارت کی ضرورت ہوئی ہے، ہم کی بھی کام کے لیے بھتی زیادہ مشکل کریں گے ہم اتنے ہی اچھے طریقے سے دو کام نجماں دے سکتے ہیں۔

آپ ڈرائیوریشن، مسافرنے بھیں

جب بھی ہم کبھی کی واقعہ سے پریشان ہو جاتے ہیں تو پھر آپے سے ہاہر ہو جاتے ہیں اور خصیصہ پر حادی ہو جاتا ہے پھر غصے نہیں جہاں مرضی لے جائے۔ ہمارا اس صورتحال پر کوئی اعتبار نہیں رہتا۔ بالکل اسی طرح جس طرح سے ہم گاڑی میں سفر کر رہے ہیں اور گاڑی کی گھرائی اور انتظام ڈرائیور کے ہاتھ میں ہوتا ہے کہ وہ نہیں جہاں مرضی لے جائے۔ اپنے آپ کو تکنی ہذبات سے مغلوب نہ ہونے دیں بلکہ خود کو اپنے پس میں بیو رکھیں۔

کوٹھ سایا اپنے بڑی بڑی روپیں۔ جب بھی آپ کرتے ہیں اگر اسے مسلسل درست جائیں تو وہ آپ کی عادت بن جاتا ہے۔ اس لئے ہمیں شدت روپیے کو اس وقت تک دہرانا ہو گا جب تک کہ وہ ہماری عادت نہ بن جائے۔ آج کے دن سے جب بھی آپ لوگوں صورتحال کا سامنا ہوں گے میں آپ بہت ملبوس ہو جائیں تو اس میں بھی خود کو قابو میں رکھیں اور کوشش کریں کہ آپ اس صورتحال میں بھی سکون رکھیں۔ آپ کوچاہی کے غصے کے وقت آپ بہت آہستہ 10 مکمل کیتیں یا باہر کو ایسا دیکھیں جس کے پارے میں آپ نے آج سے پہلے عجس نہ کیا ہو، اس طرح آپ غصے پر قابو لیں گے اور پسکون ہو جائیں گے۔

برداشت کی مشق کریں جب تک کہ یہ آپ کی عادت نہ بن جائے آپ دیکھیں گے کہ بیشی زیادہ آپ مشق کریں گے۔ وہ کام آپ کے لیے اتنا ہی زیادہ

© SCANNED BY AMEEDI  
نالہ کیلیہ ۶۰ اردو کیمکٹ کیا ہے

صورتحال ہو، میں حباب دینے سے پہلے 10 مکمل کیتیں گوں اور اس اس پارے میں موجود کمیں کیا جاؤ گا جب دینے لگا گوں اور اس کی کیا وجہ ہے۔ میں اگر کوئی مجھے تکلیف پہنچتا تو میں مجھے بھی چاہتا ہوں گے اسے راجھا کوں لیں گے جب میں 10 مکمل کیتیں گے جاتا تھا کہ مجھے برداشت کرنے کے لیے سکھیا دوران دور ہو جاتا تھا اور میں اس دوران یہ بھول جاتا تھا کہ مجھے برداشت کرنے کے لیے سکھیا گیا ہے۔

## 10 مکمل کیتیں گے

جب بھی آپ کوئی ایسی صورتحال کا سامنا ہو، جس پر آپ کو بہت ضرر آتا ہو تو خود پر قابو پانے کے لیے آپ 10 مکمل کیتیں گے۔ شروع میں آپ کے لیے آسان نہیں ہو گا لیکن آپ کو اس کا بہت پچھاصل ٹلے گا۔ اس سے آپ کا ڈھنی دبا کر ہو جائے گا۔ آپ پہلے سے ہمچوں کریں گے انتخاب نہ کریں۔

115 دولت، محنت، خوشی 42 دنون کا عملی کورس

تیراہفتہ  
ایکواں دن

## عفو و درگز

”غلطی کرنا انسان کی سرسرت ہے اور معاف کرنا خدا کی صرف ہے۔“  
ائلر نیدر پوپ، شاعر، مهدی حیات (1688-1744)

ہم اس حقیقی کے آدمی حصے میں فتنے کے ہیں، اب آپ دیکھیں گے کہ آپ کی زندگی میں بہت تبدیلی ہے۔ بہت عمل کی وجہ سے آپ کی زندگی میں تبدیلی آئی ہے اور آپ کی خود اعتمادی میں اضافہ ہوا ہے۔

آج کے دن میں معاف کرنے پر روحی ڈالوں گا کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے ساتھ کوئی فحش پر اسلوک کرے تو وہ اپنے فحش کو آسانی سے معاف نہیں کر سکتے۔ ایسے لوگ خود کو بھی جلدی صاف نہیں کر پاتے، اس کے تینیں میں ایسے لوگ ہو رہتے اپنے فتنی جذبات کو ذہن میں رکھتے ہیں۔ اگر آپ وہ وقت لفڑت اور رخصے کے جذبات کو ذہن میں رکھیں گے تو آپ بھی بھی خوش نہیں رکھیں گے۔ آپ کو فتنی جذبات ذہن سے کمال دینے چاہیں، اگر آپ انہیں پسند کرتے ہیں تو آپ خود پر قلم کرتے ہیں اور بھیشا خوش رہتے ہیں۔ پس میں بچا ہتا ہوں کہ آج کے دن ان لوگوں اور رواحات کے پارے میں سمجھیں ہن سے آپ کو تکلیف پہنچیں۔ آپ ان واقعات اور لوگوں کو ذہن سے کمال دیں۔ آپ اس خصیں بھی معاف کر دیں جس کی وجہ سے آپ کو تکلیف پہنچی اور خود کو بھی دل سے معاف کر دیں۔

تصور کریں کہ آپ نے میراثمند دوڑش حلہ لیا ہے۔ آپ کی پھر سیکھ لگا تا حریت کی گئی ہے آپ کی خوارک اور ورزش کا خال رکھا گیا اور بہت اچھی تیاری کروائی گئی ہے۔ آپ نے چھ مینوں میں 26 پاؤ ڈنوزن کم کیا ہے۔ میراثمند کے دن کیا آپ، 26 پاؤ ڈنوزن اپنی کمر کے ساتھ باندھ کر میراثمند میں بھاگ سکتے ہیں؟ میراثمند سے کہیے بہت زیادہ وزن ہے۔ یا انی طرح ہے کہ ہتھے بہت سے لوگ بغیر تیاری کے نہیں میں تبدیلی میں لانا چاہتے ہیں اور پچھاصل کرنا لائے ہیں۔

© SCANNED PDF By HAMEEDI  
نالہ کیلیہ ۶۰ اردو کیمکٹ کیا ہے

دولت، محنت، خوشی 42 دنون کا عملی کورس

114

آسان ہو جائے گا۔ روز دیلہ کی ایک مشہور کہاوت ہے کہ آپ کی مرضی کے بغیر کوئی بھی آپ کو کسر محسوس نہیں کروائے گا، یہ بالکل صحیح ہاتھ ہے۔ اگر آپ کی بھی صورتحال سے دوچار ہوں تو یہ بات سمجھ لیں گے کہ کوئی بھی صورتحال یا فحش آپ کو غصہ نہیں دلا سکتا جب تک کہ آپ خود غصے کا انتخاب نہ کریں۔

## یاد رکھیں کہ

عمل آپ کے پھوٹوں کی طرح ہے۔ میراثمند آپ انہیں استعمال کریں گے یا اسے ہی مضبوط ہو جائیں گے۔

## آج کے دن

آپ عمل کافی سیکھنے کی مشترکہ کردیں۔



117 دولت، محنت، خوشی 42 دنون کا عملی کورس

## آپ اپنے ماضی سے معافی مانگ سکتے ہیں

ہم سب لوگ ماہی میں ایسے کام بھی کرتے ہیں جو احتساب ہوتے ہیں۔ ہم جب بھی انہیں یا دکرتے ہیں تو ہمیں پچھتا ہوتا ہے۔ ہم اُسیں بھول گئی اور بہت اچھی تیاری کروائی گئی ہے۔ ذہن میں دوبارہ آئی ہیں تو ہم غصے سے لرزائتے ہیں۔ کیونکہ آپ کے کاموں سے خوشیں ہوتے اور خود کو بھوسکر کرتے ہیں۔

آج میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنا کریں کہ آپ جب چن تصورات کی مشق کریں تو ان تمام لمحات کو یاد کریں جن کی وجہ سے آپ کو پچھتا ہو کا احساس ہوتا ہے۔ جب تمام تھی احساسات آپ کے ذہن میں آئیں تو آپ انہیں جنک کر دیں اور بہت واضح انداز میں اور یادگاری کے لیے کر کر سرپرستی کر دیں۔

© AMEEDI  
نالہ کیلیہ ۶۰ اردو کیمکٹ کیا ہے

دولت، محنت، خوشی 42 دنون کا عملی کورس

116

چاہتے ہیں۔ ایسے لوگ پہلے سے تیاری نہیں کرتے اور کام کے وقت مغلی خیالات کو ذہن میں لاتے ہیں۔

## خود کو معاف کر دیں تا کہ آپ آگے بڑھ سکیں

سب سے نقصان دہ بات یہ ہے کہ لوگوں سے جو قطیعات بہت عرصے پہلے سر زد ہوئی تھیں لوگ انہیں اپنے ذہن میں بخوارے رہتے ہیں اور پار بار خود کوستے رہتے ہیں۔ آپ کوچاہیے کہ ان پا توں کو بھول جائیں اور زندگی میں آگے بڑھیں۔ اگر آپ انہیں با توں کو سوچ رہیں گے تو یہ مغلی جذبات آپ کوچاہ کر دیں گے اور کسی بھی اسکے بارے میں کامیاب ہونے نہیں دے گے۔

جب تک آپ خود کو معاف کر نہیں سکھیں گے تب تک آپ اس بھروسہ کی وجہ سے

ساختا ہے آپ سے تسلی مل کیں اے ان باولی وجہ سے وودو معاف رہیا ہے۔ ن وجہ سے مجھے تکفیل پہنچتی ہے اور میں نے لوگوں کا دل دکھایا ہے۔ اب میں دیا خصوصی نہیں رہا بلکہ میں بدل کر ہوں اور ایک اچھا انسان بن گیا ہوں، اس طرح آپ کے زخم بر جائیں گے۔ آپ کے ذمہ سے تخفی خیالات کل جائیں گے اور آپ فوراً اپنے آپ کو بہتر محسوس کرنے لگیں گے۔ یہ میرا آپ سے ودھے ہے۔

### معاف کردیا تھام روحانی روایات کی نیاد ہے

اگر آپ خود کو اور دوسری کو معاف نہیں کرتے تو یہ آپ کی ترقی کی راہ میں بہت بڑی رکاوٹ ہے۔ اس طرح آپ روحانی اور جانی طور پر ترقی نہیں کر سکتے۔ شاید یہیں ایسا یہ محسوس ہوتا ہے کہ تاریخِ رندی پانی کی طرح ہتھی جاری ہے لیکن جب کہ دیں گے جب تک آپ جذباتی اور روحانی رکاوٹ جو حقیقی جذبات کی صورت میں موجود ہیں، اُنھیں دور نہیں کر دیں گے جب تک آپ خنگوار اور ملعن زندگی کی جھلک نہیں دیکھ سکیں گے جو کہ کسی کا حق ہے۔

وہ لوگ جن کے عزیزِ نشوکے ہوئے ڈرائیور کسی محروم کے ہاتھوں مر جاتے ہیں یا تکلف اٹھاتے ہیں۔ ایسے لوگوں کی لیے محروم کو معاف کرنا اچھا نہیں بلکہ کام ہے لیکن ناٹکن نہیں ہے لیکن جب یہی لوگ معاف کر دیجے ہیں تو ان کے زخم بر جزو شروع ہو جاتے ہیں۔ ہم میں سے بہت سے لوگوں کو ایسے خوفناک تجویز ہوں کہ سامنا نہیں ہوا ہوگا۔ ایسے لوگوں کو پریشان ہونے کی کوئی

سے پریشان رہیں گے اب آپ اپنے آن کاموں پر غور کریں جن پر آپ فرموس نہیں کر سکتے۔ ملک کی درسرے فرض کے احتمالات کو نہیں پہنچانا، باکی فرض کی ساکھ کو تقصیان پہنچانا، اس کی وجہ اپ کا بغض یا حسد کو بھی ہو سکتی ہے۔ میں یہ پہنچاوں کا آپ ان لوگوں کو بھی معاف کر دیں جنہوں نے آپ کے ساتھ خاطر دیہ کرما اور آپ کو تکلیف پہنچا ہو۔ کچھ ایسے لوگ ہوں گے جنہوں نے آپ کا دل کیلیا ہو گا اور آپ کو تقصیان پہنچا ہو گا۔ جس کی وجہ سے آپ کو جدید باتی طور پر تکلیف پہنچی ہو گی۔ ایسے لوگ شاید ابھی آپ کی زندگی میں موجود ہوں گے اور جو ہوں گے اور کہا کہ آپ کو بہت حصہ آتا ہو گا۔ یہ جو خصیٰ اور نفرت کے جذبات ہیں، یہ بہت خوفناک ہے۔ آپ کو جدید آپ کی یاد را شست کیں گہرائی میں موجود ہوں گے اور آپ میں بلکہ لیے کا احساس بھی موجود ہو گا۔ آپ کو وہ دن اچھی طرح یاد ہو گا۔ جس کی وجہ سے آپ کو خدا یا انتہا، آپ وہ دن بھول کیوں نہیں جانتے؟ میں ایسے لوگوں کو جاتا ہوں جو یہ سختی جذبات میں مل رکھتے ہیں کہ فلاں فرض نے نہیں تقصیان پہنچایا تھا اور وہ اپنی صفائی بھی پیش کرتے ہیں کہ وہ ایسے کوئی ہیں، وہ مجھے اپنی کہانی سناتے ہیں کہ وہ اس فرض کو تاپنے کر دیتے ہیں جس میں انہیں کیا تکلیف پہنچائی گئی۔ ایسے لوگ 40، 20 اور 40 سال تک پرانے قسم کی نہیں بھلا پاتے بلکہ انہیں لے کر قبروں میں چلے جاتے ہیں۔ وہ اس سے کیا حاصل کرتے ہیں؟ کیا اس سے ان کا طرزِ زندگی بہتر ہوتا ہے؟ انہیں خوشی لتی ہے؟ ان سب باقیوں سے کسی بھی فایکنڈ نہیں پہنچتا۔

### چوتھا ہفتہ باہمیوال دن

## آپ کے خیالات و عقائد اور یقین

”آپ اپنے خیالات، تصورات اور عقائد کی پچھلی اور ان کے مطابق عملی طور پر زندگی کی زرار نہ کروں سے روشن ہوں گے۔“

ہنری فاؤنڈیشن یورپ امریکی مصنف، شاعر و فلسفی (عہد چیات 1862ء تا 1876ء) آپ اس کتاب 42 دن کے ملکخانے کے آدمی راستے میں ہیں۔ پھر متن ہمتوں میں نے کسی پاراس بات پر روشنی ڈالی ہے کہ ہمارے اور دوسرے لوگوں کا عقیدہ ہماری زندگیں پر اثر انداز ہتھا ہے۔

بہت سارے عقائد یہ ہوتے ہیں کہ ان کی بیانات مطلقی ہوتی ہے اور اپنے تحریر کی بنا پر ہم اپنی کھیتی ہیں۔ بعض دوسرے عقائد یہ ہوتے ہیں کہ جن کے بارے میں ہم بتایا جاتا ہے کہ وہ چیزیں اور ہم ان کے بارے میں سوال کے بغیر انہیں سچ مان لیتے ہیں۔ ہم اسی سوچ کے ساتھ پوچھتے ہیں کہ میں جو ہی باشنا ملکیں ہیں تھاں کیسی ہیں وہ سب کی وجہ سے اور ہم انہیں ابھی بھی سمجھتے ہیں۔ ان کے بارے میں ہم پر دریافت کرتے ہیں کہ یہاں کچھ میں نہیں ہیں جو کہ ہماری آبندہ زندگی میں پریشانی کا باعث نہیں ہے۔

مجھے یقین ہے کہ آپ پچھلے تین ہمتوں میں یقین کی طاقت دیکھ چکے ہیں لیکن جب آپ ایک دفعاً یہ یقین کو مضبوطی سے ڈھن میں بھالیتے ہیں اور اس بات کو قبول کر لیتے ہیں کہ یہی ٹابت ہو جائیں گے تو واقعی آپ کی زندگی میں دیبا ہو جاتا ہے۔ اسی لیے میں اس بات کی ضرورت ہوتی ہے کہ ہم اپنی ذات سے متعلق لوگوں سے متعلق اور دنیا سے متعلق اور اپنی ذاتی طاقت کا تجربہ کریں۔ مجھے ایسیدے ہے کہ اس متعلق نے آپ کو سوچ دیا ہو گا کہ آپ اپنے ذاتی تصور کا تجربہ کریں۔ مجھے ایسیدے ہے کہ آپ کی خدا خاتمی میں اضافہ ہو گا اور آپ کا مقصد حاصل کرنے کا جذبہ پر پہلے سے طاقتور ہو گا۔ آپ میں تبدیلی آرہی ہے، اس وجہ سے کہ آپ نے اپنی

دولت، بحث، خوشی 42 دنوب کا عملی کورس 118 ضرورت نہیں ہے۔ اگر کسی کے ساتھ ایسا واقعہ ہیں آئے تو اس تکفیل کو دو کرنے کے لیے ماہر فیضیات کی مدد ہی چاہیے۔ لیکن یہ سچرگی ہم پر منحصر ہے کہ ہم اپنے معاف کر دیں۔

آج کے دن معاف کر دیئے والے خیالات اپنے ڈھن میں رکھیں۔ اگر آپ کو کسی فرض پر غصہ ہے تو اسے فون کریں یا پھر خاطر لیں اور اسے بتا دیں کہ آس نے آپ کو تکلیف پہنچائی گئی اور آپ کے لیے اسے معاف کرنا مشکل ہے۔ خود کا دروگوں کو معاف کر دیں اور پھر چھوٹی ہاتوں پر پہنچی پریشان نہ ہوں چہے ریل گاڑی کا چھوٹ جانا، لیکن قطار میں کھڑے ہو کر اسٹھار کرنا وغیرہ۔ معاف کر دیا اپنی ایک عادت بتا دیں، یا ایک بہتر ہی عادت ہے اور اس کی بجا پر آپ پہلے سے کہیں بہتر انسان بن جائیں گے۔

### یاد رکھیں

جب آپ معاف کر دیتے ہیں تو آپ آگے بڑھتے ہیں اور پہلے سے بہتر انسان بن جائیں ہیں۔

### آج کے دن

آپ اپنی اور دوسرے لوگوں کی زندگیوں میں معاف کر دیتے کی طاقت کو سمجھیں، سر ایں اور اپنی زندگی میں معاف کر دیتے کا تجربہ کریں۔



یہ خابر ہوتا ہے جو کام آپ مستحق ہیں کرنے والے ہیں۔ ہم اکثر یہ کہ رہے ہیں کہ میں یہ کام کروں گا لیکن ہم صرف کہتے ہیں اور عمل نہیں کرتے اس لیے ہم کام بدل نہیں ہوتے۔ ہم کام بدل ہوتے ہیں جب ہم اپنے تقدیر کا حاصل کر لیتے ہیں۔ بعض اوقات ہم کسی متعلق کو قبول نہیں کرنا چاہتے اور انہا عقیدہ پڑھ لیتیں کہ ناچار ہے کہ ہم کچھ باقی ہوں سے خوفزدہ ہوتے ہیں اور ہم

ذات سے متعلق اعتماد کو تبدیل کر دیا ہے۔

### یقین ایک زبردست طاقت ہے

جب ہم بیخ ہوتے ہیں تو (مجھے ایسیدے ہے کہ) ہماری تربیت بہت بیمار سے کی جاتی ہے۔

چاہے یہی رہن جس سے اس دوستی میں بھی اپنے اپنی عقاوتوں پر غور کریں اور انھیں ہمیشہ کے لیے اپنے ذہن سے نکال دیں یا آپ کی کامیابی کے راستے میں رکاوٹ ہیں۔

آپ یہ یقین رکھیں کہ آپ بہت محنت مند، پکش اور قاتل انسان ہیں اور آپ پر زندگی میں جس چیز کی بھی خواہیں کریں، اسے حاصل کرنے کیے ہیں۔ اگر آپ اس یقین کو ذہن میں بخواہیں تو پھر آپ اس کے مطابق کام کرنے لگتے گے۔ اپنے آپ کو ایک قاتل، غیر معقول اور منفرد انسان سمجھیں کونکہ آپ اپنے ہی ہیں۔ ہر انسان دوسرے انسان سے مفراد ہے۔ بھی بھی یہ سمجھیں کہ میں فلاں کام کر سکتا ہوں یا فلاں کام نہیں کر سکتا۔ خود اس احساس سے اڑاکر بیٹھ دیں اور صرف ثابت ہو سوں اور عمل کریں۔ صرف بہت زیادہ طاقتور عقاوتوں پر آپ کو اس قابل بنا تے ہیں کہ آپ اب اور مستقبل میں کامیاب حاصل کر سکیں۔ ہر دبہب کی بنیاد پر یقین کا ال پر ہی ہوتی چاہے۔ آپ کی کامیابی کا دار و دار اپ کے یقین پر ہے، آپ جس چیز کا یقین کر لیتے ہیں تو آپ وہ حاصل کر لیتے ہیں اور وہ یہیں بین جاتے ہیں۔

یاد رکھیں کہ

یا آپ کا یقین یہ ہے جو آپ کی ذات کو کیا کام کرنے کے لیے آزاد کر دیتا ہے یا پھر کچھ کاموں پر کمی مدد درکھاتا ہے۔ یا آپ اپنے پندھے کہ آپ کس بات پر یقین رکھتے ہیں۔

### آج کے دن

آپ اپنی ذات پر اور اپنے مقصد کے حصول پر یقین کریں۔



® SCANNED PDF By HAMEEDI

ہر دن ہیزی چیز ہے اور ہر سیدن ہیں ہماری عصداً ازانی نے جان ہے اے رام ہے میاں ہو سکیں۔ 18 سال کی عمر تک بہت سے بھیوں کی خود اعتمادی کم ہو جاتی ہے۔ اُن کے عطا کر تبدیل ہو جاتے ہیں کیونکہ ارادگرد کے لوگ بھی اُن سے تعلق اسی باقیت میں تھے ہیں جو اکثر حنفی ہوتی تھی ایک مریض جس کا نام Anorexia Nervosa ہے اس میں مریض کو بھول دیں لگتی ہے کہ وہ بہت موہو ہو گیا۔ دراصل وہ مٹا نہیں ہوا ہوتا بلکہ وہ صرف ایسا ہے کہ وہ بھت ہو کر کھجھ کر قبول کر لیتے ہیں۔ ایک مریض اپنی عمر کے آخری دور سے گزرے ہوئے ہوئے ہیں۔ آپ کا یقین، بہت طاقتور چیز ہے، ضرورت اس بات کی ہے کہ میں اپنے تمام عطا کا مقدمہ اور ثابت ہونے چاہیے۔ اُن کا تجویز کرنا چاہیے اور ہمارے اپنی ذات سے تعلق تام عطا کا مقدمہ اور ثابت ہونے چاہیں تاکہ وہ اسی آنکھوں زندگی میں مد را گرا بات ہو سکیں۔

### اپنے عطا کا تجویز کریں

آج کے دن اپنے تمام عطا کا مقدمہ اور جو عطا کو آپ کے خیال میں غلبہ ہیں اور آپ کی ترقی کی راہ میں رکاوٹ ہیں، انہیں تبدیل کرویں۔ مجھے امید ہے کہ آپ مجھے راستے پر بدل رہے ہیں اور آپ کے عطا کا زیادہ تر ثابت ہیں۔ لیکن اگر آپ کے کچھ عطا نہ تھیں تو انہیں تصورات کی راہ سے آہستہ آہستہ تبدیل کر دیں۔ آپ کے ثابت عطا کا مقدمہ اپنے عطا کا تجویز کرنے میں آپ کی مدد کریں گے، لیکن آپ کو ہر وقت اپنا مقدمہ ذہن میں رکھنا ہو گا اور آپ کا ایمان بہت مضبوط ہونا چاہیے اور آپ میں بہت زیادہ خود اعتمادی ہونا چاہیے کہ آپ اپنا مقدمہ حاصل کر سکیں گے۔

### خوف کا سامنا کریں

ایسا نہیں ہے کہ آپ جو کہتے ہیں وہ صرف آپ کے ذاتی عطا کو ظاہر کرتا ہے بلکہ اس سے

123 دولت، محنت، خوشی 42 دنوں کا اعمالی کورس  
کرنے کا کہیں، اسے لگن اور پابندی کے ساتھ کریں ورنہ آپ اس کام میں کامیاب نہیں ہو سکیں گے۔

پابندی سے کام کرنا آپ کو مضبوط ہاتا ہے۔ یا آپ کے پھلوں کی طرح ہے۔ اگر آپ ان کو استعمال کرتے رہیں گے تو وہ مضبوط ہو جائیں گے۔ اگر استعمال نہیں کریں گے تو کمزور ہو جائیں گے۔

ثابت قدمی آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہو گی  
آپ جو بھی حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ آپ کو جا چیز کے اس کا واضح منصوبہ بنائیں، اپنے ذہن میں اس کی تصویر بنائیں، ہمیشہ بہت سو میں اور اس کے لیے پابندی سے کام کریں۔ پابندی کو آپ ثابت قدمی بھی کہہ سکتے ہیں۔ ثابت قدمی ایک بہت اہم صلاحیت ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ گے بڑھتے رہیں چاہے تھی بھی رکاوٹ آئیں، آپ جو بھی تھوڑے کمزور ہو دبارہ سے کمزور ہو جائیں اور ہستہ نہ ہاریں۔ اس سے مراد یہ صلاحیت ہے کہ آپ کو شوٹ کرتے رہیں کبھی بہت نہ ہاریں بلکہ اپنے کام کو کوچکی سے کرتے رہیں۔

اپنے بھی ہوئے قفل جاں میں نہ ہجھن  
ہم ہر وقت اپنے بنا ہے ہوئے آرام دہ سوچوں کے معیار میں رہتے ہیں اور سوچتے رہتے ہیں کہ کام کیا کرنا چاہیے ہیں کیونکہ سوچنا بہت آسان ہوتا ہے۔ یہ بہت محفوظ ہوتا ہے اور اس میں کوئی خطرہ نہیں ہوتا۔ ہم کام نہ کرنے کے 101 بہانے نہیں کر سکتے۔ ابھی ہمارا ملازمت ڈھونڈتے کہا جانا کاروبار شروع کرنے کا، کیونکی کام کرنے کا کچھ وقت نہیں ہے، اگر ہم میں خود اعتمادی نہیں ہے تو ہم ہر وقت کام نہ کرنے کے بہانے ڈھونڈتے رہیں گے۔

اپنے آرام دہ معیار سے باہر کیلئے اور اپنا کام پابندی سے کرنے کا رادہ کریں  
پابندی سے کام کرنا کوئی بہارت نہیں ہے اور اسے سیکھنے کی لیے آپ کو کسی سکول جانا پڑتا ہے اور زندگی کوئی کوئی کرنا پڑتا ہے۔ جب میں تاریخ پر فلزِ ڈالا ہوں تو جتنے لوگوں سے بھی میں حاشا ہو انوں اُن سب میں برداشت اور ثابت قدمی جیسی خوبیاں موجود ہیں۔ انہوں نے اپنے مقاصد حاصل کرنے کے لیے بہت کافیں بڑا داشت کی ہیں، غربت کی ہے اور تمثیل کا نہ بنے

122 دولت، خوشی 42 دنوں کا اعمالی کورس

چھ تھاہفتہ  
تھیوں وال دن

### احساس فرمہ داری

”آپ اپنی خوابوں کی محفل کے لیے جو کوئی کہتے ہیں، ضرور بکھرے۔

جرأت ایک صلاحیت ہے، اس میں قوت اور جادو ہے۔ اپنی کوشش کا آغاز ابھی کیجھے۔“

جوہن، دلف گیلک و ان گوئے، جمن ادیب، سائنس و ان اور فلسفی

(عہد حیات: 1749ء تا 1782ء)

آپ 42 دن کے پنجھ میں کسی اتفاق یا خوش قسمتی کی وجہ سے کامیاب نہیں ہوں گے۔ اس کامیابی کے پچھا آپ کا ایک سب سے اہم اصل ہے کام کی پابندی۔

کوئی بھی حکم پابندی سے کرنے سے مراد ہے کہ یہ کام مجھے پسند ہے۔ سادہ لفظوں میں ہم اسے اس طرح لہیں گے، کسی کام کی پابندی سے یہ مراد ہے کہ وہ کام جو آپ کر رہے ہیں اسے کرنے کی خواہیں سے لے کر آپ اسے تمام زندگی کرتے رہیں کہ وہ آپ کا معمول ہن جائے۔

### آپ جس کام کو کرنے کا کہتے ہیں اُس پر عمل کریں

ہم سب لوگ اس لفظ جوڑ و خروش سے واقف ہیں۔ آپ نے بھی غالباً اس کتاب 42 دن کے پنجھ کو اسی جذبے سے شروع کیا ہوا، لیکن ہے کہ وہ سے یا تیرے روشنی کے وقت آپ اس میں اس مخصوصے کے مطابق کھانا کھانے پر آمد شہرے ہوں اور اس کے داؤ میں آگر آپ کا دل چاہا ہو کہ آپ اس مخصوصے کو ہیں ختم کر دیں۔ آپ نے ایسا نہیں کیا ہو گا۔ بہت سے لوگ ایسی دباؤ میں آگر کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں اور یہ ایک تقریبی بات ہے۔ اس لیے آپ جو بھی کام

ہیں۔ ان لوگوں نے اپنی بنیادی قیعنی اور مقصود پر رجی ہے اور مسلسل جدوجہد سے اس دنیا میں فتح حاصل کیا ہے ایک رواجی سوچ کو پھوڑ کر حقیقی ایجادات کی ہیں۔

بھی میں سے بہت کم لوگوں کے بارے میں جانے کی حقوق کرتے ہیں۔ لیکن ہم اپنے اور اپنے دستوں کے بارے میں بہت آسانی سے بہت سی معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔ اگر ہم اس کا ارادہ اور کوشش کریں تو ہم با آسانی کامیاب ہو سکتے ہیں۔

آپ اب 42 دن کے خلنج کا آدھا حصہ کمل کر چکے ہیں۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ پابندی سے اس پر عمل کر رہے ہیں۔ آپ کیاں ہم کی طاقت کا اندازہ تھا ہو گا جب آپ اس کا اطلاق اپنی زندگی کے غافل کاموں میں کریں گے۔ اگر آپ اپنے مقصود کو ورزانہ اپنے ذہن میں دھرا تے رہیں تو یہ بہت مشغولی سے آپ کے لاشوہری ذہن میں بیٹھ جائے گا اور آپ خود بکروں والے پابندی سے کام کرنے لگ جائیں گے۔ جب آپ ایک کام کو بارہ بارہ تر رہیں، میں اپنی ان تمام عادات کو اپنا ناجاہی ہے جن کی وجہ سے ہماری زندگی میں بہت تبدیلیاں آئی ہیں۔ بری عادات کو چھوڑنے کے لئے ہمیں ارادے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنی ذات کا رام دہ میار سے باہر نکلیں اور ہمیں عادات اپنا کمیں جو ہماری اسکے زندگی میں ہمارے کام آئیں۔

زیادہ تر لوگ ہا کام نہیں ہوتے، وہ اپنا کام چھوڑ دیتے ہیں۔ وہ اپنے خوبیوں کی محیل کے لیے کوشش کرنا چھوڑ دیتے ہیں اور قسمت کو قصور و ازیز ہوتے ہیں، حقیقت میں وہ قصور و ازیز ہوتے ہیں۔ اُنکیں ان بات کا احساس، بہت دری سے ہوتا ہے کہ انہوں نے بہت جلدی ہاتھ رہی تھی۔

آپ آپ انکل جنتی بھی کامیاب لوگوں سے ملے ہوں گے، اُنہوں نے اس دوران کے کر انہوں نے جعل سے اور کام کی پابندی سے کامیاب حاصل کی ہے، انہوں نے اس دوران تکلف بھی برداشت کی ہے لیکن ان کی کامیابی نے انہیں اطمینان اور خوشی دی ہے۔ آپ کو اپنی منزل تک چھٹے میں 500 گھنٹوں سے بھی کم وقت در کار ہے، پھر آپ اپنا 42 دن کا چھٹے کمل کر لیں گے۔ اپنے مقصود کی ذہن میں تصویر بناتے رہیں۔ اپنے رویے اور مقصود پر توجہ مرکوز رکھیں اس طرح آپ اپنے 10 دن میں کامیاب حاصل کر لیں گے۔

آپ ایسا کر سکتے ہیں۔

## مسکراہٹ

آپ جب بھی کسی شخص کے لیے مسکراہٹ ہیں، تو آپ کے اسی عمل میں ایسی محبت ہوتی ہے جو دوسرے کے لیے تھی اور نہایت خوبصورت خلیل ہوتی ہے۔

دریزیا، خادمِ علیق، مہنگاں (عہد حیات: 1910ء تا 1997ء)

آپ ایک دن میں کتنی دفعہ مسکراہٹ ہیں، میرا خیال ہے کہ ہنسنا بہت اچھا کام ہے۔ یہ لوگوں کے دریان بدمگالی دو رکھتا ہے اور اس سے آپ آرام دہ اور اچھا گھوں کرتے ہیں۔ علم الاعضاء کے مطابق جب ہم مسکراہٹ ہیں تو ہمارے اسے زیادہ پڑھے استعمال نہیں ہوتے جتنے خیکی حالت میں ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ جب ہم مسکراہٹ ہیں تو ہمارے منہ کے نثارات کا تعقیل ہمارے دماغ سے ہوتا ہے جس کی وجہ سے ہم بہت خوش اور مطمئن ہو جاتے ہیں۔

گیوالے ڈپنے ایک فرانسیسی ڈاکٹر جس نے علم الاعضاء پر تحقیق کی تھی اور انسانی مسکراہٹ کے بارے میں اس کا مطالعہ بہت دسیغ ہوا۔ اس نے اپنے مطالعہ سے یقین کالا کر مسکراہٹ و حفیم ہوتی ہے۔ ایک معموی مسکراہٹ ہوتی ہے جو کہ ہم سیاہنہ اور اولاد کاروں کے چہوں پر پھیتے ہیں جو کہ خود کو خوش رکھانے کے لیے مسکراہٹ ہیں۔ وہ سری ہمی مسکراہٹ سے بھر پور مسکراہٹ ہوتی ہے۔ اس طرح پھیتے میں آپ کی آنکھوں کے اور گرد کے پتھے بھی استعمال ہوتے ہیں، جو آپ مسکراہٹ کے علاوہ استعمال نہیں کر سکتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ پھیتے ہیں تو آپ کے چہرے کے جو پتھے استعمال ہوتے ہیں اُنہیں آپ کی اور طرح تحریک نہیں دے سکتے۔ یہ صرف اسی صورت میں استعمال ہوتے ہیں جب آپ دل سے مسکراہٹ ہیں۔

## صحیح معنوں میں مسکراہٹ

میرا خیال ہے کہ مسکراہٹ صحیح معنوں میں اس وقت کام کرتی ہے جب آپ دوسرے شخص کو دیکھ کر خلوص اور ثابت خیالات رکھتے ہوئے دل سے مسکراہٹ ہیں۔ اس طرح سے دوسرا شخص محسوس کرتا ہے کہ آپ کام کے لیے خواہ ہیں۔

کراہت ایں بہت ہی اچھی خوبی ہے۔ مم جب کسی کی پنج نو دیکھتے ہیں تو ہم خود بخود

129

دولت، محنت، خوشی 42 دنون کا عملی کورس

## چوتھا ہفتہ چھپیوال دن

### رجم دلی

”جس طرح کوئی رخت اپنے چل سے پہچانا جاتا ہے اسی طرح ہر شخص کی پہچان اس کے عمل اور کارنا مول سے ہوتی ہے۔ ایک اچھا عالم کسی ضائع نہیں ہوتا۔ مرقت کا انہار وستی کو ختم دیتا ہے اور جو حمدلی سے قیش آتا ہے وہ مجت میں اضافہ کرتا ہے۔“

سینٹ بیلی، قیریہ کا باشپ (عہد حیات: 329 تا 379)

اپنے ساتھ ہمدردی کا سلوک کریں۔ ہم میں سے بہت سے لوگ اپنی ذات کو بہت زیادہ تقدیر کا نثار ہاتھے ہیں۔ ہم اپنی کامیابیوں کے بارے میں اکثر کچھ بھی جانتے۔ ہمدردی کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنی ذات سے بگانہ ہوں بلکہ دل سے اپنے بارے میں یہ ارادے رکھیں، جو کہ ہم اپنے الفاظ کی صورت میں اور اچھے کاموں کی صورت میں اپنے لیے اور درسرے لوگوں کے لیے رکھتے ہیں۔

بہت سے لوگ آپ کو کہیں خودہ دیں گے کہ خود سے ہمدردی کرنا کمزوری، یا خود غرضی ہے۔ اپنی ذات کے ساتھ ہمدردی کرنے اور انی ذات کے معیار میں قید رہنے میں بہت فرق ہے۔ خود سے ہمدردی کرنے کا مطلب ہے کہ اپنے بارے میں بیشہ بثت سوچیں اور اگر کسی آپ سے یادوں سے کچھ قابل کام ہو جائے تو اس کا ذمہ خود کو نہ تھرا سیں۔ اکثر لوگ اپنے بارے میں قابل الفاظ استعمال کرتے ہیں اور ہر واقع کا ذمہ خود کو نہ تھرا سیں جبکہ ایسا نہیں ہوتا جائے۔

### ہمدردی آپ کے کروار کی طاقت ہے کمزوری نہیں ہے

جب ہم تھائی میں اپنی ذات کے بارے میں بثت سوچتے ہیں، خود سے ہمدردی کرتے ہیں تو کچھ لوگ اسے طاقت کا تم دیں گے اور کچھ لوگ اسے کمزوری کا تم دیں گے۔ میں پرے یقین

نالوں کیلئے ون اردو کے تمثک گزار ۳۴

نالوں کیلئے ون اردو کے تمثک گزار ۳۴

دولت، محنت، خوشی 42 دنون کا عملی کورس

آج میں اس سوال پر پرتوں کا اپ کس تم کے انسان بننا چاہتے ہیں۔ ایک ایسا انسان جو کہ اپنی جو کر کرے ہے۔ ہم اسکی کارنا مکمل کرنے والا، یا پھر ایک ایسا انسان جو کہ اپنی رحمی، بثت سوچتے ہیں، اور کامیابی کی وجہ سے مشہور ہو۔ جس تک رسائی حاصل کرنا ہے، بہت آسان ہو۔

### ہمدردی آپ کی روح کا حصہ ہے اس جذبے کو نہ چھوڑیں

میں اس بات پر یقین رکھتا ہوں کہ جب ہم اپنی ان نئیں خوبیوں مثلاً رحمی، ہمدردی اور لوگوں کو کہتا، ان کے کام آتا، ان خوبیوں کو خود دیتے ہیں تو ہم اپنی حصہ خود سے الگ کر دیتے ہیں۔ اس کی قیمت یہ ہوتی ہے کہ ہم اس کا کوئی ملٹیٹیشن نہیں۔ اگر آپ کامیابی حاصل کرنے کے لیے انسانیت کا برداشت اور ہمدردی کا جذبہ چھوڑ دیتے ہیں تو اسکا مطلب ہے کہ آپ نے اپنی ذات کا سب سے قائل قدر حصہ چھوڑ دیا ہے۔ میں ایسے بہت سے لوگوں کو جانتا ہوں جو کہ دوست ہیں، طاقتور ہیں لیکن لوگ اسکیں بخشنخت اور بے رحم انسان فرار دیتے ہیں، اُن کی ذاتی کامیابی طبع کی ہوتی ہے جس کا کوئی مقصود نہیں ہوتا۔

42 دن کے چھٹے کا مقصود ہے کہ آپ کا حس، ذہن اور روح مطہن ہو جائیں، ہمدردی کا تعلق آپ کی روح سے ہے۔ یہ آپ کی بھائی خوبی ہے، ایک ایسی خوبی جو کہ ہم اپنے کارنا مکمل کرنے والا، یا پھر ایک ایسا انسان جو کہ اپنے کارنا مکمل کرنے والا، یا پھر ایک ایسا انسان کے راستے میں کارنا مکمل کرنے والا، یا پھر ایک ایسا انسان کا جذبہ بھیں پایا جاتا، ظہرا یا اسے لوگ کامیاب ہوتے ہیں لیکن اُن کی کامیابی کوئی مخفی تھی۔

ہمدردی کے عمل کو اتنا دفعہ وہ رائیں کریں آپ کی عادت بن جائے

دولت، محنت، خوشی 42 دنون کا عملی کورس

اعی آنکھوں میں دیکھتے ہیں اور مکراتے ہیں۔ ہمیشہ اس کا یہ صہل ملتا ہے کہ وہ بچہ بھی ہمارے تاثرات دیکھ کر مکراتا ہے اور یہ یک غفرانی مل ہے کہ یہ کسٹرنا تاہم کو کہہ کر ہم بھی مکراتے ہیں۔ ہم جب کسی اپنے کسی دوست یا عزیز کو دیکھتے ہیں یا تقریب میں کسی ایسے غص کو دیکھتے ہیں جس سے ہم بات کرتا چاہیے ہوں تو ہم اسے کوئی کر خود، خود مکرانے لکتے ہیں۔ یہ ایک قدرتی بات ہے میں ذہنیاں جہاں پر بھی کیوں ہوں کوئی بھی جہاں کی نہیں ہے جہاں پر کسراہٹ کو پسند کیا جائے۔

آج کے دن آپ دوسرے لوگوں کو دوست بنانے کے لیے اپنی خوشی حاصل کرنے کے موقع حلاش کریں، آپ جب بھی اپنے کسی دوست سے میں ساختی سے میں حتیٰ کہ کسی اپنی سے بھی میں تو آپ کو کوشاں کریں کہ آپ سب لوگوں سے مکراہٹ کیا جائیں۔

42 دن کا چھٹا آپ کی ذات میں بثت تبدیلی کرنے کے لیے ہے تاکہ آپ اس پر عمل کر کے زندگی کے ہر دن میں کامیاب ہو سکیں، اس پر عمل کر کے آپ اسے انسان بن جائیں گے اور پہلے سے مختلف ادازوں میں سوچنے اور عمل کرنے لگ جائیں گے۔ آج کے دن آپ خود رہنے کے موقع حلاش کریں۔ کوشاں کریں کہ آپ بروقت مکراتے رہیں۔ آپ 42 دن کے چھٹے کا اداعہ حصر کرچک ہیں اور اپنا مقدمہ حاصل کرنے جا رہے ہیں۔ آپ بیقیا اس بات پر خوش ہوں گے کہ اس چھٹے آپ کی زندگیوں میں بثت تبدیلیاں لائیں۔

یاد رکھیں کہ  
ہیئت دل سے مکراہٹ

آج کے دن  
شوری طور پر مکرانے کی کوشش کریں اور اس مکراہٹ کے ذریعے دوسرے لوگوں کو دوست بنائیں۔



دولت، محنت، خوشی 42 دنون کا عملی کورس

سے یہ بات کہ سکتا ہوں کہ اپنی ذات سے ہمدردی آپ کے کروار اور روح کی مخصوصی خاہر کرتی ہے۔ ہم اسکی کوارٹ ایک اچھی عادت کو جتنا زیادہ دھراں گے ہم لوگوں کی زندگیوں میں اور اس دنیا میں اتنی ہی زیادہ بثت تبدیلیاں لائیں گے۔ جب زندگی میں جو کہ بھی دوسرے لوگوں کو دیتے ہیں آپ اس سے کہیں بڑھ کر سودی طرح حصول کر لیتے ہیں۔ اگر آپ اپنے اور دو لوگوں اور زندگی کو ہمدردی دیں گے تو آپ اسے کہیں بہتر اور مختلف صورتوں میں حاصل کر لیں گے۔

### اپنے سوچنے کا انداز بدل ڈالیں

میری زندگی میں ایسے بہت سے واقعات رومنہ ہیں جن میں میرے دوستوں اور اجنبیوں نے میرے ساتھ غیر معمولی ہمدردی کا برنا ڈال کیا ہے۔ جب میں طالب علم تو میں اور میرا ایک دوست ہم دنوں پہنچا اسماں انہماں نے تجویز کے 130 میل کے فاصلے پر بیوی پہنچا دیوں پر سفر کر رہے تھے، ہم نے دو دن بعد کی پرواز سے گھر واپس جانا تھا ابادی سے بہت دوستے جہاں پر بہت کم ٹریک تھی۔ اتنے میں ایک پک اپ ٹرک ہمارے پارے پا آیا اور ڈرائیور نے مورثہ مرنے سے پہلے ٹرک روک دیا اور ہم سے پوچھا کہ ہم کہاں جانا چاہتے ہیں۔ ہم لوگوں نے اسے تباہی کے ہم خود ٹوکرے کا جانا چاہتے ہیں۔ ڈرائیور نے ہم دلوں کو دور سے دیکھا اور یہی سوچا تھا کہ ہم جہاں جانا چاہتے ہیں وہ اپنے دہانہ پہنچادے گا۔ اس میں وہ غص یا قوفِ حسوس ہونے کا تھا۔ کیا کوئی غص کی سے اتنی ہی زیادہ ہمدردی کر سکتا ہے کہ وہ غص بخیر کی مخصوصی کے مقصود کے ہماری عورت کا چاہتا تھا۔ اس غص نے ہمیں تباہی کے دو آج کوئی اور کام نہیں کرنا چاہتا، میں بہت سالوں سے نیویارک نہیں گیا میں وہاں جانا چاہتا ہوں وہ غص ہماری دوڑ کر کے بہت خوش تھا۔ نیویارک بخیر کرہے ہیں اس نے انکار کر دیا۔ وہ صرف ہماری مدد

کسی دوسرے شخص کے پارے میں ہمدردی کا جذبہ رکھنا بھی بہت اچھی عادت ہے۔ ہمدردی کے فعل کی کوئی قیمت نہیں ہوتی، اور آپ اس امیت کا اندراہ نہیں لگا سکتے کہ اس سے دوسرے لوگوں کی زندگیوں میں کتنی تبدیلی آتی ہے اور لوگوں کو کتنی خوشی لہی ہے، آپ اس کو کمی بھلا نہیں سکتے۔ آپ جس شخص کے ساتھ ہمدردی کا برتاؤ کرتے ہیں اس کی زندگی میں شبہت تبدیلی آتی ہے خواہ آپ اس کے لیے کوئی چھوٹا سا کام ہی کیوں نہ کریں۔ اس طرح وہ شخص دوسرے لوگوں سے بھی اچھی توقعات داہستہ کرتا ہے۔

رنما چاہتا ہوا۔ سچے ہیں ہے لہ آپ پی زندگی میں کسی ایسے بہت سے واقعات ہوئے ہوں کے جب لوگوں نے آپ کے ساتھ ہمدردی کا برتاؤ کیا ہوگا۔ لیکن اس کے لیے کسی محکم کی ضرورت ہے؟ لوگ دوسروں کے ساتھ ہمدردی کے ساتھ چیز آتے ہیں، وہ دوسروں کی مدد کرنا چاہیے ہیں، یہ اس کی کتنی اور ذاتی وجہات بھی ہو سکتی ہیں، صرف یہ جان یعنی کافی ہوتا ہے کہ آپ بغیر کسی مقصد اور خود خوشی کے دوسرے لوگوں کے کام آ رہے ہیں۔ آپ کو صرف اس احساس سے ہی بہت خوشی ملتی ہے۔

133

دولت، بحث، خوشی 42 دنوب کا عملی کورس

لوگ زیادہ ہمدردی کے سخت ہوتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہ رہا کہ ہم دوسروں کے غلط روایے اور ظلم کو نظر انداز کر دیں بلکہ میں چاہتا ہوں کہ ہم لوگوں کے ایسے غلط روایے سے متاثر ہوں۔ ہمارے روایتیں سوچنے، محضوں کرنے اور عمل کرنے کی ملاحیت موجودہ ہے جس کی وجہ سے تم اپنے فہم کو آسودگی میں تبدیل کر سکتے ہیں۔ ہمارے تمام شبہت جذبات اور ہمارا بہت روایتیں ایک اچھا انسان بننے میں ہماری مدد کرتا ہے۔ ہم اپنے خیے پر قابو کر کر اپنی عادات تبدیل کر کے پہلے سے کہیں زیادہ بہتر انسان بن سکتے ہیں۔ ہمدردی کا عمل، ہمدردی کرنے والے اور جس کے ساتھ ہمدردی کی جائے، اُن دونوں کی زندگیوں میں شبہت تبدیلی لالاتا ہے۔

### آج کے دن

آپ اپنے ساتھ اور دوسرے لوگوں کے ساتھ ہمدردی کا برتاؤ کریں۔



® SCANNED PDF By HAMEEDI

نوول کیلیٹے ون اردو کی تحریک گزار ۳۵

دولت، بحث، خوشی 42 دنوب کا عملی کورس

آج کے دن جبکہ آپ کسی کے ساتھ ہمدردی کا برتاؤ کریں گے تو کوئی مشکل کریں کہ آپ پہلے سے کہیں بڑھ کر دوسروں کے کام آئیں جس سے اُن کی زندگی میں شبہت تبدیلیاں آئیں۔

### آپ آج بہت اچھا دن گزاریں

ایک اتوار کی صحیح میں نہ رون میں موجود ایک فرانسیسی رسیتوران میں ناشتا کر رہا تھا۔ مجھے ایک خاتون سے ملا کہنے کا اتفاق ہوا جو امریکا کے ایک چوٹے قصبے میں پڑھا تھی۔ وہ لدن سر کے لیے ایکی ہی آئی تھی۔ اُس کے شوہر اور پچھوئے نے اس ساکنہ کا تجھ نہ رون کے سات دن کے درسے کی نکت کی صورت میں دیا تھا۔ حتم میں مختلف گنجوں کے پارے میں ملاں پات کی جو اس نے دیکھی تھیں اور میں نے اسے کچھ اور جھوپوں کے بارے میں بھی بتایا کہ اسے وہ بھیں بھی دیکھنی چاہیے۔ جب میں قیمت ادا کرنے کا تو مجھے پاچا کہیرے نے اس کے ناشتے کی قیمت بھی میرے ناشتے کی قیمت میں شامل کر دی تھی۔ اُن دونوں میں بہت مشکل سے نہایت قابل رقم تھے سے گزارا کر رہا تھا۔ اتوار کے دن کا ناشتا فرانسیسی رسیتوران میں کرنا میرے لیے پورے فتح کا ایک پر لطف کہا ہوتا تھا۔ میرے ہون میں یہ خیال نہیں آیا کہ میں صرف اپنائل ادا کر رہوں اور اس خاتون کا مل نہ ادا کروں۔ لہذا میں اسکا مل بھی ادا کر دیا۔ جب میں مل دے کر انکو کر جانے کا تو میں نے اس عورت کو خدا حافظ کہا اور نیک تمناؤں کے ساتھ وہاں سے رخصت ہوا وہ خاتون میرے رویے کی وجہ سے بہت خوش اور میری ہرگز اترتی۔ اس طرح کسی کی مدد کرنے کی وجہ سے میرا وہ دن بہت اچھا گزارا تھا۔

میں آج تک بتتے لوگوں سے بھی طاہوں، میں اُن کی زندگیوں میں نہیں جھاک کیا، مجھے نہیں معلوم کہ خیس کن مٹکلات کا سامنا ہے اور اُن پر کن ذمہ داریوں کا بوجھ ہے جس کی وجہ سے وہ لوگ پر بیٹھنی میں جھالیں۔ ہم اپنی روزمرہ زندگی میں بہت سے اپنے لوگوں کا سامنا کرتے ہیں جو خست ہرماں ہوتے ہیں کی کے کام نہیں آتے اور ظاہری طور پر ان کا رو یہ محتول نہیں ہوتا۔ ایسے

135

دولت، بحث، خوشی 42 دنوب کا عملی کورس

### غیر مشروط پیار ایک عالمی حقیقت ہے

لوگوں سے بغیر کسی غرض کے پیار کرنا تمام نہاب اور ظالیفوں کے زندگی بہت اہم موضوع ہے۔ عزت، رحمتی، اعتماد، اعتماد، آگن، دعا ان سب کی بنیاد غیر مشروط پیار پر ہے۔ ہم سب لوگ آپس میں پیار کی وجہ سے ایک دوسرے سے ہمدردی رکھتے ہیں اور ایک دوسرے کے کام آتے ہیں۔

### لوگوں سے صلے کی امید کے بغیر پیار کریں

میں دنیا میں جتنے بھی کامیاب لوگوں سے ملا ہوں، ان سب میں ایک خوبی مشترک تھی: وہ سب لوگ کسی ایسی چیز کا تقاضہ کرتے تھے، جس سے وہ خیلی پیار کرتے تھے۔ انہیں اپنے مقصد کے راستے پر یہ اپنے کام کرنا اچھا لگتا تھا وہ اپنے مقصد کے راستے پر یہ اپنے کام کرنا لگتا تھا۔ آپ کی وجہ سے ہم اسی ایک دوسرے سے ہمدردی رکھتے ہیں، اسے شوق سے کر رہیں اور بیش وی کام کریں جو آپ کو پسند ہے اور آپ کرنا چاہتے ہیں۔ آپ جو گلی کام کریں اسے ظالموں کے ساتھ اور پیار کی طاقت پر یا کرنا واحد ایسی طاقت ہے جو کہ نہایت پراڑ ہے۔ اس کے

دولت، بحث، خوشی 42 دنوب کا عملی کورس

134

چوتھا ہفتہ  
چھپیں وال دن

### غیر مشروط محبت

”خواہوں کی دنیا اور محبت کے معاملات میں پہنچی نہیں ممکن نہیں ہوتا۔“ جو ناس آرائی، ہمکری کا شاعر، (عبدی حیات: 1817ء-1882ء) مدثرہ البالیا کی ایک نئی تھی، جس نے تینی جماعت کی بنیاد پر کمی خوبصوری دیتا تھا جنمات کرتی تھی، یہ جماعت پوری دنیا میں غریب لوگوں کی مدد کرنی تھی اور یہاروں کو مفت اور ایسا فرما ہے۔ Love all, Serve all. ”تمام لوگوں سے پیار کریں اور تمام لوگوں کی خدمت کریں۔“ آج کے دن میں اس موضوع غیر مشروط محبت پر روشنی ڈالنا چاہوں گا۔ لوگوں سے پیار کرنا بھی ہمدردی کی ایک حصہ ہے۔ ہم ہمدردی کی بنیاد پر خیرات کرتے ہیں اور بغیر کسی لالج کے لوگوں

® SCANNED PDF By HAMEEDI

نوول کیلیٹے ون اردو کی تحریک گزار ۳۵

بارے میں اس طرح سمجھ، دنیا میں ایک چیز بیار ہے اور ایک چیز فرحت ہے۔ یہ دوں ایک ساتھ نہیں رہ سکتے۔ آپ ایک وقت میں پیار کرنے والے اور فرث کرنے والے اشان نہیں ہو سکتے۔ آپ ایک وقت میں ان دوں میں سے صرف ایک انسان بن سکتے ہیں۔ اسی طرح پیار اور خوف ایک ساتھ نہیں رہ سکتے۔

ہم جب اپنی زندگی کے آخری دور سے گزر رہے ہوں گے اور اپنے ماشی پر نظر ڈالیں گے کہ وہ کون سا لحاظ ہیں جو کہ حماری زندگی میں بہت اہم ہیں تو تم دیکھیں گے کہ ان کا زادہ تر حصہ پیار پر مشتمل ہو گا۔ آپ کے سکول کا پہلا دن، آپ کے والدین، جب آپ کی شادی ہوئی، آپ کے بچے یا آپ کے کسی عزیزی کی وفاقات۔ تمام لمحات یہاں آپ کو یاد رہتے ہیں میکدان کے ساتھ آپ کی گہری واپسی ہوتی ہے۔ جب ہم اپنی اٹاکے حصار سے باہر نکلتے ہیں اور لوگوں سے پیار کرتے ہیں ان کے کام آتے ہیں تو جب ہم اپنی ذات کو دریافت کرتے ہیں۔

میں نے ایک شخص کا مضمون پڑھا۔ اس آدی نے اپنی زندگی کے سال اپنے لوگوں کے

کے کام آتے ہیں۔ آپ کی پوری زندگی میں ایک رشتہ جو سے اہم ہوتا ہے، وہ آپ کا اپنی ذات سے رشتہ ہے۔ ہم میں سے بہت سارے لوگ اپنے ہوتے ہیں جو اس حقیقت سے واقع نہیں اور اپنے آپ سے فرث کرتے ہیں۔ ایسے لوگ اپنی نماہری ملک و صورت اپنے روپیے اور دنیا کے ساتھ اپنے رشتے کو پسند نہیں کرتے اور نہ یہ خود کو تبدیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر آپ اپنے لوگوں سے اس بارے میں بات کریں کہ انہیں اپنا خیال رکھنا چاہیے اور اپنا دین یہ تبدیل کرنے چاہیے تو ایسے لوگ صرف فخرات کے لیے آپ کو دیکھیں گے۔ ان کے نزدیک خود کو تبدیل کرنے کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی۔

جب تک آپ اپنی ذات سے غلبہ نہیں ہوں گے اور خود سے پیار نہیں کریں گے تب تک آپ کو اپنی خامیاں بھی نظر نہیں آئیں گی۔

دولت، محنت، خوشی 42 دنوبہ کا عملی کورس

137

® SCANNED BY HAMEEDI  
نول کلیٹس ون ارڈر  
ل ک  
ف  
ک  
گ  
ز  
ڈ

### یا آپ پر منحصر ہے

میں یہ بات سمجھتی چاہیے اور لوگوں کو بتانا چاہیے کہ تم ہتنا زیادہ لوگوں کو غیر مشروط پیار کرتے ہیں اور لوگوں سے وصول کرتے ہیں، ہمارے لیے یہ اتنا چاہا ہے۔ اس سے حماری روحانیت میں ترقی ہوتی ہے۔ ہم خود کو حقیقی طور پر بھی پرپکون ہمیں کرتے ہیں۔ ہماراپنی ذات کے بارے میں اور دنیا کے بارے میں نظر تبدیل ہو جاتا ہے۔ اس طرح سے لوگ آپ کی زیادہ قدر کرنے لگتے ہیں۔ اس لیے ہمیشہ کوشش کریں کہ آپ بخیر کی لائچ کے لوگوں سے پیار کریں۔

یاد رکھیں کہ  
اگر آپ لوگوں سے غیر مشروط پیار نہیں کرتے تو اسے پیار نہیں کہیں گے۔ پیار ہمیشہ غیر مشروط ہونا چاہیے۔

### آج کو دن

آپ اپنی زندگی پر نظر ڈالیں اگر آپ لوگوں سے کمی وجہ سے اور مطلیٰ امیر رکھتے ہوئے پیار کرتے ہیں تو اسی سوچ بدل ڈالیں۔ ہمیشہ لوگوں سے بغیر کسی غرض کے پیار کریں۔



دولت، محنت، خوشی 42 دنوبہ کا عملی کورس  
ساتھ گزارے جو کافی گھر سیدہ تھے اور اپنی زندگی کے آخری دور سے گزر رہے تھے۔ ان کی زندگیوں میں بڑی رکاوٹ یہ خوف تھا کہ اگر وہ کسی کو کچھ دیتے ہیں اور لوگوں سے پیار کرتے ہیں تو ایسا نہ ہو کہ انہیں اس کا صلسلہ ملے۔ آپ کو کمی بھی یہ خوف خود پر سوار نہیں کرنا چاہیے بلکہ بغیر لامچے صلح کی امید کے لوگوں سے پیار کریں۔ آپ جو کچھ بھی لوگوں کو دیتے ہیں وہ کی نہ کی صورت میں اس کے کہیں نہیں زیادہ بڑھ کر آپ کو داہل جاتا ہے۔ یہ درست کا نیک نکام ہے۔

ہر انسان کے اندر اسچے پیار کا جذبہ موجود ہے۔ یہ ہمارے دل اور روح سے لکھا ہے۔ ہم جو بھی کام کریں کچھ سوچیں یا جو گھنی ارادہ کریں اس میں خوش اور پارٹیل ہونا چاہیے۔ آپ اپنی زندگی میں جو کچھ بھی کسی کو دیتے ہیں وہ وہ مواد کے ساتھ آپ کو داہل جاتا ہے۔ اگر آپ کسی سے فرث کرتے ہیں۔ غصہ کرتے ہیں یا کسی کے ساتھ کر دیتے ہیں تو یہ سب چیزیں آپ کو کھا جائیں گی۔ اگر آپ لوگوں سے رحمتی سے بھیتیں کرتے ہیں۔ ہمدردی کرتے ہیں تو اسی پارٹی کے پاس وہیں آجائیں گی۔

### پیار کے جذبے کی کوئی حد نہیں ہوتی

میں نے بارہ سالہ جرسن لڑکے کے بارے میں ایک مضمون پڑھا۔ اس لڑکے کو دوسرا بچہ عظیم کے اختتام پر اولاد ہٹلاتے تو فتحی تختہ اگر کراس سے نوازا تھا۔ لاہیں نے برلنی کا محاصہ کیا ہوا تھا۔ اس لڑکے کو بھاری اور اپنے ملک کی بے لوث خدمت کرنے کی وجہ سے فوج کے بہترین تخفے سے نوازا تھا۔ برلنی سے کہیں دور ایک چھوٹے قبیلے پر روس کی فوجیں تباہ حاصل کرنا چاہیے تھیں۔

جنگ کے دوران اس لڑکے نے دلکشا کر دی فوجوں کی فائزگی کی وجہ سے آٹھ جرسن فوجی دشی ہو گئے تھے۔ وہ لڑکا چھلائک لٹک کر گھوڑے پر سوار ہوا اور دو چکروں میں وہ تمام آٹھ فوجیوں کو داہل لے آیا۔ وہ لڑکا اکیلا ہی گولی لگانے کے خطرے کے باوجود چار اور فوجیوں کو داہل لے آیا جو پہلے فوجیوں میں ہی صورت حال سے دوچار تھے۔

اس بارہ سالہ لڑکے نے بارہ فوجیوں کی مدد کی تھی۔ اس لڑکے نے تباہ کی اس نے اتنے خطرے کے باوجود بہت بہادری سے ان لوگوں کی مدد کی تھی۔ اس لڑکے نے تباہ کی اس نے اتنے خطرے کے باوجود ہتل کے لیے تباہ بلکہ انسانیت کے ناتے اپنی فرض کھٹکتے ہوئے ان لوگوں کی مدد کی تھی۔ اس نے تباہ کیا اس صورت حال سے روپی یا کوئی اور فوجی بھی دوچار ہوں گے تو وہ ان کی بھی ضرور مدد کرے گا۔

دولت، محنت، خوشی 42 دنوبہ کا عملی کورس

رہنے کے لیے پسند کر لیتے ہیں۔ اسی طرح لوگ ہمیشہ نظر میں کسی شخص کو پسند کرنے لگتے ہیں۔ انہیں ہمیشہ نظر دیکھ کر ہمیاں یا وجدان ہو جاتا ہے کہ اس شخص میں تمام خوبیاں موجود ہیں جو کہ وہ پسند کرتے ہیں۔ اس طرح سے بعض اوقات لوگ ہمیشہ نظر میں اپنے کچھ شخص کا انتباہ کر لیتے ہیں۔

ہمیں روزمرہ زندگی میں اس قسم کے بہت سارے تجربات ہوتے ہیں۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم کسی دکان پر جا گئے ہیں اور ہمیں وہاں جائے ہی کوئی سوچ پسند آ جاتا ہے اور وہ کچھ ہیں کسی بھی سوچ میں لیتا ہوا تھا۔ ہم اتنی جلدی اس بارے میں کیسے فیصلہ کر لیتے ہیں؟ کسی دکان میں جا کر سوچتے ہو ٹھوٹا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ دراصل یہ ایسے ہوتا ہے کہ ہمیں سوچ کا جو رنگ پسند ہے اور جو انداز پسند ہے وہ ہمارے تھاتش خوبی میں پہلے سے موجود ہوتا ہے۔

۲۱۔ طریقہ حمد، اسرا، القاب، مکار، اکٹھاڑ، حارکی رکھتا ہے اور لامگی ہماری

دولت، محنت، خوشی 42 دنوبہ کا عملی کورس

138

® SCANNED BY HAMEEDI  
نول کلیٹس ون ارڈر  
ل ک  
ف  
ک  
گ  
ز  
ڈ

### اپنے اور اک پر بھروسہ کیجیے

جیسے ڈی ہر جملی تحریک پر فرا توجہ دینے لگتے ہیں۔

جیسے ڈی لائف نیشنز، فرانسیسی اور یونیورسٹی (عہدہ حیات: 1621-1695ء)  
۲۱۔ ۲۱۔ سماں، سماں، اتفاق، سماں، گھر، گھر، چھلک کر تھا، سماں، سماں، کام، کام، کام، کام،

شوری کوش کے اس کو خوشنی لیتا ہے اور آپ کا تجویز پر مرکوز کر دیتا ہے۔ آپ جیسے ہی اس کو دیکھتے ہیں تو آپ کا چاہا چلتا ہے کہ آپ سب کی خوبی لینا چاہتے ہیں۔ اس طرح سے جس چیز کو محی پسند کرتے ہیں ہمارے ذہن میں اس کی صورت موجود ہوتی ہے اور ہمارا ہب بغیر شوری کوش کے ذہن میں چیز کو خوشنی لیتا ہے اور جاری تجویز پر مرکوز کر دیتا ہے۔

ایسا کچوں ہوتا ہے کہ ہم کی جگہ پر جاتے ہیں اور اسے بے حد پسند کرتے ہیں حالانکہ ہم پہلے بھی دہن نہیں کئے ہوتے۔ شاید ہمارے ذہن میں امور جو ہوتے ہیں مجب پہلے سے موجود ہوتے ہیں یا ہمارا غریب خیال ہوتا ہے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم کی جگہ جاتے ہیں یا کسی صورتحال سے دوچار ہوتے ہیں تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہم یہاں پہلے بھی آچکے ہیں۔ یہ مظہر ہم پہلے بھی دیکھا ہے۔ اس صورتحال سے ہم پہلے بھی گزر چکے ہیں حالانکہ ایسا حقیقت میں نہیں ہوا ہوتا، یہ صرف ہمارا خیال ہوتا ہے۔ یا ہم جگہ پسند آنے کی وجہ بھی ہو سکتی ہے آپ کا ارادہ گرد کا ماحول پسند آ جاتا ہے۔ آپ کا مارچ اچھا ہوتا ہے یا آپ کو اس جگہ جا کر بہت اچھا احساس ہوتا ہے۔ آپ خود کو پر سکون حموں کرتے ہیں۔ اسی طرح سے آپ کی شخص کو ہمیں نظر میں ہی بہت زیادہ پسند کرنے لگ جاتے ہیں۔ اس کی وجہ ہوتی ہے کہ آپ کسی کو درست شخص سے ملتے ہیں تو اس کی وجہ ہوئی کہ توہانی حموں کر لیتے ہیں یا اس کی اچھائی حموں کر لیتے ہیں اور اس شخص کو سوچ کر بغیر ہی پسند کرنے لگتے ہیں حالانکہ آپ اس شخص سے پہلے بھی ملے بھی نہیں ہوتے اور نہیں کہیں بات کی

اشاف ہوا ہو گا اور آپ کی فیصلہ کرنے کی وقت میں اضافہ ہوا ہو گا۔ آپ کے وجدان کی طاقت میں اضافہ ہوا ہو گا اور آپ کا حوصلہ بھی پہلے سے زیادہ بڑھ گیا ہو گا۔

میں وجدان کو کوئی فرضی کہانی، جن یا بحثت نہیں کھاتا۔ ہم سب میں یہ طاقت ہوتی ہے کہ وجدان ایک فذری فعل ہے۔ جس میں ہم کی چیز سے گزرے بغیر ہی اپنی عمل کے ذریعے کسی خاص قسطے کی بخشی ہوتی ہے اس اور کی چیز کے بارے میں اداک کر لیتے ہیں۔

شاید یہ صرف تاثری ہو جو کہ ہمارے ذہن اشوفری کی وجہ سے ہوا اس کی کوئی نہیں شہادت موجود نہ ہو۔

میرے زد دیک یہ تصور کی کوئی بڑی کامیابی نہیں ہے بلکہ ہمارے ذہن کے لیے ایک بہت معمولی بات ہے کہ ہم کی کوئی معلومات کو بغیر کسی عمل کے اور بغیر سوچ کے کھانے شوری ذہن میں لاسکتے ہیں۔ اسی طریقہ کو ہم وجدان یا الہام کا نام دیتے ہیں جب بغیر شوری کوش کے کوئی بھی خیال ہمارے ذہن میں آتا ہے۔

لوگ اکثر اس تمہیں کی صورتحال کا ذکر کرتے ہیں کہ وہ کسی جگہ پر جاتے ہیں اور انہیں جانتے ہیں فروادہ گھبے دہن پسند آ جاتی ہے۔ اسی طرح سے لوگ یا گھر ہاتھ کرنے جانتے ہیں توہہ بے شار گرد رکھتے ہیں لیکن ان میں سے کوئی ایک گھر انہیں دیکھتے ہیں پسند آ جاتا ہے اور اسے وہ اپنے

دولت، محنت، خوشی 42 دنوب کا عملی کورس 141  
ہوں۔ شایاً اگر میں پرداز کے لیے وقت سے زیادہ یہ پہلے گھر نہ لٹا تو ہمیں پرداز فریک بند ہونے کی وجہ سے مجھے ملتی۔

میں جب بھی کہیں گلی میں یادیا کے کسی حصے میں بھی جاؤں تو میں بکھ جاتا ہوں کہ یہ جگہ محفوظ ہے انہیں۔ میں اپنی اندر وہی تحریک پر لیتیں رکھتا ہوں۔ اپنے وجدان پر لیتیں رکھتا ہوں آج کے دن میں چاہتا ہوں کہ آپ بھی بھیشہ ایسا ہیں۔ آپ آنکھ کو ہمیں پسند کر لے گئے اور اندر وہی تحریک پر لیتیں رکھتا ہوں کہ اس کی وجہ بھی چیز کے بارے میں پہلا درگل یا پہلا احساس تقریباً ایسی ہے۔

میں بھیشہ اپنے پہلے خیال کو ہمیشہ ہاتھوں یا اس کی وجہ سے سوچتا ہوں یا کسی بھی صورتحال کا ضرورت سے زیادہ تحریک کرتا ہوں۔

میں اس بات کا وعیٰ نہیں کرتا کہ آپ کا الہام بیوی 100 فصد صحیح ہوتا ہے لیکن آپ کو اس بارے میں ہفتا زیادہ علم ہو گا آپ کے تائج اتنے ہی زیادہ بہتر ہوتے جائیں گے۔ میں نے یہ دریافت کیا ہے کہ جب بھی میں کسی صورتحال کے تعلق ہوتے زیادہ سوچنے لگ جاتا ہوں، اس کی وجہ سے اس بارے میں اندر و خارج ہو جاتا ہے۔ مجھے بھی اپنے پہلے و جدید احساس کو مناجا کیا جائیں گے۔

بہت سی تھیں الگی ہوتی ہیں جنہیں کم سمجھنیں پاتے، اس لیے انہیں ہم ترک کر دیتے ہیں، نظر انداز کر دیتے ہیں۔ آپ اسکی چیز کو نظر انداز نہ کریں اور نہ انہیں طاقت ترک کریں۔ آپ اسکی چیزوں کو جھیلیں آپ بھی سمجھتے ترک نہ کریں بلکہ انہیں سمجھنے کی کوشش کریں، اس سے آپ کی وجدانی طاقت میں اضافہ ہو گا۔

جن لوگوں کی زندگی میں کوئی مقدمہ ہوتا ہے۔ ان کی زندگی میں اتفاق کے زیادہ موقع آتے ہیں۔

آپ ان اتفاقات کو حموں کر لیتے ہیں اور آپ کے ذہن میں مقدمہ کا واضح تصویر ہوتی ہے اور آپ کا حتم اشوفری سے بھی جیتی ہیں کوئی شوری طور پر آپ کے سامنے آتے ہیں۔ آپ وجہانی طور پر مقدمہ سے ملے جلیے موقع ہاتھ کرتے رہتے ہیں۔ بعض اوقات ہمارے ذہن میں کسی کام سے تعلق فراہو کوئی خیال آ جاتا ہے اور بعض اوقات نہیں آتا لیکن جب بھی آپ کے ذہن میں کوئی خیال آئے تو آپ اس پر بھروسہ کریں۔

دولت، محنت، خوشی 42 دنوب کا عملی کورس 140  
ہوتی ہے۔

آپ اپنی زندگی میں جو بھی تجربہ کرتے ہیں، آپ کا ذہن اس تجربے کو اور اس سے وابستہ جذبات کو ذخیرہ کر لیتا ہے۔

### علامات کو سمجھیں

میں نے گلہ گوش میں پروش پائی ہے۔ اس وقت گلہ گوش میں بہت شورش رہا اور ہگامہ ہوتا تھا۔ نوجوان نسل بہت گھٹی ہوئی تھی۔ بلاوجہ گلوکوں میں پہلے ایک، وہ سرے پر خسر کاناں کا مشہل ہوتا تھا۔ ان لوگوں نے گروہ بناتے ہوئے تھے۔ آپس میں لا ایک جھگڑا کرتے رہتے تھے اور بعض اوقات حصوم لوگوں کو مار کر اپنا حصہ لاتے تھے۔ اخبارات ان ہمروں سے بھرے ہوتے تھے کہ کسی گروہ نے صصوم لوگوں کو مارا ہے یا کسی کو قتل کر دیا ہے۔

میں نے اس بات کو بہت جلدی سمجھ لیا کہ لوگوں کی طاقت کا غلط استعمال ہوتا ہے جو لوگ کوئی ثابت کام نہیں کرتے اور ہماقہ زندگی نہیں گزارتے، وہ اپنی طاقت کو اسی طرح میں سرگرمیوں میں صانع کر دیتے ہیں بلکہ اس سے وہ لوگوں کو بہت نقصان پہنچاتے ہیں۔ اپنے لوگوں چارجت پسند ہوتے ہیں۔ ان کے چہرے پر کراہت بھی ہوتا ہے لیکن ان کے آنکھیں آپ کو کوئی اور کہانی ساتی ہیں، اپنے لوگوں کی مکاراہت مصوبی ہوتی ہے۔ میں نے یہ سمجھا ہے، میں لوگوں کی آنکھیں پڑھتا ہوں، ان کی جسمانی حرکات پڑھتا ہوں۔ لوگوں کے ارادے، ان کی بات کرنے کا انداز حالانکہ یہ چیز بھی کو لوگ کیماں اس پر پہنچتے ہیں اور کس انداز سے چلے پھرتے ہیں۔ میں یہ سب سچھ لاشوری طور پر کرتا ہوں۔ مجھنے سے ہی میں لوگوں کا مشاہدہ کرتا ہوں اور میرے اصل علم نے مجھے بہت دفعہ مشکل صورتحال اور روانی بھڑکے سے بچایا ہے کیونکہ میں لوگوں کے ارادے پڑھ لیتا ہوں۔

میرے ساتھ بہت وفہ میرے وجدان کی وجہ سے ایسا ہوا ہے کہ میں اپنی پرداز کے وقت سے کافی روپیلے گھر سے کل جاتا ہوں، مجھے اس کی ضرورت بھی ہوتی ہے کیونکہ بعد میں مجھے پہچاتا ہے کہ ترک بند ہے اور میں نے گھر سے جلدی نئے کام جو فصلہ کیا تھا۔ میں اسے اتفاق ہی کوئوں گا۔ میرا بیوی ہے کہ میں اپنے وجدان کی وجہ سے اپنے ارادہ گردی کیارکیوں بھی جاتا ہوں اور اسی ایجادی طور پر نکلیں ہوں اور کافر ہوئے اور اسے میں اتفاق سے بچ جاتا ہے۔

دولت، محنت، خوشی 42 دنوب کا عملی کورس 143

چوتھا ہفتہ  
اٹھائیں سوال دن

دولت، محنت، خوشی 42 دنوب کا عملی کورس 142

### یاد رکھیں کہ

آپ اس لمحے سے باخبر ہیں جب آپ کو اسی حموں ہو کر آپ کا وجدان آپ سے کچھ کہنی کی کوشش کر رہا ہے۔ آپ اسے ضرور میں۔

## اپنی ہر کامیابی پر خوشی منائیے

"آپ اپنی ہر کامیابی پر خوشی منایا کریں خواہ یہ کامیابی چھوٹی ہی ہو، اس طرح آپ بہتر طور پر ترقی کریں گے۔"

کامیاب دانش ور

بمیری ابتدائی کتاب "پیدائش کامیاب لوگ" Natural Born Winners میں نے ان سات اصولوں کی شناخت کی تھی جو کامیابی حاصل کرنے کے لیے ضروری ہیں۔ ان میں سے ساقی اس اصول یہ ہے کہ آپ اپنی کامیابی کی خوشی منائیں۔ اس کی وجہ تھا اس طرح سے کریں گے کہ ہم جب کامیابی کی خوشی مناتے ہیں خواہ وہ کتنی چھوٹی کیوں نہ ہو، اس سے ہماری عزت اپنی میں اضافہ ہوتا ہے اور ہمارا ذائقہ تصور پر بلے سے کہیں بہتر ہو جاتا ہے اور ہم خود ایک کامیاب انسان تصور کرنے لگتے ہیں۔

ہم جب بھی کسی واقعہ کو ثبت انداز سے دیکھتے ہیں اور کسی کامیابی پر شاپش دیتے ہیں، کوئی ترقیب منعقد کرتے ہیں یا لوگی بیٹھنے مناتے ہیں تو اس سے ہم اپنے آپ کو بہت مضبوط اور کامیاب انسان تصور کرنے لگتے ہیں۔ پھر تم جسیں ہمیں صورتحال کاماندا کرتے ہیں تو ہمارا تحت الشورہ میں ایک فاتح انسان کی صورت میں دیکھتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہوئی ہے کہ ہم جب بھی اپنی کامیابی کی خوشی مناتے ہیں تو اس سے ہمارے ذہن میں ہمارا کامیابی کا تصور ہر یہ گہرا ہوتا جاتا ہے اور ہم خود ایک کامیاب انسان تصور کرنے لگتے ہیں۔

آج کے دن آپ اپنی کامیابیوں کی خوشی منائیں۔ ہم اپنی زندگی میں ہر روز چھوٹے چھوٹے کاموں سے اپنی کامیابی کی خوشی مناتے ہیں۔ آپ اپنی زندگی کی چھوٹی چھوٹی کامیابیوں کو بھی عمومی تصور کریں۔ آپ کی زندگی کی ہر کامیابی آپ کے لیے بہت اہم ہے۔

جب آپ اپنی زندگی پر انتظار میں گے تو بہت سارے ایسے لمحات ہوں گے جنہیں آپ

آج کے دن

بمیرا پہنچ اور کی آواز سننے کی کوشش کریں۔



ناول کیلئے ون اڑو کے تھک کزار 3  
® SCANNED PDF By HAMEEDI

دولت، محنت، خوشی 42 دنوب کا عملی کورس 145

محنت کے لیے، خوشحالی کے لیے، دوستوں کے لیے اور اپنے عزیز و اقارب کے لیے بہت کچھ کرتے ہیں۔ یہ سب چھوٹی چھوٹی میلیں ہیں جن کے ذریعے ہم اہم دردی اور یا رہا بننے ہیں اور ان سب کی ہم خوشی مناتے ہیں۔

جب ہم شعوری طور پر یہ فضیلہ کر لیتے ہیں کہ ہمیں اپنی کامیابی کی خوشی منانی چاہیے تو ہم اعلیٰ طور پر خود کو مضبوط تصور کرنے لگتے ہیں۔

ہم جو کام کر کے خوشی میں اور اس خوشی کو دوستوں کے ساتھ بانٹ کر بہت اچھا محسوس کرتے ہیں، ہمیں چاہیے کہ اس حم کی خوشیاں ہم اکثر منایا کریں۔ اپنی زندگی میں ایسے موقع طلاش کریں جب آپ اپنی چھوٹی چھوٹی خوشیاں دوسروں کے ساتھ بانٹ سکتیں۔

یاد رکھیں کہ

جب ہم اپنی کامیابی کی خوشی مناتے ہیں تو اس سے ہمارا ذائقہ تصور بہت بہتر ہوتا ہے اور ہم اس بات پر خوش ہوتے ہیں کہ ہم کون ہیں اور ہم نے کیا کامیابی حاصل کی ہے۔

آج کے دن

اپنی کامیابی کی خوشی منائیں جس سے آپ بہت زیادہ لفظ اندوار ہو سکتیں۔



دولت، محنت، خوشی 42 دنوب کا عملی کورس 144

بہت آسانی سے یاد کر سکتے ہیں۔ ان میں کچھ ایسے واقعات بھی ہوں گے جن کی آپ نے بہت خوشی منائی ہو گی۔ ان واقعات میں آپ کی پیدائش کا دن، شادی اور شادی کی سالگرد وغیرہ شامل ہوں گی۔ یہ واقعات بہت واضح ہوں گے۔ ان سے وابستہ خوشی اور جذبات کو آپ با آسانی یاد کر سکتے ہیں۔ ان واقعات کو یاد کر کے آپ بہت زیادہ خوشی محسوس کرتے ہوں گے۔ آپ کے ساتھ اکثر ایسا ہوا ہو گا کہ آپ نے ایسے واقعات بہت دفعہ دہراتے ہوں گے جن کو یاد کر کے آپ بر دفعہ افسرہ ہو جاتے ہوں گے یا آپ نے دوستوں کے ساتھ ماضی میں بہت اچھا وقت گزارا ہوا ہے اور اسے یاد کر کے آپ بھی بہت خوش ہوتے ہوں گے۔ اسی طرح ہمارے اچھے برسے جذبات سے باہت یاد دوبارہ سے تازہ ہو جاتی ہے۔ اسی لیے ہم سب کو چاہیے کہ ہم اپنی روزمرہ زندگی کی ہر چھوٹی سے چھوٹی کامیابی کی بھی خوشی میں ہیں۔

آپ اپنی کامیابی کی خوشی منائیں گے آپ کے لیے یہ اتنا ہی بہتر ہے۔

آپ کامیابی کی خوشی منانے کے لیے کسی سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے۔

پہنچ کی طرح ہم سب کی بھی بھی خوشی ہوتی ہے کہ ہمیں قبول کیا جائے۔ ہمیں اس سے زیادہ خوشی اور کسی بات کی نہیں ہوتی جب ہمیں یہ تایا جاتا ہے کہ ہم کی ترقیب میں جا رہے ہیں۔

خواہ ترقیب کیتی ہی چھوٹی ہوں نہ ہو جائے کہ ہم اپنے والدین اور دوستوں کے ساتھ جا رہے ہیں تو ہم بہت خوش ہوتے ہیں۔ ہم کسی بھی کامیابی کی خوشی منانے میں بہت اچھا محسوس کرتے ہیں، جب ہم بڑے ہو جاتے ہیں اور خود عمار ہو جاتے ہیں تو جب جب تک کوئی خاص موقع نہ ہو جب تک ہم زندگی سے لطف اندر نہیں ہوتے۔ میرا خیال ہے کہ ہمیں کامیابی کے پہنچ کی نہیں مفتر سے دیکھنا چاہیے۔ میرا بات پر یقین ہے کہ ہم بہت طریقوں سے کامیابی کی خوشی مناتے ہیں۔ کسی بھی ترقیب میں ہم کسی کی حوصلہ افزائی کر کے یا اپنے چھوٹے چھوٹے کاموں سے خوشی حاصل کر سکتے ہیں۔ ہم ان پر سب کا اثر بہت شدت طریقے سے ہوتا ہے۔

آپ کو اس بات کا انتظار نہیں کرنا چاہیے کہ آپ کی پیدائش کا دن ہو، کہ کس ہو یا نہ ہو آپ تھی خوشی منائیں گے۔ درحقیقت زندگی کا ہر دن آپ کے لیے ہم ہے کہ آپ کو خدا تعالیٰ نے زندگی کی نعمت سے لوزا ہے۔ خوشی منانے کے لیے صرف ایک بھی جگہ کافی ہے۔ یہ معمولی بات ہیں بلکہ یہ ایک بہت بڑی حقیقت ہے۔ میں اکثر یہ بات سوچتا ہوں کہ ہم اپنی زندگی میں اپنی

پانچواں ہفتہ  
انیسوال دن

سے بوجھا تارو، خود کو بہت زیادہ سمجھیگی سے نہ لوگ خود کو اور اپنے ہر محاٹے کو بہت زیادہ سمجھیگی سے لیتے ہیں، ایسے لوگ عام طور پر اپنی اناکے حصار میں قید رہتے ہیں، خود پسند ہوتے ہیں اور خود کو غیر محفوظ بھیتے ہیں۔  
اپنے ارد گردی کی تمام چیزوں کے ساتھ وابغی کی کوشش کریں، اس طرح سے آپ ہر وقت اناکے حصار میں رہیں گے۔ آپ ہر وقت مطمئن اور پر سکون رہنے کی کوشش کریں۔

### اپنی اناکو پیچھے چھوڑ دیں

بہت سے لوگ جب بڑے ہوتے ہیں تو وہ خود کو غیر محفوظ محسوس کرنے لگتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ ان کی عزت کی جائے، انہیں پسند کیا جائے اور ان کی ذات کو اہمیت دی جائے۔ یہ ہماری اشوفہما کا حصہ ہے، جب انسان بکپن سے لگتا ہے اور بالآخر ہوتا ہے تو وہ چاہتا ہے کہ اس کی ذات کو اہمیت دی جائے۔ ہر کوئی بھی چاہتا ہے کہ اپنی تعریف کی جائے اور اس کے دوست اور ہم مرتبہ لوگ اس کی عزت کریں۔ بچک میں بھی اپنی نوجوانی میں ایسا ہے۔

ہماری اقدار اس بات میں ہے کہ لوگ ہمیں اہمیت دیں بلکہ ہماری قدر ہماری عزت فیں میں ہے۔

میں اپنی زندگی میں جتنے بھی خوش، کامیاب اور حکم لوگوں سے ملا ہوں، ان سب میں ایک خصوصیت مشترک تھی کہ ان لوگوں میں انہیں تھی اور وہ لوگ یہ چاہتے ہے کہ ہر کوئی زبردست اُن کی عزت کرے اور ان کی ذات کو اہمیت دے۔ تمام خوشال لوگ اس بات کو ہم نہیں بھیتے۔

### آپ کی اناکی بھوک کبھی ختم نہیں ہوتی

اگر آپ اپنی اناکے بارے میں جانش گئے تو آپ کو بھاٹپا گکر یا ایک بہت ہی خوفناک درد مدد ہے جس کی بھوک کمی نہیں ہوتی۔ آپ اس چاچی کو جاننے کے لیے کسی غصہ کو دیکھ سکتے ہیں جس میں بہت زیادہ اپنی جائی ہے اور جو خود کو بہت اہمیت دیتا ہے اور جانتا ہے کہ لوگ بھی اسے بہت زیادہ اہمیت دیں۔ اپنی اناکا پر قابو پانے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کا بہت بھرتے جائیں اور اسے ملی دیں بلکہ آپ اسے بھوکاریں۔ اسے قات کروائیں۔ آپ اسے کیسے بھوکار کر سکتے ہیں؟ دوسرے لوگوں کی خدمت کر کے اور ان کے کام آ کر آزادی سے خود پر

## چمک اٹھنے کا ہی وقت ہے

اگر آپ کی روح میں روشنی کی دمک موجو دے دو وہ آپ کی تجھیت کا نکار دے گی اگر کسی انسان میں حسن ہو تو اس کا گمراہ آنکھی سے آشنا ہو جائے گا، اگر اس کے گمراہی میں ہم آنکھی ہو گی تو اس کی قوم میں حکم ہے اسے ہو جائے گی اور اگر قوم مٹھی ہو جائے تو دنیا میں اس کی قوم ہو جائے گا۔

ایک ہمچنین کا واد

آپ اپ ایک میں کچھ کچھ سکھ کر نہیں اور پانچ ہیں بیٹھ کر بھی گئے ہیں آپ بہت دچک پر دوسرے گزر رہے ہیں، اپنی ذات کو دریافت کر رہے ہیں، آپ نے کامیابی کے لیے نئی مادات میں ہیں، خود کو تبدیل کر رہے ہیں اور اپنی صلاحیتوں سے واقف ہو رہے ہیں۔ آپ کی یہ ثابت تبدیلی آپ کی اپنی ذات کے لیے ہے، آپ کے دوستوں، رشتہ داروں، آپ کے ساتھ کام کرنے والوں کے لیے تھی کہ تمام دنیا کے لیے، بہت اہم اور قابل قدر رہے۔

خود کو تبدیل کرنے کے لیے بے بھک آپ محنت کر رہے ہیں، اپنا بیماری کے ساتھ تجویز کر رہے ہیں اور کوئی حقانی کا سامنا کر رہے ہیں لیکن یہ کوئی مقابلہ یا رکی احتیاج نہیں ہے اور شرمند کوئی بچ آپ اور آپ کے کام کے لیے بھروسی گے اور آپ کی حوصلہ افزائی کرنے بیٹھے ہیں بلکہ آپ خود اپنے اندر تبدیلی میں محسوس کریں گے۔

### آپ نے بغیر جو دن گزار دیتے ہیں آپ کا وہ دن ضائع ہو جاتا ہے

ہنسنا چاہیے، آپ کے لیے بہت ضروری اور اچھا ہے۔ سانس نے یہ بات ثابت کر رہے ہیں میرے ذیل میں ہم سب لوگ ہی جانتے ہیں۔ میرا ایک امریکی کی دوست بیوی کی بات کہتا ہے کہ روشنی میں آؤ اور خود کو ہلاک محسوس کرو۔ یعنی کہ اپنے سر

دولت، محنت، خوشی 42 دنوب کا عملی کورس

نہیں، برداشت کرنے کی عادت ڈالیں۔ دوسرے لوگوں کو پیچی سے سئیں اور ان کی کامیابی پر خوش ہوں۔

اپنی اناکا پر قابو پانے کے اور بھی بہت سارے طریقے ہیں۔ اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ تم اپنی تبدیلی ذات سے ہٹائیں کہ دوڑو اور اہمیت نہیں۔ برداشت کرنے کے لیے پرمہارت حاصل کریں۔ ہمدردی کافی نہیں، رحمی نہیں، دوسرے لوگوں کی مدد کرنا ہی ایسا طریقہ ہے جس کے ذریعے آپ بہت جلد اپنی اناکے حصار سے باہر کل آئیں گے اور خود کی بجائے دوسرے لوگوں کو اہمیت دیں گیں۔

### اپنی پسند کے مطابق زندگی گزاریں

لوگوں کو خوش کرنے والے دن انسان نہیں جو ہر کام مددوں کو خوش کرنے کے لیے کرتے ہیں کہ لوگ اپنی پسند کریں۔ اس بات کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی کہ لوگ کیا سوچیں گے مرف یا بات اہم ہے کہ آپ کیا سوچتے ہیں۔ آپ اپنے بارے میں کیا خیال کرتے ہیں؟ اگر آپ ایسا سوچتے ہیں کہ آپ بہت اہم انسان ہیں اور لوگوں کو آپ کی عزت کرنی چاہیے تو ہماراں میں خطرے کی کوئی بات نہیں ہے۔ اگر آپ اپنی کوئی سوچتے ہیں کہ آپ اپنی تعریف اس طرح بیان کرتے ہیں کہ لوگ آپ کے بارے میں کیا سوچتے ہیں، کیا کہتے ہیں اور کیا محسوس کرتے ہیں، تو اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ خود کو بہت زیادہ سمجھیگی سے لے رہے ہیں اور آپ کی خوشیاں داؤ پر لگ گئی ہیں۔ آپ کی خوشی اور پسندیدگی لوگوں کی پسندیدگی کے مشروط ہے۔ آپ کی اپنی کوئی سوچ اور خوش نہیں ہے۔ جیسا لوگ آپ کے بارے میں سوچیں گے آپ بھی دیساہی سوچیں گے اس طرح سے آپ کبھی بھی خوش نہیں رہ سکتے گے۔

آپ زندگی میں اچھا وقت گزارنے کے لیے آئے ہیں، آپ نے بہت زیادہ عرصہ ہیاں پسند رہتا، اس بات کا یقین کریں کہ آپ ہمیاں اچھا وقت کر رہے ہیں۔

یہ 42 دن کا ہفتھہ آپ کی تجدید کے لیے ہے کہ آپ اپنی ذات کی دریافت کریں، زندگی کی دوبارہ سے ٹوٹات کریں اور اپنے تمام مقاصد خواہ و چھوٹے ہوں یا بڑے، ان میں کامیابی حاصل کریں۔ اس چلچیل کا مقصد یہ ہے کہ آپ بھی، جسمانی اور روحانی طور پر نہ مٹا سکیں۔ آپ اپنی صلاحیتوں کو پچھلیں اور وہ تمام مقاصد حاصل کر لیں جو آپ نے اپنی خوشی اور کامیابی کے لیے بھائی خوش رہنے کے لیے ہے دکھ اٹھانے کے لیے نہیں ہے۔ آپ بھی شہنشہ کے

149 دولت، محنت، خوشی 42 دنوب کا عملی کورس

موقع ڈھونڈتے ہیں۔ ہم اجیر فلمیں اور ہم اجیر کتابیں پڑھیں۔ کلب جائیں اور جراحتواروں کو سیل، اس سے آپ کو بہت دوستی حاصل ہوگی اور آپ کا جراحتوار اچھا جائی گا۔ پشتہ بہت ہی اچھا اور خوفناک احساس ہے۔ اس سے آپ کی تمام گلفریں اور پریشانیاں دور ہو جائیں۔

آپ ہر وقت دوسرے لوگوں کو خوش کرنے کی گلفریں نہیں اور وہ یہ فکر کریں کہ لوگ آپ کے بارے میں کیا سوچیں گے۔ آپ جانے ہوں کہ آپ کون ہیں، اس لیے اسے اتنا برا معاشرہ سمجھیں، تمکن مزاحی ہیں اور پر سکون رہیں۔

### یاد رکھیں کہ

آپ اس بات کی گلفری کریں کہ لوگ آپ کو اہمیت دیں اور آپ کی تعریف کریں کیونکہ آپ کی ارادت دوسرے لوگوں سے اس بات کا مطالبہ کرتی ہے۔ آپ اپنی ذات میں مطمئن رہیں اور پہلے سے زیادہ پہنچ کریں۔

### آج کے دن

زندگی سے لطف اٹھائیں اور اپنے بارے میں زیادہ فکر متذہبوا کریں۔



پانچ ماہی  
تسیوال دن

شامل نہیں ہیں تو اس طرح سے ہم اپنا ذائقی تصور خراب کر لیتے ہیں۔ بھر جتنا مرغی ہم خود کو سمجھائیں اور اپنے کاموں کی وضاحت کریں۔ بھر جگی ہم بھکا جائیں چیزیں کہ کاش ہم اپنی زندگی میں کوئی برداشت نہ کرتے یا اپنے مخصوصے کے خلاف عمل نہ کرتے۔ میں جب کسی کام کا مخصوصہ ہتا ہوں تو پھر مجھے خوشی مرغی پہنچا ہوں وہ کام نہیں کرتا جو ہم میں مخصوصہ ہے میں شال نہیں ہوتا۔ میں صرف یہ سوچتا ہوں کہ اگر میں اپنے مخصوصے کے مطابق کام کروں گا تو میں بہت اچھا ہوں گے کروں گا، مجھ میں ثابت تبدیلیاں آئیں گی اور میرا ذائقی تصور پہلے سے ہتر ہو جائے گا۔ اس وقت آپ اپنا چیخچی محل کرنا چاہیے ہیں اور اپنا ذائقی تصور، بھر کرنا چاہیے ہیں۔ پس آپ اپراہ کر لیں کہ آپ بھی اپنے مخصوصے کوئی چھوڑ دیں گے اور اپنے مقصد میں کامیاب ہوں گے۔ اپنے آپ کو جوہر دیا اور اپنے پارے سے غلداری کا قائم کرنا چاہیے ہیں اور اس کا امداد میں بہت اچھا ہوں گے۔

ہم اپنا ارادہ مضبوط رکھیں گے اور اپنا کام نہیں چھوڑ دیں گے

ہم اپنا ارادہ مضبوط رکھیں گے اور اپنا کام نہیں چھوڑ دیں گے

42 دن کے چیخچی میں آپ کو اپنے بہت سارے موقع میراءے ہوں گے کہ آپ اپنے آپ کو جوہر دیں اور اپنا اس دن کا چیخچی محل نہ کریں۔ آپ نے اس دن کا چیخچی محل کیا یا پھر دیا یا آپ پھر سختا۔ آگر آپ نے کسی دن کا چیخچی محل نہیں کیا اور آگر آپ انی اس غلطی کو دھرا نہیں سمجھیں تو اس میں کوئی بھی بات نہیں ہے۔

اب آپ اپنا 42 دن کا چیخچی محل کرنے جا رہے ہیں۔ اب آپ ارادے کی طاقت کو سمجھیں۔ آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ آپ جو کام ہمیگی کریں، اس کو کرتے وقت اپنے ارادے کو ذہن میں رکھیں اور کام اس احساس کے ساتھ کریں کہ آپ نے اسے محل کرنے کا ارادہ کیا ہوا ہے اور آپ جب بھی کسی کام کو کرنے کا نہیں گے تو اسے ضرور کریں گے۔ آپ دوسرے لوگوں کو یقینوں پہنچتے ہیں لیکن اپنے آپ کو یقینوں میں بنا سکتے۔ آپ اپنے غلداری کے لیے یا جو کام آپ نہیں کرپاۓ اس کے لیے آپ جو بھی دلیں دیں اور بھی بھی وضاحت کریں، آپ یہ جانتے ہیں کہ آپ نے غلداری کیا ہے اور اس سے آپ کی عزت لش میں کی آئی ہے۔

اگر آپ کسی کام کو کرنے کا ارادہ نہیں کریں گے تو دنیا ہوگا۔ صرف خواہش کرنے، چاہئے یا امید کرنے سے کوئی کام نہیں ہوتا، کیمی کام کو کرنے کے لیے آپ کو تمہارا دعویٰ کی خود دوست ہوتی ہے۔

## وقت ارادی

"ہماری ناکاہی اس دلیل کا جواز پیدا کرنی ہے کہ نہیں اپنی کامیابی کے لیے درکا وقت ارادی میں احتکاہ دو جیکی حاصل نہیں تھی۔"

جان کر جھٹین بودی، معروف ادیب (مہدی حیات: 1820ء تا 1864ء) میں چھوٹوں میں آپ کو سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ آپ الگ الگ استھان نہیں کریں گے شروع کردے گا۔ اس چیخچی کا ایک اہم اصول یہ ہے کہ آپ الگ الگ استھان نہیں کریں گے شروع میں بہت سارے لوگ چھٹیں کھو گائیں گے انہیں الکوول سے منع کیوں کیا جانا ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو اس قابل بنا جائے کہ آپ کی وقت ارادی کو بڑھایا جائے اور آپ اس سے فائدہ اٹھائے ہوئے کام کرنے کا رادہ کریں اور اپنے مقاصد میں کامیاب ہاصل کریں۔

آپ جب اپنی وقت ارادی کو استھان کرتے رہیں گے تو یہ مضبوط ہو جائے گی

آپ کو کیتی عادات سیکھنے میں جو بھی خیال رکاوٹ ہے اس کی حرمت کریں۔ آپ کے ساتھ اکثر ایسا ہو گا کہ جب آپ الکوول، سکریت، ہیٹ، ہیٹ کو تنصیhan پہنچانے والی دوسری اشیا چھوڑنا چاہیے ہیں یا اپنے طرزِ زندگی میں تہذیب لانا چاہیے ہیں تو کوئی شخص آپ کو ان میں سے کسی ایک چیز کی عکھلش کرنا ہے جسے چھوڑنے کے لیے آپ دل سے ارادہ کر سکھوئے ہیں اور زبان سے اس بات کا اعتراض کرتے ہیں۔ کوئی شخص آپ سے یہ کہتا ہے کہ "محبک" تم یہ چھوڑ چکے ہوئے سن ایک سگر ہے تمہاری کامیابی کی راہ میں رکاوٹ کر دیا گا۔ آگر آپ دروزی مرزا جانا چاہیے ہیں اور نہیں جانا چاہیے تو آپ کی دعائی ختم نہیں ہو جائی۔ وہ شخص صحیح ہے، اس سے آپ کی دنیا تمہیں ہوتی ہے تو آپ کے مخصوصے میں شامل نہیں ہیں، اس لیے آپ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ جب ہم کرور پر جاتے ہیں اور اپنے کام کرتے ہیں جو اب ہمارے مخصوصے میں

ہم میں سے بہت سارے لوگوں کو ماضی میں نیزادہ تراکمیابی کی بجائے ہاکاہی کا تجربہ ہوا ہو گا۔ اس چیخچی کا مقصد یہ ہے کہ آپ اپنی زندگی کو جگہ راستے پر لائیں اور اپنی کامیابی حاصل کرنے کی صلاحیتوں کو جاگا کریں۔ اگر آپ کو اپنی منزل حاصل کرنے کے لیے کوئی مقدمہ کا علم ہوتا ہے کہ آپ اپنا کیوں کرنا چاہیے ہیں تو ہم آپ کے لیے خود تحریک دیا، کام کی پاندھی کرنا زیادہ آسان ہو جاتا ہے۔

آپ بھی اپنے مقصد کے لیے پہلو فنر رکھیں کہ آپ اس سے کیا حاصل کرنے جا رہے ہیں۔ آپ لوپنا مقدمہ حاصل کرنے کی راہ میں کتنی میکھلات اور کلکاف اٹھائیں ہیں، آپ کو مضبوط وقت ارادی اور ہم سے ان کا مقابلہ کرنا چاہیے۔ مشکل وقت بھی گر جاتا ہے، بھوکی میں کوئی نہیں ہوتا سوائے پیار کے، اس لیے ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ پیار سے میں کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ دنیا سے تمام اچیزیں ختم ہو جاتی ہیں۔

آپ کے ارادہ کرنے کی صلاحیت کی بولی میں سے نہیں لفڑی بڑی اسے سیکھنے کے لیے کوئی کووس کرنا پڑتا ہے۔ یہ ہمارے اندر سے نکلتی ہے اور ہر انسان کے اندر موجود ہوتی ہے۔ یہ کوئی مہارت نہیں ہے جسے آپ سیکھتے ہیں بلکہ یہ آپ کاروباری ہے جو کہ 100 فصہ آپ کے اپنے نہیں میں ہوتا ہے۔

اب آپ جب 42 دن کے چیخچی دنوں سے گزریں گے تو آپ اس بات کا نوٹس لیں گے کہ آپ کو اپنے روپے میں چھٹی لانے کے لیے تی عادات سیکھنے کی ضرورت ہے۔ مجھے اس بات پر یقین ہے کہ آپ پہلے سے یہ کافی تی عادات میک پے ہوں گے جو آپ کی روزمرہ زندگی کا حصہ بن جیں گی۔

یاد رکھیں کہ

پانچ ماہی  
تسیوال دن

## موت

موت اور زندگی کے حالات کی بھی ساتھ راستہ نہیں چلتے۔ خدا کا خبر ہے کہ اس نے زندگی اور موت کو الگ الگ لکھا ہے۔ اس لیے آپ ہر مسئلے کو زندگی اور موت کا مسئلہ نہ بتائیں۔ سکون، اطمینان اور اسلام سے زندگی کرائیے۔

تماس آپلے، برلنی، برلنی تعلیم و مورخ، (مہدی حیات: 1795ء تا 1842ء)

وڈی اٹلن (Woody Allen) نے موت کو بہت سی محضیں اپنے طریقے میں ادا کیے کہ میں ہوں۔ میں بھی یہ جاتا ہوں کہ جب موت آئے تو میں وہاں پر موجود ہوں۔ ہم موت کے بارے میں سوچتے ہیں لیکن مجھ بات یہ ہے کہ ہم موت کے بارے میں زندگی اور موت کا مسئلہ نہ بتائیں۔ ہمارے لیے خوفزدگی ہوتی ہے۔ یہ لیکن جیسی نہیں ہے کہ ہم جس کا تفکر کریں اور اس کے بارے میں زندگی ہو جائیں۔

انسانی دماغ یہ تصور نہیں کر سکتا کہ وہ موت نہیں ہے۔ گا۔ دماغ کی ایسا موت کو بہت گھنٹا خیال کرتی ہے اور دماغ پر طاقت سے ہر سکن وہش کرتا ہے کہ آپ اس لمحے سے ٹھیج جائیں گی۔ اس کی زندگی کو جو ہر ہوئی ہوئی ہے۔ ہمارے اپنی کام کے موت سے وابستہ جو جذبی طور پر ہمارے لئے تکلف کا باعث ہے۔ اس لئے سماں کل قدر قدریات سے کہ ہم اس موضوع پر اکٹو

آپ ہر روز پر کوئی طریقے سے اور بھرپور اعتماد کے ساتھ خود کو تائیں کیا پہنچ دیا ارادے

ادفات بات کرنا پسند نہیں کرتے ہیں۔  
یغور گلکر، ہم جسمانی موت کے لئے نہیں کر رہے ہیں اور یقیناً ہمارا ارادہ اس بات پر افسردہ ہونے کا نہیں ہے بلکہ اس کے بالکل ختم ہے۔ اس غور گلکر کا مقصد ہے کہ آپ ہر چور پر طریقے سے جینا پسندیں، اپنے خوبیوں کو حقیقت میں برلنے کے موقع حلاش کریں۔ یہ سچ زندگی کے لیے ہے کہ کیسے اسے ہر پر انداز سے گزارا جائے۔

لی جو ہے آپ اپنے مقصد میں ہر دکامیاب ہوں گے لور یقیناً ایک دن ہر دکامیاب ہوں گے  
آج کے دن  
آپ اپنی زندگی میں ارادے کی طاقت پر فور کریں۔

155 دلت بحث خوشی 42 دنوب کا عملی کورس

پاشیں۔ اگر کسی چیز کا تجربہ کرتے ہیں تو اس سے سبق حاصل کریں۔ آپ کی فہرست میں صرف چیزیں اٹھیں کہ رہا ہی نہیں ہونا چاہیے۔ آپ کے تمام تجربے آپ کے لیے فائدہ مندار با مقصد ہونے چاہیں۔ آپ ارادہ کریں اور اپنی خواہش کے مطابق ان پر عمل کریں، اگر آپ عمل نہیں کریں تو آپ کو یہ دلسا بات پر افسوس رہے گا۔  
آپ کی زندگی کی کامیابی کا اندازہ آپ کی ادی اشیاء سے نہیں لگایا جاتا بلکہ اس بات سے لگایا جاتا ہے آپ کتنے اچھے انہیں اور آپ نے اپنے تجربے سے کیا سیکھا ہے۔  
آپ کو اس بات کا یقین ہونا چاہیے کہ آپ نے ہر چور زندگی گزاری ہے اور نہیں کامیابی حاصل کی ہے۔ ہمیں اپنی زندگیوں میں یہ چیزیں نہیں دیکھنی چاہیں کہ کس کے پاس بڑی گاڑی ہے یا کون سب سے زیادہ دولت مند ہے بلکہ میں نے یہ سمجھا ہے کہ ہمیں ہر پر انداز سے زندگی گزاری جائیے اور لوگوں سے محبت سے چیزیں آنچاہیے۔

### عمر سیدہ لوگوں سے سیکھا ہوا سبق

میں نے بہت سے عمر سیدہ لوگوں اور ان کے ساتھ کام کرنے والے لوگوں کی زندگی کا مطالعہ کیا ہے اور ان لوگوں سے مل کر مجھے اس بات کا اندازہ ہوا ہے کہ ان کی زندگیاں با مقصد ہیں۔ میں لوگوں کی زندگیوں سے حاصل کیے ہوئے سبق کے ذریعے ہی آپ کی سوچ بیمار کرنا چاہتا ہوں اور جانتا ہوں آپ، اس سے فائدہ اٹھائیں اور انی زندگیوں کو با مقصد بنائیں۔ ان عمر سیدہ لوگوں کی زندگیوں پر بہت سارے لوگوں نے تحقیق کی ہے اور اس بارے میں لکھا ہے ان تمام لوگوں کی تھنگیوں کو بھاٹھ شکر ہیں۔

عمر سیدہ لوگوں کی تھنگوں تحریک کرنا ہی انی زندگیوں سے کیا سبق سیکھا ہے۔  
پیار تھا اور خالص ہوتا ہے اور یہ بیش باقی رہتا ہے۔

جب ہم اپنے خوف کا سامنا کرتے ہیں تو وہ فُٹ ہو جاتا ہے لیکن جب ہم اپنے خوف کے بارے میں ہو سچے ہیں تو وہ ہر یہ بڑھ جاتا ہے۔  
زندگی صرف کام کرنے اور اپنی ارادت پروری ہونے کے لئے نہیں ہے بلکہ زندگی اجتماعی طریقے سے گزارنے کے لیے ہے۔  
ہم لوگوں کو وجہ میں نہیں کر سکتے لیکن ہم خود کو تبدیل کر سکتے ہیں۔

® SCANNED PDF By HAMEEDI

نالوں کیلئے ون اڑدوں کی  
لیکھ کر کیا  
کیا زندگی

157 دلت بحث خوشی 42 دنوب کا عملی کورس

### یاد رکھیں کہ

آپ جب اس دنیا سے جاتے ہیں تو آپ اپنی موت کا نہیں بلکہ اپنی طرز زندگی کا نہیں چھوڑ کر جاتے ہیں۔

### آج کے دن

آپ ارادہ کر لیں کہ آپ ہر لمحے کو ہر پر انداز سے جس سے اور دنیا میں اپنی طرز زندگی کا لفظ چھوڑ کر جائیں گے۔



® SCANNED PDF By HAMEEDI

نالوں کیلئے ون اڑدوں کی  
لیکھ کر کیا  
کیا زندگی

156 دلت بحث خوشی 42 دنوب کا عملی کورس

آپ جو کام کرنا پسند کرتے ہیں اسے کر لیتا چاہیے۔  
آپ کوچاہیے کہ خوشی سے مشروط نہ کریں۔

ہم نے اپنی ذات کو جس حصار میں بھروسہ کیا ہوا ہے؟ وہ خود ساخت، حصار ہے، الشتعالی اس کو نہیں دیکھتے اور نہیں ہمیں اس کا حکم دیا گیا ہے۔  
کسی کو معاف کرنے کا مطلب ہے کہ آپ اسے اس کے حال پر چھوڑ دیں۔

پیار اور خوف ایک ساتھ نہیں رہ سکتے۔  
ہر لمحے کو زندگی کا آخری لمحہ کر ہر چور طریقے سے گزاریں۔  
ہمیں زندگی میں کھلی کر اور سیر و ترقی کر کے گزاری چاہیے کیونکہ ہم یہاں بہت نیادہ عرصے کے لئے نہیں آئے بلکہ اچھا وقت زمانے کے لیے آئے ہیں۔

زندگی میں کوئی صورت حال بھی ہو، ہم اسے تبدیل نہیں کر سکتے، اگر ہم کسی بھی صورت حال کو تبدیل کرنے سے الاؤ کرتے ہیں تو وہ ہمیں اندر سے کوکھلا کر دیتی ہے اور ہماری طاقت اپنی طرف کھینچ لے گی۔  
آپ اپنی ماخی کو تبدیل نہیں کر سکتے لیکن مستقبل میں ابھی زندگی اور وہی

154 دلت بحث خوشی 42 دنوب کا عملی کورس

جب آپ اپنا دقت اور توجہ موجودہ لمحے پر مکوز ٹھیک گے تو آپ سے موت کا خوف دور ہو جائے گا۔  
خوف کا تصادم ہمت نہیں ہے، خوف کا تصادم پار ہے۔ ہم اس لیے زندگی نہیں ہیں کہ ہم موت کو ہو کر دے رہے ہیں بلکہ ہم اس لیے زندگی ہیں کہ ہم ہر پر انداز سے زندگی گزار رہے ہیں۔ پھر آپ اس پر بات پر کمل بیان ہونا چاہیے کہ آپ کی موجودہ جگہ اور لمحے پر ہے اور آپ اسی انداز میں زندگی گزار رہے ہیں۔ آپ اس بات پر یقین رکھیں کہ وقت زرنے کے ساتھ ساتھ آپ اپنے مقاصد میں کامیاب حاصل کرتے جائیں گے اور اپنے کاموں میں ہال مول نہیں کریں گے۔

### فکر کرنا چھوڑیں اور زندہ رہنا شروع کرو دیں

آپ ان نہیں کاموں پر توجہ مرکوز کریں جو کہ آپ اپنی زندگی میں کرنا چاہتے ہیں، وہ لوگ جو مستقبل کی تکڑی میں اور خوف سے زندگی گزار رہتے ہیں، وہ آج کے دن ترقی کے موقع سے فائدہ نہیں کر سکتے، فائدہ نہیں اٹھاتے اور دوسرے کا سامانہ کرنا پڑے اور نہیں اٹھاتے۔ ایسے لوگ پار کرنے سے ڈر لے ہیں کہ اسکے خوف سے کسی بھی موقع سے فائدہ نہیں اٹھاتے اور دوسرے کا سامانہ کرنا پڑے اور دوپر یہاں اور نہیں کامیابی کا مطالبہ نہیں کر سکتے۔ آپ اسی ذات کے حصار میں قید رہ جیں ہیں اور بہت حساس لوگ ہوئے ہیں۔ ان کی زندگی میں تبدیلی نہیں آتی۔ اپنی ذات کے حصار میں قید رہ جیں ہیں اس طرح سے بھری ہوتی ہیں جس نے فائدہ نہیں اٹھایا تھا۔

میرا نقطہ نظر یہ ہے کہ آپ جس جسمانی تجربے سے گزر رہے ہیں، اسے زندگی کہتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک روhani تجربہ بھی ہے جسے بہت کم لوگ دیکھ پاتے ہیں۔ آپ کی الگ روح ہے جو آپ کی ہستی سے ہو ہیشے آپ سے ساتھ ہے اور بہت آپ کے ساتھ رہے گی۔ آپ ایک روhani ہستی ہیں جو کہ دنیا دی تجربہ کر رہے ہیں جس میں بیداری اور موت میں گزرتے ہوئے وقت کا نقطہ نہیں ہے۔

آپ زندگی میں جو بھی کام کرنا چاہتے ہیں اور جو کچھ بھی حاصل کرنا چاہتے ہیں، ان سب کے بارے میں سوچیں اور ان کی ایک فہرست تیار کریں۔ یہ آپ کی خواہشات کے مطابق کافی ہے بھی ہو سکتے ہے لیکن اس میں نہ ازدین ہونا چاہیے کہ آپ اسے کوچھ حاصل کرتے ہیں، لوگوں میں

ONE  
SCAN  
®

نالہ  
کلیٹ  
ون  
اردو  
ل  
شکر  
کارڈ  
پتہ

نالہ  
کلیٹ  
ون  
اردو  
ل  
شکر  
کارڈ  
پتہ

سلوں حاصل رہنا آپ کے لیے انتیار میں ہے۔  
ہمیں خوش رہنے کے لیے پوچھو گئی جا چاہے، وہ ہمارے پاس موجود ہے۔

ہماری خوشی ہمارے اپنے انتیار میں ہے۔  
کوئی بھی سلسلہ یا صورت حال ایسی نہیں ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ تمہرے نہیں  
کر سکتے، یہ ہاتھ ہمارے لیے بھی اتنی عجیب ہے۔

تمام ثابت جنبات پیارے نہیں ہیں اور تمام حقیقی جنبات سے فرقہ سے نہیں ہیں۔

آج کے دن کے شیخ میں آپ کو بہت ساری ایسی باتیں ملی ہوں گی۔ جس پر آپ کو غور کرنا  
چاہیے۔ ان نظریات اور اقوال میں سے اگر کوئی بات آپ کو بہت اچھی اور اہم گلے تو اسے اچھی  
 طرح یاد کر لیں اور اپنی زندگی کا حصہ بنالیں۔

159

دولت، محنت، خوشی 42 دنوب کا عملی کورس

زندگی گزارنے کے انداز میں ثبت تجدید میان رونما ہوئی ہیں۔  
مگر آج کے دن آپ اپنی محنت کے بارے میں سوچتے اور غور کریں۔ ہم میں سے اکثر  
لوگ اپنی محنت کا خیال نہیں رکھتے اچھی کہ ایک دن آتا ہے کہ ہم اسے کھو دیتے ہیں اور ہر ہر ہمک  
کو شکر کر دلتے ہیں کہ اسے دوبارہ سے بہتر بنا سکتے۔ پھر یہ ملanch سے بہتر ہے۔ مجھے لفظ ہے  
کہ آپ اس طور سے واقع ہیں۔ یہ بات سو فائدہ درست ہے۔ پھر یہ میں سے ملanch سے بہتر ہے۔  
بہتر ہوتا ہے۔ ہمارے معاشرے میں جو محنت کی خرابی کی وجہ سے اپنی ہوئی ہے، ہم اپنی غذا پر تجدیدے  
کر باقاعدگی سے ورزش کر کے کافی جدوجہ ان سے بچ سکتے ہیں۔  
لیکن اگر آپ اس کے مطابق زندگی گزاریں گے تو اس سے آپ کی محنت اچھی ہوگی، آپ  
خوازی غذا کا کام کیں گے۔ اگر آپ کی محنت اچھی ہو تو آپ ہر کام خوشی کی طرف دیتے  
ہیں آپ کی واقعی محنت بھی اچھی ہوئی ہے جس کے شیخ میں آپ بہترین زندگی گزارتے ہیں اور  
اپنی زندگی سے لطف اٹھاتے ہیں۔ جو لوگ اپنے ارادے کے کے ہوتے ہیں اور جسمانی طور پر  
محنت ملنے ہوتے ہیں ایسے لوگ اچھی اور کامیاب زندگی گزارتے ہیں۔

### تکددست رہنا اپنی زندگی کی عادت بنالیں

جب آپ کامیابی کے ساتھ 42 دن کا چیلنج کمل کر لیں گے تو اس کا درمیں وہ مختلف طریقوں  
سے ہو سکتا ہے۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ بہت کامیاب اور نیا ایمان اڑان بن جائیں گے۔ آپ  
کامیاب حاصل کر لیں گے اور انہیں موگوں کی طرف رجوع کریں گے جنہیں نے آپ کو چیلنج  
کمل کرنے میں مدد کی تھی یا جنہوں نے موگیں کی تھی، آپ بخوبی ان لوگوں سے کہیں گے کہ آپ  
نے چیلنج کمل کر لیا ہے۔ آپ خود کامیاب اور بہت اچھا انسان ہو گئے۔ وہ درمیں یہ  
ہے کہ اگر آپ چیلنج کے مطابق صحیح طریقے سے کہیں کر لیں گے تو آپ میں آہستہ آہستہ پھر وہی  
پرانی عادات آجائیں گی۔ تین یا چار مہینوں بعد آپ بہر وہیں لائی جائیں گے جہاں سے آپ نے  
چیلنج شروع کیا تھا۔

اس کے پر عکس اگر آپ چیلنج کے مطابق صحیح طریقے سے کام کریں گے تو آپ بہت خوش  
ہوں گے کہ آپ نے اپنا کام کمل کر لیا ہے اور آپ اس چیلنج کا متفہم کر جائیں گے۔ اس کا مقصد  
یہ ہے کہ آپ خود پر قابو حاصل کر لیں اور اپنی پسندیدہ زندگی کا چاہا کریں کہ آپ کی زندگی  
گزارنی چاہیے ہیں اور بھر کام کے مطابق کام کریں ہا کہ آپ کامیاب حاصل کر سکتے۔ آپ کی

دولت، محنت، خوشی 42 دنوب کا عملی کورس

158

پانچ ماہ رفتہ  
تبیسوں و دن

### آپ کی محنت

"یہ آپ کا فرض ہے کہ آپ اپنی محنت کا خیال رکھیں وہ اپنے ذہن کو  
متوازن اور مضبوط رکھنا مشکل ہو جائے گا۔"

گوئی بدھ، بدھتے کتابی

ہمارے جسم کی نشوونما کرنے اور اسے سفارتے میں قدرت نے 240 ملین سال خرچ کیے  
ہیں۔ ہمارا جسم کا نبات کی سب سے بہتر اور جیبہ میں ہے۔ یہ ایک مضبوط، پلک دار اور زیادہ  
عرج سے بچے والی میں ہے۔ اس میں بھتی سے ابھرے کی اور کی حد تک خود سے شفا پانے اور  
تکددست ہونے کی صلاحیت موجود ہے۔ لیکن اگر ہم اس کا خیال نہیں رکھتے اور اس کا چیخ استعمال  
نہیں کرتے تو یہاں پر ڈین اپنی کی مدت سے پہلے ہی ختم ہو جاتا ہے۔

دراز جو اور آپ کی محنت اچھی ہو تو آپ کو چاہیے کہ آپ متوازن غذا کا میں اور باقاعدگی سے  
ورزش کریں۔

آپ اب اس چیلنج کے آخری پچھلے حصے میں بچتے گے ہیں، آپ شاید یہ چاہتے ہوں گے  
کہ آپ معلوم سے ہٹ کر کھانا کھائیں یا یونکھا آپ اپنے کو منہ سے آپ وہ کھانا چاہتے ہیں۔ اس چیلنج  
کی بڑی وجہ یہ ہے کہ آپ اس بارے میں غور کریں کہ ہمیں اپنی زندگیوں میں ہر بات میں تو ازان  
کی ضرورت ہے۔ آپ کے لیے یہ بہت جرأت مند اس کام ہو گا کہ آپ اپنی یقیناً زندگی وقت مقررہ  
کے مطابق گزاریں۔ یہ نظام الاوقات بظاہر غور ہو گئے ہوں گے، آپ اب

محض اس بات کا پورا لفظ ہے کہ آپ اب پہلے سے زیادہ مستعد ہو گئے ہوں گے۔ یقیناً آپ کے گھر  
پہلے سے بہتر غذا کھاتے ہوں گے اور آپ کا وزن بھی پہلے سے کم ہو گیا ہو گا۔ یقیناً آپ کے گھر  
والے اور دوست آپ میں تبدیلی ہوں گے۔ آپ کی گھنٹوں کے انداز، سوچنے اور

161

دولت، محنت، خوشی 42 دنوب کا عملی کورس

محنت کے لیے بھی اتنی عی درست ہے۔  
آپ کوئی بھی پوچھی یا تصورات کی میں کریں تو یہ بھی آپ کے ذہن کو تحریک دیں گی اور  
آپ کی واقعی محنت کو مردی بہتر کریں گی۔ بروفت غیر ضروری کتابیں اور ایسا ادب نہیں دیں جس  
سے آپ کوئی فائدہ نہیں پہنچ سکتا۔ سبیں آموز کتابیں پڑھیں، خوشنود اور مزاجی فلمس دیں جسیں۔  
ایسے کوئی کریں جن سے آپ بہت کچھ کچھ سکتے اور ایسے لوگوں سے ملیں اور لفٹو کریں  
جن سے آپ کی معلومات میں اضافہ ہو، آپ کو بہت کچھ کچھ کوٹے۔

### روحانی ورزش کو بھی نظر انداز نہ کریں

آپ کی روحانی محنت بھی بہت اہم ہے: آپ کافہ جب اور عقیدہ جو ہی ہے۔ آپ روزانہ  
انجائی گن کے ساتھ عمادت کریں۔ چاہے آپ دنیا نہیں مدت کی ریاست کریں یا پا ہر آپ دن  
انجائی گن کے ساتھ عمادت کریں۔ چاہے آپ دنیا نہیں مدت کی ریاست کریں یا پا ہر آپ دن  
آنچہ کہ کام کو ترجیح دھا ہوں۔ میں ہر سال ایک یاد دشکل جسمانی پروفیشنل کرتا ہوں اور ان پر کل کریں۔

دولت، محنت، خوشی 42 دنوب کا عملی کورس

160

جسمانی محنت آپ کی کامیابی کے لیے بہت زیادہ اہم ہے۔ اگر آپ کی محنت اچھی ہو گی تو پھر یہ  
آپ کی کام کی کارکردگی بہتر ہو گی۔ آپ کی محنت 42 دن کے چیلنج کی بیان ہے۔

آپ کا جسم آپ کو صرف ایک دفعہ ہی ملتا ہے۔ اس کی حفاظت کریں

ایک پرانی کہاadt ہے کہ استعمال کریں یا کھو دیں۔ جب اس کہاadt کو جسمانی طور پر  
دیکھیں تو اس کی چاہی معلوم ہوتی ہے۔ میں آپ کو جاہے کہ ورزش کرنے کی عادت ڈالیں۔ آپ  
کوچاہیے کہ آپ کام کرنے کے موافق حاشا کریں۔ میں اگر کہیں سفر رہا ہو تو اس کی ہوں  
میں انہر ہوں اور وہاں کریں اور وہاں میں 40 میٹر کی میڈل فری کے لیے چلا  
جاتا ہوں۔ مگر میں اپنے کریں میں وہیں آتا ہوں تو پھر میں کچھ اپنے بیٹھ اور ڈالیں  
ہوں۔ میں بری زندگی کی بجاۓ میں جو میں آتے ہوں جانے کو ترجیح دھا ہوں۔ میں بھی جسمانی  
کام کو ترجیح دھا ہوں۔ میں ہر سال ایک یاد دشکل جسمانی پروفیشنل کرتا ہوں اور ان پر کل کریں۔

کس میں دفعہ پدرہ منٹی میں جادوت نہ رہے یہ، بیتے تا پ و سب سے میں اپ دیوب  
روزانہ کرتا ہے، لوگوں سے غیر شرطی پایا کریں۔ لوگوں سے کلڈ سے اور بیٹے لوث پار  
کریں۔ روزانہ احمدی اور خیرات کامل کریں۔ اس سے آپ کی روحانی ورزش ہوگی۔  
اگر آپ اپنی صحت کو بہتر کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے آپ کو جسمانی، ذہنی اور روحانی  
صحت پر توجہ دیں، لوگوں اور خود کو بہتر بنانے کے لیے بہت سرگرمیں میں صروف رہنا ہوگا۔  
پس اپنی ذہنی جسمانی اور روحانی صحت کو برقرار رکھنے کے لیے آپ کو روزانہ ورزش اور  
خیرات کرنی چاہیے، لوگوں کے کام اٹا جائیے اور انہیں خدا پر توجہ دی جائیے تاکہ آپ کی کارکردگی  
میں اختلاف ہو جائے۔

### یاد رکھیں کہ

ہر وقت اپنی صحت کو برقرار رکھنے کی ہر چیز کوشش کریں اور آپ کو قائم زندگی اس کا فائدہ  
پہنچتا رہے گا۔

### آج کے دن

اپنی جسمانی، ذہنی اور روحانی صحت کے بارے میں سوچیں۔

® SCANNED PDF B.

ہوں۔ ان میں طویل چھل قدمی، پہاڑوں پر چڑھنا، جیرا جن میں حصہ لیں، ان جسی کوئی بھی ہم  
شامل ہوتی ہے۔ میں نے یہ بات دریافت کی ہے کہ آگر آپ جسمانی طور پر اتنا جاتا ہے میں تو  
اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ کوئی ہوپ میخین کریں جس کا مقدمہ ورزش کرنا ہو۔ میں بھاگنے  
کے لیے ورزش کرنے کے لیے جاتا ہوں، اس لیے کہ میں جاتا ہوں کہ تن سے جو میئے ورزش  
کرنے سے انسان جسمانی طور پر اتنا ہو جاتا ہے اور پھر مجھے کسی بھی جسمانی چیز کا سامنا ہو،  
ورزش میرے کام آتی ہے۔ صحت مدد رہنے کے لیے ہمیں کوئی صحت افراد مقدمہ بناتا چاہیے۔ مثلاً  
ورزش کرنا اور چل قدمی، بتا کہ آپ کی صحت برقرار رکھنے کے لیے اس لیے آپ کی حوصلہ افزائی کرنا  
ہوں کہ آپ جسمانی صحت کے لیے کوئی ہدف تقریباً اور سارا سال اس پر عمل کریں۔

اپنے ذہن کو تحریک دیں تاکہ آپ کے ذہن کی کارکردگی میزیدہ بہتر ہو جائے  
اپنی جسمانی صحت کے ساتھ ساتھ اپنی ذہنی صحت پر بھی فور کریں۔ یہاں پر میں ان لوگوں  
کے بارے میں ہاتھ نہ کر رہا جو ذہنی طور پر پیار ہوں۔ ان کا سماں تھوڑا اتفاق ہے ایسے لوگوں  
کوڑا اکٹھا یا باہر نیکیات سے علاج کروانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ ذہنی صحت کا مطلب ہے کہ  
آپ اپنے ذہن کو استعمال کر کے اس کی کارکردگی پر حاصلیں اور ذہنی صلاحیتوں کو بخوبی پر طریقے  
کے استعمال میں لا لیں۔ جسمانی صحت کے ساتھ ساتھ یہ کہاواستہ کیا کہاواستہ کریں یا کھویں، یہ ذہنی

### دولت، صحت، خوشی 42 دنون کا عملی کورس

لوگوں سے مدد حاصل کریں تاکہ آپ اپنے مقدمہ میں کامیاب ہو سکیں۔ میں لوگوں سے صحت لیتا  
رہتا ہوں، لوگوں سے معلومات حاصل کرتا ہوں اور جب بھی مجھے مدکی ضرورت ہوئی ہے تو میں  
کی فحص سے کہتا ہوں اور اگر وہ فحص خود مجھے کچھ نہیں بتا سکتا تو وہ کسی ایسے فحص کے بارے میں  
مجھے بتا دیتا ہے جو بھرپور کارکرداشت ہو۔

### ہمیشہ زندگی کے طالب علم بن کر رہیں اور زندگی سے کچھ نہ کچھ سیکھنے رہیں

اپنے آپ کو ہمیشہ ایک طالب علم بھیں جو کہ ہمیشہ کوشش کرتا ہے، سوال پوچھتا ہے اور  
سچھتا رہتا ہے۔ کمی کی سکھنا چاہوڑیں۔ جب کوئی فحص آپ کو مدد کے لیے کہی گئی تو وہ  
انچھوئیں بلکہ اس کی مدد کریں۔ میری بہترین قابلیت یہ ہے کہ میں ہر فحص کی ای میں جو جواب دیتا  
ہوں اور جب لوگ مجھے کسی بھی حتم کے شروعے یا صحت کے لیے بلاتے ہیں تو میں پوری کوشش  
کرتا ہوں کہ میں ان کے ساتھ وقت گزار سکوں۔ اگر ایسا ممکن نہ ہو سکے تو میں ان کے ساتھ  
ٹیکلی فون پر بات کر لیتا ہوں۔

آپ اپنے چھوٹے چھوٹے کاموں سے دوسرے لوگوں کی زندگیوں پر بہت سمجھا اثر مرتب  
کر سکتے ہیں۔ آپ کے رویے کوڑا مانی نہیں ہوتا جا یہے اور دسہی آپ کو اخبار کے پہلے صفحے کا  
انشہار بننا چاہیے لیکن آپ کو ہمیشہ دوسرے فحص کی مدد کا ارادہ کرتا جا یہے اور اسی نیت سے اپنے  
اگر کو لوگوں کے کام آتا چاہیے۔

آخر ایسا ہوتا ہے کہ ہم اپنے بارے میں سوچتے ہیں کہ میں نے کیا غالباً کام کیے ہیں یا یہ کر  
میں کیا کام نہیں کر لکتا۔ اتنا کافی ہے کہ ہم اس طرح سے ان بیزوں سے واقعہ ہو جاتے ہیں۔  
اپنی زندگی کی حدود سے واقعہ ہو جاتے ہیں کہ ہمیں کیا کام کرتا جا یہے اور کیا کام نہیں کرنا  
چاہیے۔ اپ ان سب بیزوں کو ایک منفرد مسئلہ مسئلہ دیکھتے ہیں۔ جب آپ کوئی ٹھلٹی کر پکے  
ہوں یا کسی موقع سے فائدہ نہیں اٹھاتے تو آپ کوچا یہے کہ آپ ان باتوں کی سمجھاتے ان کاموں پر  
تجھے مرکوز کریں جو کہ آپ کر سکتے ہیں۔ یہ ایک پرانی کہاواستہ ہے کہ "اس شاخ کی طرف  
چاہیے، جہاں پر پھول لگا ہوا ہے" ہم میں سے کئوں لوگ آرام دہ جگہ پر زندگی گزارتا پنڈتے ہیں  
کوئی مشکل کام نہیں کرتے کیونکہ اس طرح سے ہم اپنے آپ کو حفظ تصور کرتے ہیں۔ میں

### دولت، صحت، خوشی 42 دنون کا عملی کورس

پانچ ماہ بفت  
پیشہسوال دن

® SCANNED PDF By HAMEEDI  
ناول کیلئے ون اردو کے فمک کیارڈ ۳

### بہتر موقع تک رسائی حاصل کیجئے

"ہم جو درس دیں کو فیض یاد کرتے ہیں تو ای میں میں ایسے موقع  
موجود ہوتے ہیں جن سے ہمیں کوئی فون اور حاصل ہو جاتے ہیں۔"  
سینٹ فرانس آف اسٹنی (1182ء)

آپ کوچھ کھل کرنے میں کچھ کھل کر دیوار کرائیں۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ جتنی فرم  
کرنے کے ساتھ ساتھ درسی طرف بھی فور کریں۔ اپنے مستقبل کی طرف دیکھیں اور اپنے مقدمہ  
کے لیے عمل کریں۔ آپ اپنے سابق مقام سے برا احمد بنا گئیں۔ اپنے تصور سے زیادہ بڑے  
خواب دیکھیں۔ اپنی زندگی کے کیوں کی طرف دیکھیں جو کہ آپ کے سامنے ہے اور ان تمام نادر  
اوخری صورت پیزوں کے بارے میں سوچیں اور ارادہ کریں جن سے آپ اپنی زندگی کے کیوں کو  
نکالتا چاہتے ہیں۔ ایسا کرنے سے آپ دوسرے لوگوں کی زندگیوں میں جبی جبی بہت تبدیلیاں لا لیں  
گے۔

آپ زندگی میں جو کام بھی کرتے ہیں، اس کا ثابت یا حقیقی تجھ لٹا ہے جو کہ آپ کے  
ارادے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اگر آپ اپنے ارادے کے مطابق عمل کرتے ہیں تو اس کا تجھ یہ ہے  
ثبت ہو لتا ہے۔

محضے پر ایعنی ہے کہ اب آپ نے اپنی ذات سے متعلق نظری تبدیل کر لیا ہو گا اور اس سے  
زیادہ اہم باتیں ہے کہ اب آپ کو اپنی طاقت پر بہت زیادہ بھروسہ ہو گیا ہے کہ آپ جوچا ہے  
یہیں اسے آسانی سے حاصل کر سکتے ہیں۔ اب میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ جزیدہ آگے  
بڑھیں، دوسرے لوگوں تک رسائی حاصل کریں اور آپ کو جب بھی کسی حکم کی مدد کی ضرورت ہو تو

### دولت، صحت، خوشی 42 دنون کا عملی کورس

اندر سچا یہاں پیدا کرنا ہو گا۔ یہاں اس قابلیت کو کہتے ہیں کہ آپ اس پیور لین کریں جس کو  
آپ نے انگھوں سے خوبی دیکھا ہے۔ آپ کو اس بات پر لین کرنا چاہیے کہ آپ کے کاموں کا  
ثبت تجویز لئے گا۔ ہر کام بہت اچھے طریقے سے انجام پائے گا اور اگر آپ کو کسی خوف ہوگا  
تو آپ اس پر قابو پائیں گے۔

### دولت، صحت، خوشی 42 دنون کا عملی کورس

جاتا ہوں کہ آپ سب نے اپنے آپ کا پسے سالی ذاتی حصار سے باہر کلاہے اور آپ اپنے  
مقدمہ کے حوصل کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں، یہ کچھ مشکل کام گی ہے، آپ پہلے سے آسودہ  
حال ہیں اور کمی کی بھاری پیچائے ہیں کہ آپ نے کام کر لیا ہے اب آپ کو اپنی جاتا چاہیے۔

ہمیشہ کوئی کام کرنے کے موقع کی تلاش میں رہیں

### چاپائیوں سے اتفاقی ملاقات

2004ء میں دہمتوں کے لیے تختین کے لیے جاپان گیا۔ یہ ایک ایسا نک ہے جہاں جانے کا بھی بیشتر سے شوق تھا۔ میں اپنا سامان لے کر اکیلا ہی جاپان گیا تھا۔ میں (ناگاسکی) (Nagasaki) دیکھنے کے لیے گیا تھا جہاں وسری بیک عظم میں ایتم ہم گرایا گیا تھا۔ میں دو دن اس تجھے میں پھر تراہ اور مختلف خانقاہوں اور عبادت گاہوں کو دیکھنے کے لیے گیا تھا۔ میں یہاں چالا چالا ایک گھاٹ میں اڑ گیا تھا۔ وہ ایک خوبصورت قصبه تھا کچھ مقامات وہاں کے دیکھنے کے قابل تھے، وہ ایک تاریخی تسبیح تھا لیکن وہاں پر زیادہ تر کارخانے تھے۔ میں وہاں جا کر ایک ریستوران میں بیٹھ گیا تھا۔ میں آپ نو ڈالر (سویں) کھلائے تھے۔ ایسا یہ خور دوش کی فہرست پر تصویریں میں ہوئی تھیں کیونکہ میں جاپانی زبان نہیں بول سکتا تھا اس لیے میں نے فہرست پر اشارے سے ہیرے کے تھے جہاں پر ایک گھاٹ ہے۔ دوسرے دن جب میں سیر کر کے وہاں اپنے جاپانی ہوٹ میں آرہا تھا، اس علاقے میں رات گیارہ بجے کفر ہوا گام ادا تھا، میں نے وہاں قریب ہی ایک چھوٹا سارا ریستوران دیکھا۔ جھکے میں معلوم تھا کہ وہاں بھی بھکن پاسوں میں سے کس جانور کے کوشت کے فروخت تھے۔ میں نے پورہ اندازیا اور اندر چلا گیا وہ بہت چھوٹا سارا ریستوران تھا۔ جب میں اندر داٹل ہوا تو ایک بچا سال کی خاتون میز پر بھیج دیکھ کر مکرائی اور کچھ حیران ہوئی تھی اور میرے کے بچپن کے کھڑا بادر ہی بھی مجھے

اوّل کیلیٹے ون اردو کے شکر گزار ۳

میں چاہتا ہوں کہ آپ ایک طویل بن جائیں، آپ ان کا مولیٰ ٹھاٹ میں رہیں جاؤ۔ آپ واقعی کرتا چاہتے ہیں اس سے قطع نظر کردہ کام و مروں کو کئے ہی احتشامیوں نہ لگتے ہوں۔ ان تمام کاموں کی ایمیٹ اس لیے ہے کہ آپ انہیں کرنا چاہتے ہیں، لیکن آپ کو ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ اپنے آرام کے حصار سے باہر ٹکل آئیں میں اپنے تصویرات کی حدود کو پہنچ لائیں اور ہر کام کو کرنے کا 100 فیصد رارہ کر لیں جاؤ۔ آپ کرنا چاہتے ہیں۔

جب آپ اپنی سابقہ زندگی کے حصار سے باہر ٹکل کر پہلا قدم اٹھائیں گے تو ساری کائنات آپ کو اپنی ساتھی معلوم ہو گی اور آپ کو باقی کے قدم اٹھانا سکھائے گی

چھپلے پانچ بھتوں میں آپ نے اپنا صورب دل ڈالا ہے، اب آپ اپنے بارے میں حیرید شہت سوچتے ہیں اور اپنی صلاحیتوں سے دافع ہو گئے ہیں۔ اب آپ کے کاموں کی کوئی حدود قریب نہیں ہیں، آپ کوئی کام بھی چاہیں تو اسے کر سکتے ہیں۔ یہ ایک غنی دنیا ہے جہاں پر آپ کے لیے بہت سے مواقع موجود ہیں۔ یہ بہت آسان کام ہے کہ آپ ایک روکے انسان بن جائیں اور چھپلے پانچ بھتوں کے تمام چند باتیں اور ادوات کو نظر انداز کر دیں کہ وہ صرف الفاظ ہیں جن کا اطلاق آپ اپنی آنکھی زندگی میں نہیں کرنا چاہتے، لیکن آگر آپ بھر پر محنت، اعتماد، یقین اور ثابت رویے کے ساتھ چھپلے پانچ بھتوں کے معمول پر عمل کریں گے تو آپ کو واضح فرق محسوس ہو گا۔ اگر آپ اپنی زندگی تبدیل کرنا چاہتے ہیں، میں موقع ٹھاٹ کرنا چاہتے ہیں اور ہر میدان میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو آپ کو اپنے تقدیرے کے بہت زیادہ مضبوط کرنا ہو گا۔ آپ کو اپنے

کھانے کا آرڈر لیا چاہے۔ میں اس لئے اپنے آرام دہ حصار سے باہر نہیں لکھا چاہتا تھا، لیکن پھر بھی مجھے وہاں پر جانا تھا۔ میں صرف اس لیے وہاں جا رہا تھا کہ میں آئے کا کہہ چاہتا تھا میں نے یہ فصلہ کیا تھا کہ میں وہاں صرف میں منٹ کے لیے یعنی جاؤں گا اور پھر واہیں آ جاؤں گا۔ جب میں وہاں داخل ہوا تو وہ لوگ مجھے دیکھ کر اس طرح خوش ہوئے ہیے کہ کئی شخص اپنے بچوں کے دوست کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے۔ جب میں وہاں جا کر بیٹھا تو انہوں نے میرے لیے شراب کی بوالی کھوی اور ساتھ میں مجھے گلاس دیا۔ انہوں نے میرے کے بغیر ہمیشہ میری تواضع شروع کر دی تھی۔

وہاں میر پریمر سے ساتھ ایک غص پیٹھا ہوا تھا، وہ بھری طرف متوجہ ہوا در اس نے سچی انگریزی زبان میں مجھے سے پوچھا کہ میں کہاں سے آیا ہوں؟ پھر میں اسے جو کچھ بھی سچا تھا وہ اس کا جاپانی زبان میں ترجمہ کر کے ساتھ ساتھ اپنے ساتھیوں کو بتاتا جاتا تھا۔ میں اس وقت بہت سبب محسوس کر رہا تھا۔ ہم لوگوں نے ایک دوسرے کی تصادم اور اتریں تھیں، ایک دوسرے کو کارڈ دیتے تھے اور بہت اچھا وقت گزارا تھا۔ میں نے انہیں بتایا تھا کہ میں اُن لوگوں سے دوبارہ ملے جاؤں گا اور ایک دن میں واقعی ایسا کروں گا۔ ہم لوگوں نے اپنی زندگوں کے بارے میں کچھ باتیں کیں اور اس ملاقات سے وابستہ بہت خوشیوں پر باریں ہیں، ہم نے مختلف زبانوں اور مختلف تہذیب ہونے کے باوجود بھی ایک دوسرے کے ساتھ ودھی کا مضبوط رشد استوار کر لیا تھا۔ آپ کو زندگی کے رقص میں شامل ہونا چاہیے، میں قدم اٹھانے میں اور میئے تجویزات کرنے میں جب آپ ایک دفعہ اس رقص میں شامل ہو جائیں گے پھر آپ خود ہی نئے اقسام سکھیں گے جب آپ اپنی زندگی میں آئے گے بڑھتے ہیں اور انہا پہلا قدم اٹھاتے ہیں تو تمام کائنات آپ کی ساتھی بن جاتی ہے اور آپ کو باقی کے

ناول کیلیٹے ون اردو کے شکر گزار ۳

وکی کر سکریا تھا۔ انہوں نے مجھے جاپانی زبان میں لکھی ہوئی اشیاء خور دوش کی فہرست دی۔ جس کے اوپر کوئی صوری بھی نہیں تھی ہوئی تھی کہ میں انہیں اشارے سے ہی بتا دیا کہ مجھے کیا کھاتا ہے۔ یہ ایسا لمحہ تھا کہ کوئی بھی انسان بے ہمیں ہو سکتا ہے اور میں مجھی یقیناً تو میں میں جلا ہو گیا تھا۔ پھر میں نے اُن سے شراب مانگی جو کہ میں جانتا تھا کہ کیسے اشارے سے مانگی جاتی ہے۔ وہ مجھے سے اشارے کے ساتھ سوالات پوچھ رہے تھے کہ میں کیا کھانا چاہتا ہوں۔ میں نے دوسرے لوگوں کی رکابی کی طرف اشارہ کر کے بتایا کہ میں کیا کھانا چاہتا ہوں۔ پھر میرے ساتھ بھی ہوئی خاتون نے مجھے اپنی رکابی میں سے کھانا دیا کہ میں اسے کھا کر دیکھوں۔ وہ ایک سندھری چھلکی کا گوشت تھا جس کا ذائقہ بہت اچھا تھا۔ میں اگلے دو گھنٹوں تک اس ریستوران میں بیٹھا رہا گوں کے ساتھ مکرہ بھٹ کے ذریعے باشیں کرتا رہا جو کہ کچھ احتقام مضمون ہو رہا تھا۔ وہاں کا کھانا بہت اچھا تھا اور ان لوگوں کے ساتھ ودھت گزارنا مجھے بہت اچھا تھا۔ وہ لوگ دنیا کا قائمہ میرے پاس لے کر آئے تھے اور میں نے ان کو نئے پر نئے ہی کر کے بتایا کہ میں کس ملک سے آیا ہوں۔ میرے پاس ایک چھوٹی سی کتاب تھی جس پر کچھ جملے درج تھے۔ میں نے اس کتاب کے ذریعے انہیں بتایا کہ کھانا بہت اچھا تھا اور میں اگلے دن دوبارہ آؤں گا۔

اگلے دن میں نے ناگاسکی (Nagasaki) میں پھر کر دوت گزار اور والیں اپنے ہوٹ چلا گیا، وہاں جا کر مجھے زیادہ بھوک تو نہیں گئی ہوئی لیکن مجھے پھر بھی اس ریستوران میں دوبارہ جانا چاہیے کیونکہ میں ان لوگوں سے کہہ ریا تھا کہ میں کل دوبارہ جانا چاہیے۔ میں نے اس بات سے واقع تھا کہ میں اس بات کا علم ہے کہ کس طرح ان کی زبان بلوٹی آتی ہے اور نہیں مجھے اس بات کا علم ہے کہ کس طرح

### یادِ صلیل کہ

جب تک ام اپنی ذات کے حصار سے باہر نہیں نکلتے، اپنے خیالات کو وسعتِ نہیں دیتے  
تھے تک ام آگئے گئے بڑھ کتے اور اگر آپ آگے بڑھنا چاہتے ہیں تو اپنے خیالات کو عالم میں  
تبدیل کریں۔

### آج کے دن

اگر کوئی شخص آپ کو عالم کے لیے کہے یا آپ کو کسی حرم کے قوانین کے لیے کہہ تو آپ  
بے تلفی سے اور حمدی کے جذبے کے ساتھ اس کی مدد کریں۔



نالوں کیلئے ون اردو کی تحریر گزار پیٹی

اگرچہ میں جانتا ہوں کہ آپ اس بات سے واقف ہیں کہ آپ ہمچلی کام کرتے ہیں اس کا  
نتیجہ ضرور لکھتا ہے۔ اچھا کام ہو تو اچھی صورت میں اور اگر کام ہو تو نیچہ بری صورت میں ہی لکھتا  
ہے۔ میں جانتا ہوں کہ آج آپ اس بارے میں سوچتیں کہ آپ کو اپنی ذات کے آرام دہ حصار  
سے باہر لکھتا ہے۔ اپنے آپ کو ایک اوسط درجے کا انداز دھنائیں بلکہ خود کو بلندی پر لے  
جائیں۔ ہر کام میں دوسرے لوگوں سے بہتر کارکردگی دکھائیں۔ آپ ایک عام سے انسان د  
ہیں، زندگی ایک نہ ہے، آپ کی عمر بقیتی ہی ہے، آپ جس صورت حال سے دمی دوچار ہیں یا آپ کا  
ماخوذ جیسا بھی ہے آپ اس کی پرواز کریں۔ ان چیزوں سے لوگ فرق نہیں پڑتا، ہمارے پاس  
ہیں چاہے صرف اپنا روزی ہی تبدیل کریں کیونکہ ہمارا روزی بھی بعض اوقات ہماری کامیابی کی راہ  
میں رکاوٹ بن جاتا ہے۔

آپ ایسے بہت سے لوگوں کو جانتے ہوں گے جو کسی مجرم کے انفارمین پیش رہتے  
ہیں کہ کوئی جرم ایگزیز اور حرمہ اور اُن کے خوب تھیت میں تبدیل ہو جائیں۔ ایسے لوگ  
اپنے خوبیوں کو تھیت میں بدلنے کے لیے کوئی کوشش نہیں کرتے اور اس طرح سے ان کی عمر  
بڑھتی جاتی ہے۔ وہ لوگ اپنی نوجوانی سے درمیانی عمر میں بڑھ جاتے ہیں اور بالآخر بڑھ میں  
ہو جاتے ہیں اور بھر بھی وہ بھی کچھ ہیں کہ ابھی زیادہ درجیں ہوئی ہے وہ جب بھی اسی بات کا  
انفارمین کرتے رہتے ہیں اُن کے خواب ایک دن تھیت میں بدل جائیں گے۔ وہ ان کو تھیت  
میں تبدیل کرنے کے لیے چند جگہ تک گئے اسی تھیت میں تبدیل ہوتے ہیں۔ لہٰ آپ  
وقت شائعہ کریں، اپنی زندگی کو اتنا غیر اہم نہ کھین۔ ہمیں اگر پختہ یقین ہو اور ہم جو اس  
کریں تو یقیناً ہم ستاروں تک پہنچ جائیں گے۔ لیکن کوئی بھی خواہ ہو یا آپ کا کوئی بھی خواب  
ہو، جب تک آپ اس کے لیے کوشش نہیں کریں گے جب تک آپ اس تھیت میں نہیں تبدیل  
کر سکتے۔ آپ یہ بات یاد رکھیں کہ اگر آپ کا یقین کامل ہو تو آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں، یقیناً  
آپ کامیاب ہو جائیں گے۔

دولت، محنت، خوشی 42 دنیوں کا عملی کوروس

بنا تھے۔ آپ ایک نیا سفر شروع کر رہے ہیں اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ اس سفر کو تمام زندگی  
جاری رکھیں گے اور آپ خود کو ایک باہم انسان سمجھتے ہیں جس میں ہماری کام سامنا کرنے کی  
ہست موجود ہے اور وہ جب بھی گرتا ہے اور ہر رغہ ہمت کر کے دوبارہ سے کھڑا ہو جاتا ہے۔  
میں جانتا ہوں کہ آپ خود کو ہبہ باہم انسان سمجھیں جس میں بہت ساری خوبیاں موجود  
ہیں اور جو بچھتے 38 دنوں سے ہست کر رہا ہے اور خود کو تبدیل کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ آپ بچھتے  
سائز میں پانچ ہفتے سے اپنے آرام دہ حصار سے باہر نکل کر کامیابی کا سفر طے کر رہے ہیں۔

### ہست صرف ایک بہارانہ فصل ہی نہیں ہے

میرے نزدیک ہست صرف ایک بہارانہ فصل ہی نہیں ہے جس کی آپ تعریف کر دیتے  
ہیں، ہست سے مراد اس بات کو تخلیم کرنا ہے کہ آپ ناکامی کا سامنا کر سکتے ہیں لیکن آپ نے  
ہست نہیں ہماری اور دوبارہ کوئی کوشش کرنی ہے۔ اس کا فیصلہ کن تجویز ہے اپنے کریں گے تو ہم کوچھ  
بھی سیکھنی پائیں گے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ کچھ جانے کی کوشش ہی نہیں کرتے لیکن  
ہم بھی وہ مطمئن ہوتے ہیں۔ ان کے پاس اپنے خوبیوں کو تھیت میں تبدیل نہ کرنے کے بہت  
سادے ہمانے موجود ہوتے ہیں کیونکہ ان کے نزدیک ہماری کامیابی ہست تکلیف دہ پیچ ہوتی ہے اور  
ہماری کامیابی اس پر ہست رہی طرح ہوتا ہے۔ اس لیے وہ کبھی بھی کام کرنے کی کوشش ہی نہیں  
کرتے۔ میں آپ کے بارے میں کچھ نہیں کر سکتا لیکن میں اپنے بارے میں جانتا ہوں کہ میں گی  
ہاشمی میں کام کرنے کے لیے بھی وہ مدت رہتا تھا کوئی بھی کام خصوصی کے مطابق نہیں کرتا  
تھا، ہر کام کے لیے بھی وہ قوت کی طاقت میں رہتا تھا اور کبھی بھی کوئی کام کرنے کا ارادہ نہیں کرتا تھا۔  
میں جو کام کر رہا ہو تھا اسی کے بارے میں بات کرنا تھا اور اپنے مقاصد کے حصول کے لیے  
کوئی عمل نہیں کرتا تھا۔ بیکھ کام سے کرنے کی دلیل چیز کرتا تھا اس اور کسی حرم کی ذمہ داری قول  
نہیں کرتا تھا۔ حق تر ہے کہ میں ہیئت کام کی سے خوفزدہ رہتا تھا۔

اگر آپ ہست کر کے اپنی ذات کے حصار سے باہر نکلیں گے تو اس سے آپ کی خود اعتمادی  
میں اضافہ ہو گا اور آپ ترقی کے کمی موقع کیچھیں گے جو آپ نے آج سے پہلے بھی نہیں دیکھے  
تھے۔

جب میں سلطان کے مرض میں جلا ہوا تھا تو اس کے بعد مجھے اس بات کا احساس ہوا تھا کہ

دولت، محنت، خوشی 42 دنیوں کا عملی کوروس

170

پانچ ماہ ہفتہ  
چوتھی سو ماہ دن

### جرأت و ہمت

”ہمت و جرأۃ اور مستقل مزاہی و استقلال ایک ایسا باروں کی توزیع ہے کہ  
جس کے باعث ہر مشکل اور رکاوٹ ہو اسی اڑاکنی ہے۔“

..... جان کوئی ایڈیٹر مزاح کی صدر (عبد حیات: 1767-1848)

آج میں یہ جانتا ہوں کہ آپ ہست اور جرأۃ کے بارے میں سوچتیں، خاص طور پر آپ  
اپنی ہست کے بارے میں سوچتیں۔ آپ کو یہ جنچ شروع کیے ہوئے کافی دن اگرچہ ہیں۔ جب  
آپ نے یہ جنچ شروع کیا ہو گا تو آپ غیر یقینی صورت حال سے دوچار ہوں گے کہ آپ اس جنچ میں  
ہمیں سامنا کرنا پڑے خواہ وہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو آپ اسے ضرور توجہ کریں۔ ہمیں اپنی کامیابی کے  
راستے میں ہست کرنے اور سماں کی کاظمیہ مول لینے کی ضرورت ہے۔

آپ اگر اپنے سفر میں گر جاتے ہیں تو دوبارہ سے کھڑے ہو جاتے ہیں، یہ  
کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے

اس موضع کے شروع میں جو عبارت دی گئی ہے وہ ہست اور مستقل مزاہی کے بارے میں  
ہے۔ بھی دیچنیں ہیں کہ جن پر عمل کر کے ہم اپنی زندگی ہست اسی سے تبدیل کر سکتے ہیں۔  
آپ میں ہست کوئی چاہیے کہ آپ ناکامی کا خطرہ مول میں اور آپ میں یہ قابلیت ہوئی چاہیے کہ  
اگر آپ ایک دفعہ کی کام میں ناکام ہو جاتے ہیں تو آپ ہست نہ باریں بلکہ بار بار کوشش کریں  
جب تک کہ آپ کامیاب نہیں ہو جاتے۔ کبھی بھی ہست نہ باریں، اپنے اندر تبدیل اور استقلال  
نہ کریں۔ اس اشتہار کی طرح مضمون بہن جائیں جو کہ سربراہ پر لگا ہوتا ہے اور لوگوں کو ان کی مست

نالوں کیلئے ون اردو کی تحریر گزار پیٹی

نالوں کیلئے ون اردو کی تحریر گزار پیٹی

173

## دولت بحث خوشی 42 دنون کا عملی کورس

روکا ہوا ہے۔ ان چیزوں کے بارے میں سوچیں جن کے بارے میں آپ کا عقیدہ ہے کہ آپ انہیں بھی نہیں حاصل کر سکتے۔ مثلاً اپنے کام میں ترقی کرنا، کسی نئے ملک میں جا کر زندگی گزارنا کی مفہوم سے پiar کرنا، اپنا کاروبار شروع کرنا، جوچ میں نہیں گیت گانا، کوئی نیز بان سیکھنا آپ جو کوئی کام بھی کرنا چاہئے ہیں، آپ کو کوئی نکی سوچ آجائی ہے جو کہ آپ کی راہ میں رکاوٹ ہن جاتی ہے اور آپ سوچتے ہیں کہ آپ اس کام میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ کوئی کام آپ اپنا سوچتے ہیں کہ آپ ناکامی سے کسی صورت نہیں پیش کرتے۔ مثلاً آپ ناکامی سے خود رہے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ کوئی ایسا کام کریں جو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نہیں کر سکتے اور یہ کام کرتے ہوئے آپ اپنے باتوں میں رجسٹر اپ ایک باہم انسان ہیں۔ اگر آپ سب بات سوچ کر کام شروع کریں تو آپ یقیناً کامیاب ہو جائیں گے۔ اگر آپ اپنی ہمت پر بھروسہ رکھیں گے تو آپ ان غیر معمولی خوبیوں سے بیویوں کے لیے چھکارہ حاصل کر لیں گے۔ تا کامیں سرفہرست کیفیت کا باعث تھی ہے جب ہم ہمت ہار جاتے ہیں اور اپنا کام اور ہمارا چورڑی دیتے ہیں۔

## آپ بھی ہمت نہ ہاریے

آن چیز چھٹے لوگوں نے بھی اپنے خابوں کو حقیقت میں تبدیل کیا ہے اور نہ ملکن کو تکن بدلایا ہے۔ ان سب لوگوں میں ایک صفت مشترک تھی کہ وہ کسی بھی ہمت نہیں ہارتے تھے۔ بشار لوگ ایسا کرتے ہیں کہ جب وہ کامیابی سے تھوڑے ہی دور ہو جاتے ہیں تو وہ ہمت ہار جاتے ہیں اور وہ اپنا کام اور ہمارا چورڑی دیتے ہیں۔ انہیں ہمت کرنے والے مشکل الگ ہے اور وہ یہ سوچا چورڑی دیتے ہیں کہ وہ کام کر سکتے ہیں۔ بعض اوقات زندگی میں کچھ کامیابی کی محاذات آتے ہیں کہ آپ کو اپنی زندگی ہر ہتھ دشوار لکھتے ہیں اور اداہ کمزور پڑ جاتا ہے، مسلسل ناکامی ہماری ہمت کو سارا کروتی ہے، ہم مایوس کا گھار ہو جاتے ہیں، سارا لکھنوں میں یہ ہمارے لیے یہ بات بہت آسان ہوتی ہے کہ ہم اس سوچ پر اپنے کام کو اداہ کمزور دیں جس کی وجہ سے ہم مشکل کا ہمارا ہوتے ہیں اور ہماری خود احتادی کافی کم ہو جاتی ہے۔ مجھے پورا یقین ہے کہ آپ نے بھی اس سچ کا تحریر کیا ہو گیا۔ مجھ کی ایسی چیز کو دیکھا ہو گا جو اس طبقے سے گزرا ہو گا۔ وقت طور پر اس نیکیت سے انسان کو بہت دھکا لگتا ہے لیکن آپ کو کوئی بھی صورت مایوس نہیں ہوتا چاہیے اور کسی بہکادے میں آکر اپنا کام اداہ کرنا چاہیے میں آپ کو کہا جائے ہیں لیکن آپ نے خود اپنی ذات کو ختم دیا ہے اور خود کا کام کرنے سے

® SCANNED PDF By HAMEEDI

® SCANNED PDF By HAMEEDI

175

## دولت بحث خوشی 42 دنون کا عملی کورس

یاد رکھیں کہ  
ہمت کا مطلب پر یقین ہے کہ آپ اپنے آرام دہ حصار سے باہر لکھیں اور ناکامی کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہو جائیں۔

## آج کے دونوں

آپ ہمت کو اپنی ایک اہم خوبی سمجھیں اور اپنے کاموں کے ذریعے اس کا تحریر کریں۔



جب تک ہم کام نہیں کریں گے کسی حرم کا عمل نہیں کریں گے، تب تک ہم کسی حرم کی تجدیلی نہیں لاسکتے۔ میں نے اپنی زندگی میں بہت سی ناکامیوں کا سامنا کیا ہے اور ہر ناکامی میرے لیے تکلیف کا باعث تھی۔ میں سکول کے اخوان میں ناکام جو اقا، کام سے خالا گیا تھا، نظر انداز کیا تھا، بھیل کے میان میں ہارا تھا اور سڑھ کی کوئی ناکامیوں کا سامنا کیا تھا۔ میں نے اس کا آسان حل تھا لیا تھا۔ میں نے کوشش کرنا ہی چھوڑ دیا تھا۔ جب میں نے کوشش کرنا چھوڑ دیا تو اس کا کیا تھا جگہ لکھا؟ میں پہنچ گیا تھا کہ آپ کو کوشش کرنا ہے۔ میں کامیاب بھی نہیں ہو سکیں گے۔ اپنی زندگی کے بھیل میں قیامت، دولت اور پیار چیزیں کے لیے آپ کا کمیل میں شامل ہونا ضروری ہے۔ مگر بھی ہر بات سارے لوگ ہر قسم کو کر بیٹھ رہے ہیں۔ دوسروں سے لوگوں کا مشاہدہ کرتے رہے ہیں اور میہدہ اپنا کام نہ کرنے کی سلسلہ کوڈیتے رہے ہیں۔ آپ کی ہمت آپ کے کام کے نتیجے کی وجہ سے نہیں۔ میں طے کی جاتی بلکہ اس کا فطل اس بات سے کیا جاتا ہے کہ آپ کا کام کرنے کا ارادہ کتنا معبوط چاہیے اور آپ اس کے لیے کی کوشش کرتے ہیں۔

## ہمدردی کا فعل

میں نے آپ سے اس حقیقت میں یہ بات کی تھی کہ آپ روزانہ کوئی ہمدردی کا کام کریں، لوگوں کے کام آئیں، یہ ایک بہت اچھا کام ہے لیکن میرے یہ کچھ کی ایک اور جو بھی تھی جو یقینی کہ اس سے آپ اپنی ذات کے آرام دہ حصار سے باہر لکھیں گے کام کرنے کا خودہ مول یہیں گے۔ آپ اس میں کامیاب بھی ہو سکتے ہیں اور ناکام بھی ہو سکتے ہیں، اس کا تیغ چاہے کچھ بھی لکھ لیکن ایک بات بہت اچھی ہے کہ آپ اپنے حصار سے باہر لکھتے ہیں اور کسی خصوصی مدد کرتے ہیں جو آپ نے اس سے پہلے اپنی آسانی سے اور اتنے اعتماد سے بھی نہیں کی ہوتی۔ اس سے آپ خودہ مول لینا سکتے ہیں۔

آن کے دن آپ اپنی زندگی کے ان دوسروں شعبوں کے بارے میں بھی سوچیں جن کے لیے آپ کو کہا کرنا چاہیے ہیں لیکن آپ نے خود اپنی ذات کو ختم دیا ہوا ہے اور خود کا کام کرنے سے

## دولت بحث خوشی 42 دنون کا عملی کورس

174

نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اگر کوئی مفہوم آپ کو ہمیلت کرتا ہے کہ آپ بہیش ثبت سوچیں، یہاں بہیش اور خیالات اور حجم کا آرام کرنے دیں کوئی آپ بہوت ایک بات نہیں سوچ سکتے۔ مثبور شاعر ملام اقبال نے اسی موقع کے لیے شعر کہا ہے کہ

لازم ہے کہ پاس رہے پاساں عقل  
لیکن بھی بھی اسے تھا بھی جھوٹ دے

آپ جب بھی بہکن حالت میں ہوں تو جب آپ اپنے مقصد کے بارے میں سوچیں کہ آپ کو اس سے کیا حاصل ہو گا۔ میں چاہیے کہ ہم اپنے خوبیوں کو بہیش اپنی سوچ میں زندہ رکھیں اور اگر ہم ضرورت محسوس کریں تو ہم اپنے الگ الگ کو تبدیل کر سکتے ہیں کہ ہم اپنے مقصد کے لیے صحیح سوت پر جھیلیں۔ میں اس بات پر پورا یقین ہوتا چاہیے کہ ہم ضرور کامیاب ہو جائیں گے نا اگر آپ اپنی سوچ بھیت سے کام لیں گے اور ناکامی کا سامنا کر پڑے تو ہم بھی اپنے ہمت نہیں ہاریں گے اور جب تک کہ آپ کامیاب نہیں ہو جائیں گے آپ کو کوشش کرتے ہیں گے۔

ضروری نہیں ہے کہ ہم ہر دفعہ کامیاب نہیں ہوں، لیکن ہمیں اپنی طرف سے کامیاب ہوتا چاہیے کہ بھی بھی ہمت نہیں ہاریں گے۔

چھپلے 38 دنوں میں آپ نے شوری طور پر کسی سوکام کیے ہوں گے جن میں سے کچھ آسان ہوں گے اور کچھ کام کرنے آپ کے لیے مشکل ہوں گے۔ کچھ گوئی نے آپ کی موجہ افراد کی

ہوئی اور جھنپوں اپنے ناگائی سے صہر ہوں لے ہیں ان اپنے ہمت تکل ہماری اور اب و خود پر پہلے سے کئی زیادہ قابو حاصل ہو گیں گا۔ آپ کی کامیابی صرف آپ کی ہمت کی وجہ سے ہی نہیں ممکن بلکہ اس کے لیے آپ نے بہت ہمت، جانت اور ثابت ہتھیار کا مظاہر کیا ہے تاکہ آپ اپنے اندر کی ہمت کا جادو جگائیں اور کامیابی حاصل کر لیں۔

177

## دولت، بحث، خوشی 42 دنون کا عملی کورس

موجودہ لمحے پر مرکوز رکھتے ہیں۔ بعض اوقات اس بات کا حوالہ اس طرح سے دیا جاتا ہے کہ یہ لوگ اس وقت ایک ایسے ”کرو ارخ“ پر ہوتے ہیں جہاں انہیں وقت اور جگہ سے متعلق کسی قسم کا کوئی احساس نہیں ہوتا، وہ اس وقت صرف اس موجودہ لمحے میں ہوتے ہیں، جو لوگ خدا کے کھلیوں میں حصہ لیتے ہیں، وہ مرنے کی خواہ نہیں کرتے بلکہ وہ بھرپور انداز سے زندہ رہتا چاہتے ہیں اور انہیں بھرپور زندگی کا احساس اسی لمحے ہوتا ہے جب دکھل کے رہا اپنے شعور کی بلندی پر ہوتے ہیں۔ میرا خدا ہے ہماری روزمرہ زندگی میں یہ بات بہت شکل ہوتی ہے کہ ہم اپنے شعور کی اس غیر معمولی سطح پر پہنچ جائیں جہاں آکر وقت رُک جاتا ہے اور اسیں اسے اگر دکا احساس نہیں ہوتا۔ ہمارے شعور کے اس بھرپور اندازہ اسی لمحے کا لگایا جاتا ہے جب ہم کسی خدا کا کھل کیل میں حصہ لیتے ہیں۔ پہت قابل قدر تجربہ ہوتا ہے۔

آپ کے ساتھ اپنی دفعہ ایسا ہوا ہے آپ جو کام کر رہے ہوں آپ اس پر اپنی بھرپور توجہ مرکوز کریں آپ جس کے ساتھ ہمیں وقت گزار رہے ہیں، آپ اس لمحے کو قابل قدر جانیں اور ہر لمحے کے کوئی تجربہ حاصل کریں اور کوئی شکست کریں کہاں کہاں موجودہ لمحے میں ہی رہیں۔

ہمارے خیالات اور ہمارا عمل مل کر ہی ہمارے مستقبل کا تعین کرتے ہیں اس لیے جب آپ کسی شخص سے بات کر رہے ہوتے ہیں، آپ اس کو 100 فیصد تجدیدیتے ہیں۔ اس کی بات بہت تجربے سے سختے ہیں اور بھجو جاتے ہیں کہ یہ کہہ رہا ہے تو اس طرح سے آپ اس صورتحال کو بتتے ہیں کہ طریقے سے کبھی جاتے ہیں۔

جب آپ مراقبہ کر رہے ہوتے ہیں، آپ اس لمحے کے لیے وقت کا لیں کہ آپ اپنے مراقبہ میں جو کنٹاچا رہے ہوتے ہیں اس لوگ پر توجہ مرکوز کرتے ہیں یا بعض لوگ اپنے سامنے پر یا کسی بھی تصور پر توجہ مرکوز کرتے ہیں آپ خاصیت سے اور پسکون کا حالت میں توجہ مرکوز کریں اور اس دوران کا نام پوچھ کریں یعنی اسی اور جیسے توجہ مرکوز کر رہے ہیں تاکہ آپ کا وقت ضائع نہ ہو اور آپ مراقبہ سے بہترین نتائج حاصل کر سکیں۔ آپ اس کام پر جو کہ آپ مراقبہ میں کرتے ہیں اس سے پڑی طرح شکل ہو کر مراقبہ کریں یہ موجودہ لمحے میں ہی زندہ رہے ہیں۔ مستقبل غیر قیمتی ہے اور یہ ہمارے تحلیل میں موجود ہے۔

لوگ کامیابی اور خوشی حاصل کرنے کے لیے جادو کی طور پر مختصر راستے خلاش کرتے ہیں کہ

دولت، بحث، خوشی 42 دنون کا عملی کورس

176

پانچ ماہ ہفتہ  
چھتیسوال دن

## ”آج اور ابھی“ کے وقت میں جسیں

”اب جب میں اپنا گزشتہ زندگی پر نظر ڈالتا ہوں تو احساس ہوتا ہے کہ مجھے جو کچھ وقت پر کتنا چاہیے تھا، نہیں کیا، یہ یاد کر کے میراں ٹوٹ ٹوٹ جاتا ہے۔“

.....انجی نائم مصری بادشاہ (وقات 1354 قبل از مسیح)

ہم سب لوگوں کو یہ بات سمجھتے ہیں کہ کوئی مشکل بیٹھ نہیں آتی کہ ماہی گزرنٹ کا ہے اور وہ کبھی دامیں نہیں آتے گا۔ اگر ہم چاہیں تو اسے صرف یاد کر سکتے ہیں لیکن اسے دامیں نہیں بلکہ سبقت کے بارے میں یہ کیا جاتا ہے کہ محقق صرف ایک خواب ہے جو صرف ہمارے تحلیل میں موجود ہے۔

زندگی صرف موجودہ لمحے میں ہو کر ہم گزارہے ہیں جو اپنے تجربات کر رہے ہیں اس کے علاوہ سب چیزیں یا تو ہماری یادواداشت میں ہیں یا تو صرف ایک تخلی ہیں۔

ہمیں خوشی کو موجودہ لمحے میں خلاش کرنا چاہیے اسے محقق کے واقعات کے واقعات سے مشروط نہیں کرنا چاہیے اور دس سویں اپنے ماہی کے تجربات کو یاد کر کے برپا ہونا چاہیے۔ یہ انجمنی احتمانہ سوچ ہے کہ ہم اپنے محقق کو ہمیں اپنے ماہی کے ساتھ میں رکھ دیکھتے ہیں۔

آپ بہترین زندگی صرف اسی صورت میں گزاریں گے جب آپ کے تمام کام اس احساسات اور خیالات آپ کے موجودہ لمحے اور آپ کے اگر دو کے لوگوں سے متعلق ہوں گے۔

ہمیشہ بھرپور انداز سے زندگی گزارنے کی خلاش میں رہیں

ماہرین نیتیت کرتے ہیں جو لوگ ہرث خدا کے کھلیوں میں حصہ لیتے ہیں۔ مثلاً کاروں کی دوڑیا پہاڑوں پر چھٹا، ان شدید لمحات میں وہ لوگ اپنے اگر دو سے لاپرواہ کر اپنی توجہ صرف

179

## دولت، بحث، خوشی 42 دنون کا عملی کورس

چھٹا ہفتہ  
چھتیسوال دن

## امن کی خلاش

”حالت امن میں کمالی ہوتی رہتی کا ایک لکڑا خوف، پریشانی اور اضطراب کے عالم میں دیگر غیافت سے کملی بہتر ہے۔“

.....آئکوپ، یو ای ای ای (عبد جات: 620 تا 560 قبل از مسیح)

آپ جب سکون کے بارے میں سوچتے ہیں تو آپ کہے ذہن میں سب سے پہلا خیال کیا آتا ہے اس کے لیے سب سے عام استھان ہونے والے الفاظ یہیں ہیں کہ یہ ایک ایسی کیفیت کو میان کرتا ہے جہاں کوئی جنگ نہیں ہوتی، کوئی سور شر با نہیں ہوتا اور آپ بہت آرام دہ اور مطمئن ہوتے ہیں۔

میرا بیان یہ ہے کہ سکون ایک ایسی کیفیت ہے جس میں کوئی تصادم نہیں ہوتا، میں کسی قسم کی تنویریں نہیں ہوں گی۔ میں اپنی وجہ ایسی کا بہت گمراہی سے احساس ہوتا اور ہماری زندگی میں

دولت، بحث، خوشی 42 دنون کا عملی کورس

178

کسی طرح ہم فردا کامیاب ہو جائیں اور ایسا کرنے میں وہ لوگ تھام ایسے نشان گھوڈے ہیں جو کران کے محقق کی کامیابی کے لیے ان کے مددگار ہوتے ہیں اور ان علامات کی مدد سے ہم موجودہ لمحے سے شکل ہو سکتے ہیں۔ اصل کامیابی لیکن ہے کہ ہم موجودہ لمحے میں رہیں اور جو کام کام کریں۔

کامیابی کریں وہ بھرپور انداز سے کریں۔

ہم پر محضہ کہ آپ اپنے سفر کے ہر موجودہ لمحے کو جھرپور انداز سے کریں۔

ہماری زندگی میں سبتوں میں تین ہوں گے۔ ایک دھر، جو ہم گزارے چکے ہیں، ایک دھر ماضی سے ہم گزر رہے ہیں اور ایک دھر جس سے ہم گزر رہے ہیں۔ آئیں ہم سب لوگ اپنے بہتر مصدقی گزاریں گے۔

یاد رکھیں کہ

ہمارا ماضی گزرنٹ ہے، محقق موجود نہیں ہے، ہمارے پاس صرف ہمارا حال موجود ہے، اس لیے ہمیشہ موجودہ لمحے میں بھرپور انداز سے زندگی گزاریں۔

## آج کے دن

آس سارا دن، اس کا آغاز 26 جولائی 2013ء ہے۔

WED PDF By HAMEEDI

ناول کیلئے وہ اردو کے تحقیک

وہی، جذبیاً یا روحانی کی سری لوئی مراجحت تھیں ہوئی۔ لیا اپنی زندگی میں دی ایسا یاد یا یہے جب آپ نے پی خواہی کی ہو کر اپنے بیٹوں پر حکم رکھ دیں؟ کیا بیٹا کی اور خوشی کے کیونکہ بھی اپنے بھائیوں کی رہنے کی خواہیں کر دیں؟

اب آپ کا چیخنے کمل ہونے لگا ہے اب آپ کو خود پر 100 فتحہ قابو حاصل ہے اور آپ جانتے ہیں آپ نے اپنی زندگی کو اعتماد طریقے سے گزانتا ہے اور کیا روایات اختیار کرتا ہے۔ آپ یہ بات بھی جانتے ہیں کہ اگر آپ اپنی زندگی میں کوئی تبدیلی لانا چاہیے جس تو اس کے لیے عمل کرنا بہت ضروری ہے۔ یہ بات ہم پر تھکر ہے کہ ہم دنیا میں کس طرح پر سکون طریقے سے زندگی گزارتے ہیں، ہمیں چاہیے کہ دوسرے لوگوں کے روایتے اور ہمیں کی وجہ سے ہم صدر کریں اور نہ ہم باجای کا فکار ہوں۔ یہ چیز ہمارے اپنے اختیار ہے کہ ہم ان باتوں کو نظر انداز کر کے پر سکون رہ سکتے ہیں۔ اگر کوئی شخص ہمیں پریشان کرتا ہے تو ہمیں اس کے ساتھ اس کے رویے کی وجہ سے بحث نہیں

اور اسی لمحے میں زندگی گزارد ہے ہیں۔



® SCAN  
کیا  
ہے

#### دولت، بحث، خوشی 42 دنوب کا عملی کورس

کے۔ پھر آپ پر سکون رہیں اور تمام زندگی کے لیے اس عادت کو اپنالیں اپنا سکون دوسرے لوگوں کے ساتھ پاشیں۔ آپ اس طرح سے ان لوگوں کی زندگی پر اثر انداز ہوں گے۔ اس سے دوسروں کی زندگیوں میں بھی آسودگی آئے گی اور وہ اپنے محبوس کریں گے جس طرح زندگی کے شرونوں پر سکون طریقے سے بات کریں، ہمداد رہو یا اپنی کامیابی کو اپنے کو نظر انداز کر کے پر سکون رہ سکتے ہیں۔ آپ جب بھی کسی سے بات کریں تو پر سکون طریقے سے بات کریں، ہمداد رہو یا اپنی کامیابی کو نظر انداز کر کے پر سکون رہ سکتے ہیں۔ آپ کے اندر پہلے سے عن جو جو دیں۔

اگر آپ لوگوں کے ساتھ اچھا رہیں گے تو آپ دوسرے لوگوں کے لیے بھی مثال قائم کریں گے۔ دوسرے لوگ بھی آپ جیسا رہو یا پہنچیں گے۔ یہ بات میں پہلے بھی بہت دفعہ تنا پکا ہوں کہ آپ جو کچھ زندگی میں دوسرے لوگوں کے لیے کرتے ہیں وہ سو دی صورت میں کی گناہ زیادہ بڑھ کر آپ کو دامن مل جاتا ہے۔ آج کے دن جبکہ ہم چیخ کے آخری دن کی طرف جا رہے ہیں تو میں یہ چاہتا ہوں کہ لوگوں کو سکون پہنچائیں وہ اس طرح سے کہاں تک بھی مکن ہو آپ جہاں ہیں بھی ہوں اور جس شخص سے بھی ملیں بھی سکون اور ہمیشہ اس کے ساتھ ملیں ہا کہ دوسرے لوگ بھی آپ کے دریے سے چاہتھوں اور اسے اپنالیں۔

یاد رکھیں کہ

آپ کو سکون صرف اسی صورت میں میرہوتا ہے جب آپ کسی بھی حرم کے تصادم کا فکار نہیں ہوتے۔

آج کے دن

کسی بھی بات سے پریشان نہ ہوں، ہماری بقیے کے ذریعے بھی سکون اور پاٹھیان رہیں اور سارا دن اسی سکون کے ساتھ گزاریں۔



دولت، بحث، خوشی 42 دنوب کا عملی کورس  
کرنی چاہیے۔ یہ بات زیادہ اہم ہے کہ ہم بھی سکون رہیں چاہیے کوئی آپ کو پریشان کرے یا آپ کو مصیبت میں جلا کرے۔ آپ کو ان تمام باتوں کو خود پر حاصل نہیں ہوتے دیکھا چاہیے، جب ہم پر سکون ہوتے ہیں، متوازن محسیت کے مالک ہوتے ہیں اور کسی حرم کی تشویش میں جلا نہیں ہوتے تو اس وقت ہم اس قابل ہوتے ہیں کہ ہم بہترین نیصلہ رکھیں۔ اپنے لیے بہترین چیز منتخب کر سکتے ہیں اور بہترین روگیل پہنچ سکتے ہیں۔

آپ اپنے لے سکون کا انتساب کر سکتے ہیں

محلکہ خوبیات یہ ہے کہ جب ہمیں اپنی زندگیوں میں کوئی تبدیلی لانی ہوتی ہے تو اس کے لیے ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن جب ہم سکون حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں کوئی کام کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، ہمیں سادہ رویہ اپنائنسی کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہمیں اس چیز کی ضرورت ہوتی ہے کہ ہم جس طریقے سے بھی گزر رہے ہیں، اس کے لیے میں موجود رہیں، اس کا سامنا کریں اور کسی حرم کی ہمیزی کی مراجحت نہ کریں۔

سکون ہمارے اندر موجود ہے۔ جب آپ بہت گہرا ہی سے مرافق کریں گے تو آپ جذبیت اور روحاںی طور پر بہت پر سکون اور مطمین محبوس کریں گے۔ آپ وہ سکون محبوس کریں گے تو آپ کے دل جو کے اندر پایا جاتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس احساس کو اپنے اندر محسوس کریں اور سارا دن اسے یاد رکھیں تاکہ ہم پر سکون طریقے سے دن گزاریں۔ سارا دن آپ کے ساتھی دلخواہی و اتفاقات میں آتے ہیں، اگر ہم پر سکون ہونے کے بجائے جذبیت کو کرنا تو ہم خود پر سے قابو ہو دیں گے۔ اگر ہم اپنی روح کو چاہتے دیں کہ ان و اتفاقات سے نہیں اور ان پر اش رانداز ہو تو قیمتی ہمارا دل بہت پر سکون، پاٹھیان، ہمداد رہ، پر غلوٹ اور روحی کا ہوگا کوئی نہیں ہماری روح کی غفرت ہے۔ ہماری روح ہمیں اس قابل ہتھیار ہے کہ ہم ان و اتفاقات کو اپنی زندگی میں اچھی جگہ دیں۔ وہ ہمیں اس قابل ہتھیار ہے کہ ہم یہ حقیقت کو تسلیم کریں کہ یہ چھوٹے و اتفاقات جو کہ ہماری زندگی میں بہت زیادہ مایوسی کا سبب بننے ہیں اور ہماری جسمانی صحت کو متاثر کرے ہیں، حقیقت میں ان کی و اتفاقات کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی۔ ہم بھی ہمیں ہمیں کوکش کرنی چاہیے، کہ بھی سچا ہے جہاں بھی مکن ہو یہم سکون کا انتساب کریں تاکہ ہم پر سکون ہیں۔

سچے امید ہے کہ آپ نے 42 دن کے میلے میں بہت ساری پرانی عادات ترک کر دی ہوں گی اور قئی عادات اپنالیں ہوں گی اور آپ اپنی ہاتھی کی تمام زندگی اپنی اپنی عادات کے طابق گزاریں

#### دولت، بحث، خوشی 42 دنوب کا عملی کورس

میرا خیال ہے کہ میں اس چیخ کا اختتام اس سے ہبھ طریقے سے نہیں کر سکتا کہ میں آپ کو بتاؤں کہ میں آپ سے بہت خوش ہوں۔ اب آپ جا گئے ہیں، اپنی طاقت اور صلاحیتوں سے واقف ہو گئے ہیں، اب بھی بھی آپ پہلے بھی زندگی نہیں گزاریں گے بلکہ آپ کی زندگی میں پہنچا بست تبدیلیاں آگئیں۔

میں آپ سے بہت خوش ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ آپ کی خوشیوں اور کامیابیوں کا سلسلہ تمام زندگی جاری رہے۔

یاد رکھیں کہ

آپ ہر کام کر سکتے ہیں۔

آج کا دن

#### دولت، بحث، خوشی 42 دنوب کا عملی کورس

182

چھٹا ہفتہ  
سینتیوں وال دن

آپ جو چاہیں، کر سکتے ہیں

”اگر مجھے کسی شے کی خواہیں کا اذن دے جائے تو میں دولت اور طاقت کی خواہیں بھی نہ کروں بلکہ جس چیز کی طلب کروں وہ اسکی قوت استخداء ہو کر جو ہر بات کوکن بنا دے۔ خوشی بھی بیویوں کو دیتی ہے لیکن ممکن نہیں دینے والی قوت میں جو خوبی، لذت اور جرم ہے، وہ میں نہ ہوں۔“

® SCAN  
نال  
کیلئے ون  
اردو  
کے  
تم  
کیا  
گزار  
ہے

® HAMEEDI  
نال  
کیلئے ون  
اردو  
کے  
تم  
کیا  
گزار  
ہے

جیسا آپ کی بیوی زندگی کا پبلادن ہے۔ س میں اپ کے بیلے لاکھ دو ماہ ہات آیا۔



® SCANNED PDF  
لے  
تمکہ  
گزار  
ز

درباریہ سردار سہیتی نامہ جمیعت ۱۸۷۴ء

(۱۸۵۵)

آج آپ کے بیچ کا آخری دن ہے۔ اب سے کچھ گھنٹوں بعد آپ کے 42 دن تک مل ہو جائیں گے، جس نام سے آپ بچھے، گھنٹوں سے گزر رہے ہیں، میرے پاس اس وقت اس سے اچھی اور کوئی سوچ نہیں ہے کہ میں آپ سے کوئی کہا بات پر یقین کر لیں کہ آپ ہر کام کر سکتے ہیں۔ آپ نے اپنے آپ کو یہ بات کہ کھایا ہے کہ آپ نے اپنی زندگی کو کھل طور پر اپنے بیس میں کر لیا ہے۔ آپ نے اپنے مقام تھیں میں اور ان پر عمل بھی کیا ہے۔ آپ مر جانے والے صورات کی طاقت کو کھو گئے ہیں آپ یہ بات کہم کے کہ آپ جو کھاتے اور جو روز کرتے ہیں، وہ آپ کے حسپ پر اثر انداز ہوتی ہے۔ آپ نے خود کو دنیا کے ساتھ وابستہ کر لیا ہے، جس کا ناتھ میں آپ رہتے ہیں اس کے ساتھ وابستہ کر لیا ہے اور مجھے امید ہے کہ آپ نے اپنی روح کو دریافت کر لیا ہے۔

میں خلاصہ امید کرتا ہوں کہ آپ آج کے دن کو اختتام کی نظر سے نہیں دیکھیں گے بلکہ اس کی بجائے آج سے آپ کی اس دنیا کی شروعات ہو گئی۔ جس میں لاحدہ و امکانات ہیں، اس سے قطع نظر کر آپ اپنی میں کن بناؤں پر یقین رکھتے ہیں، آپ اب صرف اس بات پر یقین رکھیں کہ آپ کے خواب حقیقت میں بدل جائیں گے۔

185

دولت بحث، خوشی 42 دنیوں کا عملی کورس

184

دولت بحث، خوشی 42 دنیوں کا عملی کورس

184

چھٹا ہفتہ  
اثرتسوال دن

جب ہم اپنی ذمہ داری کو قبول نہیں کرتے تو ہم اس کا اٹرام دوسرا لوگوں کو دیتے ہیں

اس کے ساتھ ساتھ اپنے لوگ اپنے رویے کی وجہ سے اپنی ذات کو مدد و کر لیتے ہیں اور کسی حس کی ذمہ داری قبول نہیں کرتے جس کی وجہ سے وہ اپنے ماحول کا جھوپری نہیں کرتے اور بے شمار کا یا بیکا کے موقع سے قائد نہیں ہٹا جاتا۔ وہ ہمیشہ اپنی ناکامی کا ذمہ دار اپنے ماحول کو سہرا تے ہیں۔ ان کے پاس یونیورسٹی ہوتی ہیں وہ بھی بھی ان کا ٹھہراؤ نہیں کرتے وہ ہمیشہ گل ٹھوہر کرتے رہ جاتے ہیں اور اپنے توجہ اس پیچے پر سرکور رکھتے ہیں جو ان کے پاس نہیں ہوتی۔

آج کے دن میں یہ چاہتا ہوں کہم ٹھہر اری کے پارے میں سوچیں اور اس رویے کو اپنائیں۔ میں اپنے لوگوں کو جاہاں ہوں جو کہ یہی ذمہ دار اور یہی کا ٹھہریا دا نہیں کرتے کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہم نے انہیں پیسے دیتے ہیں اور تمیں ان کا ٹھہریا دا نہیں کرنا چاہے کیونکہ وہ سب ان کی فرض میں شامل ہے۔ ایسے لوگ دنیا کو پسند نہیں کرتے اور جس کی ہمیشہ گل ٹھوہر ادا کرتے ہیں تو وہ ایسا ایجاد ہے۔

تعقیب سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ ہر انسان کی زندگی میں جو چیز کا ممکنی کے لیے سب سے انتہا ہے وہ یہ ہے کہ اسے سامنے آتی ہے۔

ہم ہمیشہ اپنی چیز پر توجہ دیتے ہیں جو کہ مارے پاس نہیں ہوتی، جبکہ میں ان چیزوں پر توجہ دیتی چاہے جو کہ مارے پاس موجود ہیں اور میں ان تمام چیزوں کے لیے ٹھہر گزاروں پا جاتے ہیں۔ ہم لوگ اکتوبر و فروری ایام سمجھتے ہیں۔ جب دوسرا لوگ کی ہمیں زندگی میں جو چیز کو سمجھتے ہیں تو ہم بہت بر احسوس کرتے ہیں کہ میں ابھی نہیں دی جا رہی۔ میں آپ کو اچھا چیز پر جد کرنی چاہیے کہ آپ اپنے انسان نہیں جو کہ دوسروں کو ابھی نہیں دیتے اور ان کی قدر نہیں کرتے۔ آپ آج اور اپنی زندگی کے ہر دن اچھا کو شکر کریں کہ آپ اپنی زندگی میں جس فض سے بھی ملیں تو اس سے بہت اچھے طریقے سے ملیں۔ آپ کا تجربہ بہت خوب ہوا اور آپ کو جب بھی موقع ملے آپ ان کا ٹھہریا دا کریں۔

لوگوں کو تباہیں کہ آپ ان پر توجہ دیتے ہیں اور ان کے لیے ٹھہردا رہتے ہیں میں اپنے لوگوں سے بھی ملا ہوں جو دوسروں کو سراچے نہیں ہیں۔ میں گولف کھیلتا تھا تو وہاں پر

نالوں کیلئے وہ اڑوں اڑوں  
لے  
تمکہ  
گزار  
ز

## احساس تھکر

"ٹھکر کا احساس آپ کی سرت میں جنمت انگیز اضافہ کر رہا ہے۔"  
.....می۔ کے چھٹوں، بر طابوی ادب و فقادہ جمیعت ۱۸۷۴ء

(۱۹۳۶)

کیا آپ کے ساتھ ایسا ہوا ہے کہ آپ کی فض کے کام آئیں اور وہ آپ کا ٹھکریا دا کرنے کی بجائے آپ کی کوشش سے باکل لاٹھن بن جائے اور اسے کوئی ابھیت نہ دے؟ آپ اس سے کیا محسوس کریں گے؟ آپ کو خدا نے گا آپ کو کہ پہنچا گا یا آپ مایوس ہوں گے؟ آپ جس انسان کی مدد کرتے ہیں وہ اگر آپ کو اور آپ کی کوشش کوئی ابھیت نہیں دیتا تو آپ کو اس بات سے تکلیف نہیں ہے۔ آپ کوایا محسوس ہوتا ہے کہ آپ نے اس فض کے لیے کچھ نہیں کیا۔

آپ اپنی اور دوسرا لوگوں کی زندگیوں کو غیر اہم نہ سمجھیں بلکہ ان میں چھوٹی چھوٹی خوشیاں ٹھلاش کریں  
فضی سرچ کے حال لوگ اپنی تمام زندگی سوئے ہوئے ہی گزار دیتے ہیں۔ وہ بھی نہیں جاگتے، اپنی زندگی کی چیزوں نہیں دیکھتے اور سب سے اپنے اور گرد کا ممکن کے موقع دیکھتے ہیں۔ وہ زندگی کو تجربات کا مجموعہ سمجھتے ہیں اور اس میں تھق خلاش کرتے رہتے ہیں۔ ان کے راستے میں جو بھی عنایت ہوتی ہے وہ اس کے ٹھہر گزار نہیں ہوتے اور اسے نظر انداز کر دیتے ہیں۔ وہ کسی کی مدد سے فائدہ نہیں اٹھاتے کیونکہ وہ بڑی چھوٹی خوشیوں کی ٹھلاش میں چھوٹی چھوٹی خوشیوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں اور ان سے لطف اندوڑ نہیں ہو پاتے۔

187

دولت بحث، خوشی 42 دنیوں کا عملی کورس

186

دولت بحث، خوشی 42 دنیوں کا عملی کورس

ایسے لوگ بھی موجود ہوتے تھے جو کہ صرف ایسا ہی نہیں کہتے تھے کہ "اپنی ضرب لکائی ہے" یا "اچھا کھلکھلائے" وہ کسی کی تعریف کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے۔ ایسے لوگ کہتے ہیں کہ اگر وہ کسی کی تعریف کریں گے تو وہ کمزور پڑ جائے گے میمی تریتی اس طرح سے ہوئی ہے کہ میں بھی شے دو الفاظ "ٹھکریے" اور "مہریاں فرمائے" بیٹھا استھان کرتا رہا ہوں اور میرے خلی میں ان دو الفاظ میں بہت جادو کا اثر ہے۔ میں جہاں کہیں بھی جاؤں یہاں قیامت ہر جگہ اس تھال میں ہوتے ہیں۔ میں آپ سے نہیں کہتا کہ آپ جو ٹھکریے ہیں، کسی کی بھی تعریف کریں یا کسی کا ٹھہریا دا کریں۔ اگر بھائی تھے جو اس کا لکھا رہا تھا۔

DI  
D  
I

یاد رکھیں کہ  
آپ جب کسی کا ٹھہریا دا کرتے ہیں تو اس سے اس فض کی زندگی میں اور آپ کی اپنی زندگی میں بھی خوفناک جدی آتی ہے۔

آج کے دن

بڑے بڑے نہیں تھے۔ اسی پر وہ اپنے سارے بڑے بڑے نہیں تھے۔



انہیں تباہی کیا۔ آپ ان سے دافت ہیں۔ انہیں تباہی کیا، آپ کے کلمے انہیں اور آپ نے ان کے ساتھ بہت اچھا وقت گزارا ہے۔ آپ کی کامیابی اچھا وقت گزارنے کی کوشش کر رہیں۔

الفاظ میں اُنی طاقت ہوتی ہے کہ وہ بارے جنبات کو تشویش پا بلطف طور پر اسے اعماق کشی کرنے میں ہر شخص کی بھی خواہش ہوتی ہے کہ اسے سراہجا جائے۔ ہم اسے بہت اچھا عسوں کرتے ہیں۔ ہم لوگوں پر تجیدگی کی بجائی ہے جس کے نام تھیں ہوتے ہیں۔ لیکن مجھے ہم اسے اچھا عسوں کہیں کرتے۔ آپ لوگوں کا ٹھہریہ ادا کریں، لوگ بھی آپ کا ٹھہریہ ادا کریں گے۔ کچھ لوگ بہشناہتری کرتے رہتے ہیں اور خود کو بقدست سمجھتے ہیں۔ ایسے لوگ بھی دوسروں کے ساتھ احتجاج کرتے ہیں اور انہیں قصور و افسوسات ہیں حالانکہ وہ جو کچھ بھی ہوتے ہیں انہیں وہ ایسا بھی کرتے کہ نکد وہ اس روایت کے خادی ہو کچھ ہوتے ہیں۔ وہ لوگ اگر چاہیں تو ایک لمحے میں خود کو تبدیل کر سکتے ہیں زندگی میں ان تمام چیزوں پر غور کریں جن کے لئے آپ ٹھہریہ ادا کر رہے ہیں: آپ کی دوست، آپ کا ساتھی، آپ کے بچے، آپ کی ملازمت، سورج کی رoshni، آپ کی بخت، اجتماعی صفائی، اچھی غذا، آپ کی گاڑی، یہ تمام چیزوں آپ کے لیے خوبی کا باعث ہیں۔ آپ یہ بات دریافت کریں گے کہ آپ کی زندگی میں اور بھی بہت ساری ایسی چیزوں ہیں جن کے لیے آپ ٹھہریہ ادا کر رہے ہیں اور ان کے بارے میں آپ نے آج سے پہلے بھی نہیں سوچا ہے۔

مانے ہیں۔ تاریخ گواہ ہے کہ اس تصاصم کی وجہ سے بہت ساری بھی بڑی جاہلی ہیں، لیکن ہر شخص بہت جلد یہ بات تجول کرتا ہے کہ اس طرح لا ایک بھروسہ اکنادرست نہیں ہے۔ یہ صرف ایک ہی غیر فنا حقیقت ہے، ایک عیسیٰ چوائی ہے۔ جو کہ بہش باقی رہی ہے اور یہ بھی باقی رہے گی۔ چاہے ہم اپنے عقیدے کو مانیں یا پھر دوسرے لوگوں سے اتفاق کریں حقیقت کی تبدیل نہیں ہوگی۔ یہ باتیں ہماری سوچ سے بالاتر ہیں۔ یہ ہماری عقل کی ریاست نہیں ہے کہ کوئی شخص اس حقیقت کو بیان کرے اور بالکل درست مطلق جواب دے کر کہ یہ سب باتیں ہمارے جسمانی ضابطہ قانون سے متعلق نہیں ہیں جنہیں ہم اپنے دنیاوی علم کی بحدود پر بیان کر دیں۔ یہ باتیں ہمارے علم سے بالاتر ہیں پھر بھی یہ باتیں ہم سب کے جگہ میں آتی ہیں، ہم سب خدا کو مانتے ہیں اور اس بنا پر ایک دوسرے سے جسے ہوئے ہیں۔ اس حقیقت کو دینا کے بہت کم لوگ بھی پاسے ہیں کوئکہ دنیا کی سلطنت پر بہت پرستی کیا جاتی ہے، جسے اسی سلطنت میں رہتے ہیں۔

مراقب ہمیں جسمانی طور پر بہت پرکون کر دیتا ہے پھر آہستہ آہستہ ہمارے ذہن کا ایک نقطہ پر دک دیتا ہے جہاں کوئی سوچ نہیں ہوتی۔ مقام روحاںی استاذہ اور صوفیوں کے مطابق یہاں ایک نقطے سے سر اپنے میں جس لکٹے پا چکنے کر غیر فنا ہتی ہے، جہاں پر اپنے کر غیر فنا دیا کی ایک غیر مغلک رکھ کر کے ہیں۔ جب میں نے اس بارے میں پہلی دفعہ ساتھا تو مجھے اس کی کوئی بھی نہیں آئی تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ میں نے اسے کوئی بھوت یا جن سمجھا تھا بلکہ میں صرف اس بات کو کچھ نہیں پایا تھا۔ میرا خالی ہے کہ یہ کیا فوقی الطریقہ ہوا میں اُڑنے والی چیزوں کی طرف اشارہ ہے خواہ آپ اس بات پر یقین رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے۔ لیکن یہ کچھ ایسا ہی ہے جو کہ ہماری سوچ سے بالاتر ہے۔

اگر ہم کامل خاموشی میں بغیر حرکت کیے بیٹھیں تو ہم اپنی حقیقت کے بارے میں دریافت کر سکتے ہیں

ہم نے 42 دن کے جلت کے اس حصے میں اس بات کا تذکرہ اس لیے کیا ہے کیونکہ میں جانتا ہوں کہ ہم سب کا ایک روحاںی حصار ہے اور ہم سب اس سے شکل ہیں لیکن ہم میں سے بہت

چھٹا ہفتہ  
انتالیسوال دن

## زندگی سے بھر لور انداز سے پیو شی

آپ اس دنیا میں محفل زندگی بر کرنے کے لیے نہیں آئے بلکہ آپ اس دنیا کو حربیدہ بہتر، خوبیگوار اور خوبصورت بنانے کے لیے آئے ہیں، لہذا آپ اپنی بصیرت، روش امیدوار کا مایہ ہیں سے دنیا کو خواریں۔ آگر آپ نے اس پیام کو فرماؤش کر دیا تو آپ خود فرمیں اور کنگال ہو جائیں گے۔ ..... وڈر دلکش، امریکی صدر (مہد حیات: 1856ء تا 1924ء)

## زندگی سے مسلک ہو جائیں

اگرچہ ہم سب لوگ اپنی زندگی سے اکیلے ہی گزرتے ہیں لیکن ہم تمہائی میں نہیں رہ جی، ہم سب لوگ اگر انداز سے زندگی کر رہتے ہیں۔ چاہے ہم سب اگر انداز سے زندگی کر رہتے ہیں لیکن ہم پھر بھی قائم دنیا سے وابستہ ہیں اور ایک دوسرے سے جسے ہوئے ہیں۔ دنیا کا قائم نہ اس بکے روحاںی استاد صرف ایک عی خیت کے بارے میں بات کرتے ہیں جس مخفیت نام دیکھے گئے ہیں۔ جن میں سب سے زیادہ استعمال ہوتے والا لفظ ”خدا“ کا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ خدا تعالیٰ کو کائنات کی روشن، پیار، اقتدار اعلیٰ اور شیط ایزدی بھی کہا جاتا ہے۔ مختلف مذاہب سے تعلق رکھنے والے لوگ خدا تعالیٰ کو مختلف ناموں سے پکارتے ہیں لیکن سب لوگ اسی خدا کو مانتے ہیں۔ سبی ایک حقیقت ہے جس کی بنا پر دنیا کے تمام لوگ ایک دوسرے سے بخوبے ہوئے ہیں۔ پھر بھی بہت سارے لوگوں کا جھکاؤ ایک ہی طرف ہے کہ وہ اس بات پر اصرار کرتے ہیں کہ صرف دنیا میں سیکھ جائی ہے جس کو وہ مانتے ہیں یعنی کہ صرف وہی خدا ہے جس خدا کو وہ

میں دو روحاںی استاذہ سے ملا ہوں، وہ فلمزہ زیبی لوگ نہیں تھے لیکن وہ کامل اور قطبی طور پر

عی کم لوگ اس کی جملک دیکھ پائے ہیں۔ آپ کائنات کا ایک حصہ ہیں جب آپ رہ جاتے ہیں تو

دوسرے لوگوں سے مغل کھے۔ ان لوگوں تک بہت زیادہ سروں، ہمدردی اور اسرار پر جان  
تحی۔ وہ کل طور پر اپنے اردو گردی دنیا سے ہم آج ہی تک کل طور پر کون تھے اور سنی وہ  
دولت کے پیچے ہم گئے تھے۔

میرے والد کی جب دفاتر ہوئی تو وہ اس وقت 52 سال کے تھے اور میں اپنے والد کے  
بہت زیادہ قرب تھا۔ جس دن انہوں نے دفاتر پانی تھی تو انہیں کہیں دور لے جایا گیا۔ آخری  
رسومات کے مطابق انہیں تاپوت میں رکھا گیا اور پھر اگلے دن انہیں واپس گمراہیا گیا اور مگر کے  
سامنے والے کرے میں رکھ دیا گیا۔ روایات کے مطابق ہمارے بہت سارے عزیز آئے اور ان  
کی آخری رسومات ادا کی گئیں۔

میں گھر سے کہیں دور گیا ہوا تھا اور ان کی دفاتر کے کافی گھٹوں بعد گھر واپس آیا تھا۔ میں  
اپنے والد کو دیکھنا خیس چاہتا تھا کیونکہ میں جانتا تھا کہ یہ چیز بھری برداشت سے باہر گئی اور میں  
بہت زیادہ پریشان ہو جاؤں گا۔ اس کے باوجود جب میں اس کرے میں گیا جہاں میرے والد کو  
ان کے بھرپور کوشش میں لایا گیا تھا تو مجھے ان کو سمجھتے ہی فوراً یا احساس ہوا کہ وہاں موجود  
کہیں ہیں۔ ہمیں والد کو وہاں موجود نہیں تھے۔ بے شک ان کی زندگی تھی کہ ان کی  
روح ان کے جسم سے فلک کر جائی گی اگر اس بات کو سیدیدہ مناسب الفاظ میں تائیں تو وہ یہ ہے کہ  
وہ اس وقت وہاں پر موجود نہیں تھے۔ بھرپور کے بارے میں بہت زیادہ تھس کرنے کی تائیں  
ان کی دفاتر کے بعد درود پڑیں اس بات کا بہت تم احساس ہوا کہ بھری زندگی میں موجود ہیں۔ مجھے  
دوسرا بیان کی موجودگی کا بہت زیادہ احساس ہوا میں جن بیوقوف پر یقین نہیں رکھتا بلکہ میں نظرت  
کے اصول پر یقین رکھتا ہوں کہ وہ ہمیشہ باقی رہتی ہے اور یہ بھی سمجھی مرتبی نہیں ہے۔

لوگ اکثر اپنے روح کے ساتھی کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ وہ کسی شخص سے ملے  
اور اسی لمحے انہیں اس شخص سے دیکھی کا بہت گہرا احساس ہوا حالانکہ وہ اس شخص کو اس سے پہلے  
جائے نہیں تھے۔ یعنی آپ کا درسرے فضی کی روح سے ہوتا ہے جس کی وجہ سے آپ اس شخص  
سے ملے ہیں اس کے بارے میں جان لیتے ہیں یعنی آپ کا اس شخص سے روحانی تعلق ہوتا ہے۔ یہ  
تعلق خوبصورتی، سرجنے اور دولت کی بنا پر نہیں ہوتا بلکہ یہ تعلق آپ اور اس شخص کے درمیان گہری

® SCANNED PDF By HAMEEDI

ذول کیلیٹے ون اردو کی تکمیل کیا ہے

وہ ظیبات جن سے ہمارا جنم ہاہوتا ہے اور تماز زندگی بتاتا ہے، وہ غائب نہیں ہوتے بلکہ وہ کسی  
نہ کی صورت میں کائنات میں موجود رہتے ہیں۔ شاید یہ ظیبات کی کسی اور جنم کا حصہ بن جائیں یا  
پھر ہواں اُڑنے لگیں میں ہم یہ بات ہست دفعہ طور پر جانے ہیں کہ سائنسدانوں نے مخفی سے  
یہ بات واضح کر دی۔ ہر کہ ہم اپنا جنم ہیں ہیں بلکہ ہماری روح اس جنم میں موجود ہے جو کہ ہماری  
اصل حقیقت ہے۔

اگر آپ کسی حادثے میں اپنی ناگز کوڈیتے ہیں تو پھر بھی آپ پہلے چھے انسان ہی رہتے  
ہیں اس سے آپ کا درجہ ختم نہیں ہوتا۔ آپ کا ذہن اور آپ کی ایجاد کا آپ کے امور رہتے ہیں  
یا آپ کے ذہن کے اندر رہتے ہیں، ان کا کام انسان کی موت کی صورت میں ختم ہوتا ہے۔ اس  
لیے ہم یہ بات قبول کر سکتے ہیں کہ ہم اپنا ذہن نہیں ہیں۔ ہم ”ہم“ اپنا ذہن نہیں ہیں اور عین اپنا  
جسم ہم۔ تاہم ہماری جسمانی زندگی میں ہم اپنی روح، اپنی نظر آنے والی طاقت میں رہتے ہیں  
جو کہ قائم ہے اور بہت باقی رہتے ہیں۔ جب پچھلے نہیں سب سے پہلے آنکھیں کھلاتا ہے اور بہت  
پیارے اپنے والدین سے تعلق قائم کرتا ہے تو اس لمحے اس کے والدین پہلی مرتبہ اس روح کو  
دیکھتے ہیں اور وہ بھی بھرپور نہیں ہے۔

ہم چونکہ روح کو دیکھنیں سکتے اس لیے ہم کسی بھی ماقبل الفطرت چیز کی طرح  
اے نظر انداز کر دیتے ہیں

ہم لوگ ہر روز روح کے ساتھ فلک ہوتے ہیں۔ جب بھی ہم کسی شخص کے ساتھ ہم رہتی  
کرتے ہیں کسی لمحے بہت خوش ہوتے ہیں یا کسی بھی شخص سے ملے ہیں تو اس صورت میں ہم  
روح سے فلک ہوتے ہیں۔ جب ہم کسی شخص سے ملے ہیں اور ملے ہیں میں احساس ہوتا ہے کہ  
وہ شخص بہت اچھا انسان ہے نہہت، وہ بہار اس میں بہت ساری صفات ہیں، ہم اس شخص سے  
ملتے ہی اس کی روح کو بھج جاتے ہیں۔ یہ تمام احساسات روحانی ہوتے ہیں، ان کی بنا پر ہم دنیا  
سے فلک ہوتے ہیں اور درسرے فضی کو جانے تھے۔

193 دولت، بحث، خوشی 42 دنوں کا اعمالی کورس

تو اسے بہت کر ہے۔ پہلے شاہ لوگ روح کے صور میں الجھ جاتے ہیں۔ پس یہ ایک بھروسے کا  
گل ہے۔ یہ کہا کافی ہے کہ اگر آپ بہت سیدھی اور ایمانداری کے ساتھ اس چالی کی حقیقت کو  
ٹلاش کریں آپ اس کو دریافت کر لیں گے۔

یاد رکھیں کہ

آپ اس کائنات یا اپنے اردو گردی دنیا سے الگ نہیں ہیں آپ اس کا حصہ ہیں۔

آن کے دوں

آپ اس بات سے آگاہ ہوں کہ آپ کا اپنی اردو گردی دنیا سے تعلق ہے، آپ اور یہ دنیا  
ایک ہے اور آپ اسی کا ایک حصہ ہیں۔

✿

دولت، بحث، خوشی 42 دنوں کا اعمالی کورس

خفاہت کی بنا پر ہوتا ہے اس تعلق کو بھی ہم مناسب الفاظ میں بیان نہیں کر سکتے۔ پس آپ  
اس بارے میں فور کریں کہ آپ کا اپنی نظرت اور روح کے بارے میں جو بھی عقیدہ ہے، یا ابھی  
نک آپ کو کچھ بھی اس بارے میں جانے نہیں ہیں، آپ نے یہ بھی بھی نہیں سچا ہو گا کہ آپ صرف  
اکیلے ہیں بلکہ ہم سب اپنی روح کے ناتے ایک درسرے سے فلک ہیں۔

آپ چالی پر یقین کریں یا نہ کریں آپ اس کو تبدیل نہیں کر سکتے

میں یہ بات پہلے بھی لکھ کا ہوں کہ آپ خواہ دھاپ اور اپنی روح پر یقین رکھیں یا نہ رکھیں، یہ  
ہاتھ چالی کو بدلتیں سکتی ہے اگر آپ ان پر یقین کر لیں گے تو آپ اپنی زندگی کے تھوڑے کو جبن  
لگوں سے آپ ملے ہیں اسے تو تعلق کو اپنی زندگی کے سچے بات کو اور جو اتفاق اور واقعات  
آپ کی زندگی میں واقع ہوتے ہیں انہیں زیادہ واضح طریقے سے دیکھ سکے۔ اگر دھار  
اور اپنی روح پر یقین نہیں رکھیں گے تو آپ کو اس کا جگہ ادا کرنا ہو گا۔ آپ کا یہاں کیا کوئی اور اپنے  
تجربات کو صحیح طریقے سے نہیں دیکھ سکتیں گے لیکن میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ ان  
چیزوں کو کلے کر دیں ہیں سے دیکھیں، اپنا ذہن کھلا کریں اور روزانہ سراتیکی کی ملن کریں اور خود سے  
سوال کریں اور دنیا کو تباہ کریں کہ آپ کی کچھ باتے ہیں اور پھر انہی چربی بات کی بنا پر یہ فلسفہ کریں کہ  
آپ کے لیے کہاں کام مزدوج رہے گا اور آپ کس طریقے سے کامیاب انسان بن جائیں گے۔

اگر ہم جسمانی دروٹ کرتے ہیں تو ہم جانے ہیں کہ ہم جسمانی طور پر محنت مدد اور مضبوط  
ہو جاتے ہیں۔ ہم جانے ہیں کہ اگر ہم اچھی اور خوبصورت سماں کا فیکٹری ہو تو ہماری بحث اچھی ہوتی  
ہے ہمارا ذہن برقرار رہتا ہے اور ہمارے جسم کی کارکردگی ہر یہ بہتر ہو جاتی ہے۔ یہ آپ کے صور  
کی بہت بڑی چالاگ ہو گی اگر آپ یہ بات تسلیم کریں کہ اگر آپ روزانہ روحانی دروٹ  
کریں گے تو آپ اپنی ذات سے تعلق اور دنیا سے تعلق ہبہت سمجھی گری چالی کو دریافت کر لیں گے  
اور اس جادو کا علم میں بیکن سے شروع ہو گا۔

میں اس بات کو تسلی بخش درجے کی نہیں بیان کر رکھا۔ جس طریقے میں کسی بھی ایسے  
فہم کو نہیں کے بارے میں بیان نہیں کر سکتا۔ کیونکہ الفاظ اسرارنا کافی ہوتے ہیں ایک بھی  
ہے جس کی سادنی تجربے کے ذریعے بیان نہیں کیا جاسکتا۔ کیونکہ یہ ہمارے جسمانی اصول و

بہت زیادہ حوصلہ افزائی کرنا تھا۔

حقیقت یہ ہے کہ ہم رحم و لی، ہمدرودی، پیار اور بخی سے دونوں بھاگ سکتے۔ یہ تمام جیسے ہماری زندگی کا حصہ ہیں۔ 42 دن کے ملٹچ میں بھی یہی تمام باتیں ملاں کے ساتھ ہیں کی گئیں۔

ہر کسی شخص کی زندگی میں ذکر کے مختلف اسباب ہوتے ہیں، ہم میں سے اکثر لوگ کسی نہ کسی پریشانی میں جلا ہوتے ہیں ایک شخص کی تکلیف دوسروں کے لیے بھی ابھن کا باعث ہوتی ہے لیکن آپ کی کامیابی کا تھا خاص ہے کہ آپ وہ طور پر بخی کر رہا شد کہ اس کا پکار کامیاب حاصل کر سکیں۔ کامیابی کے راستے میں بعض اوقات ملکات کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے۔ یعنی لوگ اس وقت پریشانی سے گھر جاتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اپنا مقصد اور اموراً چھوڑ دیں اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ کی جسمی محنت اتنی اچھی نہیں ہوتی جس کا اثر آپ کی سوچ پر بھی کرنا ممکن نہیں ہے لیکن اسی سے آپ کو یہ خیال کرنا چاہیے کہ آپ ایک مضبوط انسان ہیں اور اپنا مقصد بہت آسانی سے پورا کر سکتے گے۔ آپ کے لیے کوئی کام بھی کرنا ممکن نہیں ہے۔

آپ کی خوشی برداشت کرنے کی قابلیت آپ کے تصور سے کہنے زیادہ ہے آپ اپنی سوچ سے بھی زیادہ مضبوط انسان ہیں اس کا پھر آپ کو وجہ چلتا ہے جب آپ کہنا دفعہ کسی رکاوٹ کا سامنا کرتے ہیں اور اپنا کام بھی چھوڑ دتے۔

اس میں کوئی نہیں کہاں کہاں 42 دن کے ملٹچ میں کئی دفعہ بکار دے میں آئے ہوں گے اور آپ نے سوچا ہو گا کہ آپ اسے اور اپنا چھوڑ دیں۔ جب ہم اپنا کام اور اموراً چھوڑ دیتے ہیں تو وہی طور پر ہمیں خوشی ہوتی ہے لیکن بعد میں ہم بہت پچھا تے ہیں کہ اپنا کام کام کمل کر لیتے۔ یہ دنیا کا بہت آسان کام ہوتا ہے کہ ہم کام نہ کرنے کے لئے بہانے ڈھونڈ لیتے ہیں اور اپنا کام اور اموراً چھوڑ دیتے ہیں۔

اگر آپ اپنا کام کی بھی بکار دے میں آکر چھوڑ نہیں ہیں تو ہر دفعہ آپ کا ذہن پہلے سے زیادہ مضبوط ہو جاتا ہے اور آپ کی خود اعتمادی میں اضافہ ہوتا ہے۔ اس طرح سے ہر دفعہ آپ کا ذہنی تصور پہلے سے ثابت اور بہتر سے بہتر ہوتا چاہتا ہے۔

چھٹا ہفتہ  
جلالیسوال دن

## جفاش بننے

”ہر وہ شخص جس میں مختلف حالات جملے کی سکت نہیں اور جفاشی کی صلاحیت نہیں وہ دنیا کی خوشی اور آرام حاصل نہیں کر سکے گا۔“

یہ بودی کہا جاتا ہے۔

جب میری والدہ کی عمر 80 سال تھی تو ان کے دل کا آپ پریشان ہوا تھا، وہ قادر تی طور پر اپنے آپ پریشان کی وجہ سے پریشان تھیں۔ میں جب بھی ان سے ملنے کے لیے پہنچتا تھا تو میری بھی کوئی خوشی ہو جائیں، جب بھی میں ان سے مل کر واپس آ رہا ہوا تھا تو انہیں اپنے بھانپھا کی وجہ سے پریشان ہو جائیں۔ میں جسماں ہوں اور اپنے الفاظ استعمال کروں جن کی وجہ سے وہ غفرنہ کریں کیونکہ میں جسماں ہوں کہاں کوئی خوشی ہو جائیں اسے بھانپھا کر کے اکھڑنا کرتے تھے لیکن میں بھیش بھی کوئی خوشی کرنا تھا کہ یہ بات ان کو ذہن شیش ہو جائے کہ وہ ایک مضبوط اور مطمئن انسان ہیں۔ میں ان کے آپ پریشان سے ایک رات پہلے ان کے پاس گیا اور انہیں کہا کہاب ہم کل میں گے۔

میری والدہ کا آپ پریشان امید کے طبق ہوتا کہ اپنے بھانپھا کو ہوا تھا اور اس کے بعد انہیں وہیں کر کے میں مختلف کر دیا گیا تھا۔ جب میں انہیں ملنے گیا تو وہ کچھ خلائق حال میں تھیں اور بستر پر لیتی ہوئی تھیں کیونکہ ان کا بہت بڑا آپ پریشان ہوا تھا۔ میں نے انے سے کہ آپ پہلے سے بہت اچھی اور بہتر گ رہتی ہیں۔ انہوں نے میری طرف دیکھا اور کہا کہ ”روبن“ میں ایک بہت ہی مضبوط انسان ہوں اور پھر وہ پہنچنے لگیں۔ انہوں نے اگلے کچھ میں تھوڑے تک اس پہنچ کو اپنالیا وہ جب بھی پریشان ہوئی تھیں تو میری طرف دیکھ کر خوشی تھیں چیزے کے وہ کہہ رہی ہوں کہ میں ایک مضبوط اور بلند حوصلے والی انسان ہوں۔ یہ ایک ایسا جملہ تھا کہ وہ جب بھی پریشان ہوتی تھیں تو یہ جملہ ان کی

یاد رکھنے کے  
مضبوط ایک وہی کیفیت کا نام ہے اور آپ وہ طور پر اپنے مضبوط ہیں کہ آپ اس کا تصور میں نہیں کر سکتے۔

آن کے دن  
آپ کو جن ملکات کا بھی سامنا کرتا ہے آپ یہ تین رکھیں کہ آپ کامیابی سے انہیں عور کر لیں گے۔

## ہمیشہ طاقت و رہنمی

میر ایک 50 سال پرانا دوست ہے اسیکی دن اس نے مجھے تیا کر جب وہ سکول پر ملٹا تھا تو وہ اس نے فیصلہ کیا تھا کہ وہ اپنی تمام زندگی محنت مندی سے گزارے گا اور ہمیشہ اپنی محنت کھیل رکھے گا۔ اس نے اپنای مقصد تیا کر کہ وہ اس دن کے بعد سے روزانہ 50 دفعہ اٹک ٹھیک کرے گا اور 50، 50، 50، 50 پیلے گا۔ اس کو جو کام کیا ہے لیکن اس کی جسمی ساخت اسی بھی پھیگی سال کے لوجانوں میں ہے۔

ان تین سالوں میں ایسا ہوتا کہ وہ اسے کسی دن کی وجہ سے درجہ نہیں ملے۔ اسی دن اس کو جس کام کی وجہ سے اسے اپنے دنیا کے ایک مشکل کام ہے۔ اس نے تیا کر کہ وہ اس کام کی وجہ سے دیر سے دیر سے وہیں آتا ہے تو وہ آخری کام بھی کیا رکھتا ہے کہ وہ اپنے میں مسحول کی وجہ سے کرے۔ اور وہ اس بات پر بہت غور ہو گی کرتا ہے کہ وہ سالوں سے اس مسحول پر عمل کر رہا ہے۔ جب میں سوچ آپ پر حادی ہونے لگے تو آپ ہت نہ ہاریں اور اپنا کام اور اموراً چھوڑ دیں۔

آپ کو اس بات پر بہت غریب ہو جاتا ہے کہ آپ نے کامیابی کا تسلیمان سفر طے کیا ہے اور یہ سب اتفاق سے نہیں ہوا بلکہ آپ کی کوششوں سے ہوا ہے۔ آپ نے یہ مدد اوری یہی کی کہ خود اپنی کامیابی کا انشہ بنا کیں گے اور اس پر عمل کریں گے۔ اس کامیابی کے سفر میں آپ نے بہت سفر کا سامان کیا ہے۔

محض اپنی ناکاری کی صورت میں بھی اسی بات کا بھی تاثر انہیں ہوا کہ میں نے صحیح راست نہیں لپیا بلکہ مجھے اس بات کا کبھی کبھار فسوس ہوتا ہے کہ میں نے اپنا کام اور اموراً چھوڑ دیا تھا۔ اب میں نے اس بات کو حتم کیا ہے کہ کامیابی کا انصاف اس بات میں ہے کہ آپ عمل کریں اور کبھی بھی

یہی کام وسیل نہ میں اور کسی بات سے خوفزدہ نہ ہوں۔ میری والدہ اور بہت ساری مذکورے سائنس میں کر آگاہ پڑھت کریں اور مصبوط انسان بنیں تو آپ یقیناً کامیابی سے ہمکار ہوں گے۔

ہم جن باتوں سے خوفزدہ ہوتے ہیں ان میں سے 99 فیصد واقع ثہیں ہوتیں  
وہ کیا تھیں ہیں جن سے آپ خوفزدہ رہتے ہیں؟ شاید ہم سب کا خیال ہے کہ ہم کسی نہ کسی جیسے خوفزدہ رہتے ہیں یا تشیش میں مبتلا ہیں۔ اگر اس بات کا ہماری سے طالعہ کیا جائے تو ہمارا خیال ہے کہ ہم سب لوگوں کے بہت سارے خوف مبتک ہیں۔ میں اس بات کا خوف رہتا ہے کہ ہم نظر انداز کیا جائے ہم اکیلے نہ رہ جائیں، ہم خوش نہ ہوں، ہم بیمار ہوں، ہم غربت سے خوفزدہ رہتے ہیں، ہم خیالی رہتے ہیں، ہم خوش نہ ہوں، ہم غربت سے خوفزدہ رہتے ہیں، ہم خیالی رہتے ہیں، ہم خوبی کے علاوہ بھی کسی خوف میں مبتلا ہوں گے۔ مھکنے خیر بات یہ ہے کہ ہم جن بیرون سے خوفزدہ ہوتے ہیں، ان میں سے 99 فیصد واقع ثہیں ہوتیں یعنی خوف مرف خیالی ہوتے ہیں اور اس سے زیادہ مھکنے خیر بات یہ ہے کہ ہم جن باتوں سے خوفزدہ ہوتے ہیں، ہم جن باتوں سے خوفزدہ ہوتے ہیں اگر ہم ان میں سے کسی صورتخال سے دوچار ہوں تو ہم آسانی سے کام ادا کر لیتے ہیں۔

آپ جن بیرون سے خوفزدہ ہوتے ہیں اگر آپ کو ان کا سامنا کرنا پڑے تو آپ اس بات سے اتفاق ہوتے ہیں کہ آپ اندر وی طور پر بہت طاقتور ہو جاتے ہیں اور ان بیرون سے آسانی سے سامنا کرتے ہیں اور کوئی نہ کر دیں گے۔  
آپ جن بیرون سے خوفزدہ ہیں اگر ان میں سے کوئی بیرونی آپ سے مدد ہے تو ہم آپ سے مدد ہے کہ آپ پر ہرگز حادی نہیں ہو گی اور آپ بہت ہمت سے اس کا سامنا کریں گے۔ آپ کھڑے ہو کر اپنی بہترین قابلیت کے مطابق اس کا سامنا کریں گے۔ آپ جری آگے پڑھیں گے۔ بہت سارے لوگ بہت ہمت سے اپنے خوفوں کا سامنا کرتے ہیں اور پھر انہیں چھرت ہوتی ہے کہ وہ بہت معقول بات سے خوفزدہ ہیں جس پر انہوں نے بہت آسانی سے قابض الی ہے۔

### اپنے خوفوں کو دوبارہ سے تکمیل دیں

آپ اپنے خوفوں پر کیے قابو پاتے ہیں۔ آپ کا خوف جو کچھ بھی ہو آپ کو چاہیے کہ سب

چھٹا ہفتہ

اکٹا یوساں دن

### پریشان نہ ہوں

"تم رحم ہے وہ شخص جسے اپنے خیالات، تصورات اور مفہوم پر یقین کی جائے گا۔ وہ شر ہے۔ خوف اور پریشان کے باعث ہماری ٹھانی صفاتیں تلقی ہو جاتی ہیں۔ لہذا یقین اور اعتماد کا عصر اپنی ذات میں پیدا کیجئے اور پریشان نہ ہوں۔"

..... معلوم و اشور

میرا سب سے زیادہ استھان کیا جائے والا جملہ یہ ہے "فکر مت کریں۔" میں بیہدے اپنے آپ سے اور دوسرے لوگوں سے بھی کہتا ہوں کہ فکر مت کریں۔ فکر کرنے سے ہمارا کوئی کام نہیں ہوتا۔ فکر ہمارے کاموں کو اور ان کے مبنی پر ہوتی ہے۔ فکر کا کسی حد تک قدر تک ہل ہے اور یہ تشویش کا ایک حصہ ہے۔ یا ایک ایسا خیال ہے جو کہ ہمارے توہین میں داشت ہو جائے توہین کے اندر ہی گھوستہ رہتا ہے اور ہم ہمارا اس کے بارے میں سچے سچے رہتے ہیں۔ اس کی وجہ سے ہماری طاقت ختم ہو جاتا ہے۔ ہم کر در پر جاتے ہیں اور مستقبل کے لیے فکر مند ہو جاتے ہیں۔ خوف اور فکر کا آئس میں گمراحتی ہے۔ اگر ہم کی بات کے بارے میں بہت زیادہ فکر مند ہو جاتے ہیں تو ہمارا یہ خوف میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ یہ ہماری محنت کے لیے بہت افسوس ہے، اس کی وجہ سے ہماری قابلیت کم ہو جاتی ہے۔ ہم اپنے ارادگرد کے ماحول سے لفظ اندر ڈھین ہو پاتے۔ چائے، کافی، الکوال اور سکرپت بدترین میں ہیں۔ ان بیرون سے ہم کر در پر جاتے ہیں اور ہمارا ہو جاتے ہیں۔ ہم وقت سے پہلے بوڑھے ہو جاتے ہیں۔ اس لیے فکر اچھی کیفیت نہیں ہے۔ ہمیں اس سے نسبت کی پوری کوشش کرنی چاہیے۔

جانیں، ان لوگوں سے نکل کر یہ جو اس صورتحال سے دوچار ہیں، ان کی زندگیں کی کہانی پڑھیں۔ آپ جن بیرون سے بھی خوفزدہ ہیں کہیں تو کوئی شخص اس سے دوچار ہوا ہو گا اور اس سے باہر کل آیا ہو گا۔ آپ ان بیرون سے کے بارے میں ہتھا زیادہ جانتے جائیں گے آپ کی خود اعتمادی میں انتہا زیادہ اضافہ ہوتا جائے گا اور آپ کا خوف دور ہوتا جائے گا۔

میں اکثر مذاق میں یہ بات کرتا ہوں کہ میں بلندی سے خوفزدہ ہیں ہوتا بلکہ اس بات سے خوفزدہ ہوتا ہوں کہ میں بلندی سے بخیج گر جاؤں۔ میں اس بات کے موقعِ ذمہ دار ہتا ہوں کہ میں اپنے خوف کو دوبارہ سے تکمیل دیں۔ اگر میں بلندی سے خوفزدہ ہوں گا تو میں ان لوگوں سے نکل کر یہاں گا جو کہ عمر کے باہر کی طرف کام کرتے ہیں یا جو لوگ پہلوں پر بچتے ہیں ان لوگوں سے بات چیز کروں گا۔ حتیٰ کہ میں پھوٹی چانوں پر بچتے ہیں کی لوگوں کو دیں گا اور پھر مجھے پاٹے ہو گا کہ برا خوف اخたانے کے جس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ پھر میں یہ بات ایمانداری سے کہہ سکوں گا کہ میں نے اپنے خوف کو پس پشت وال دیا ہے اور میں اس کی حقیقت سے اتفاق ہو گیا ہوں۔

### اپنے نامعقول خوفوں سے آگاہ ہو جائیں

چیزیں کہ آپ 42 دن کا چیختن تکمل کرنے جا رہے ہیں، میں یہ چاہوں گا کہ آپ اب ان بیرون سے کارے میں معمولی جن کی وجہ سے آپ اپنے اور اپنے تعلیم کے لیے بڑا ہیں۔ آپ اس بات سے رافت ہوں گے کہ کچھ خوف مقول ہیں جو کتنے وجوہات پر ہیں۔ خلا

سے پہلے اسے دوبارہ تکمیل دیں۔ سب سے پہلے آپ نے اپنے خوف کو زہن میں تکمیل دیا تھا پھر آپ اس کے بارے میں مسلسل سوچ رہے اور سوچ سوچ کرے اسے ایک بڑی حقیقت سمجھ لیا جس سے اب آپ بچتا چاہیے ہیں۔ آپ نے شاید ایسا سوچے کہجے بخیر کیا ہے اس لیے اب آپ کو خود رہت ہے کہ اسے دوبارہ سے تکمیل دیں۔ سب سے پہلے ہمیں اس بات کی تشقیش کرنی چاہیے کہ ہمارے توہین میں خوف کی باتیں کی وجہ سے آیا ہے۔

شاید آپ کو تجھن میں یہ تباہیا گیا ہو کہ آپ کو بڑے ہو کر ملامت نہیں لے گی تو آپ کے پاس اپنا گھر نہیں ہو گا اور آپ اکیلے ہو جائیں گے۔ آپ کو شاید یہ بھی تباہیا گیا ہو کہ اس طرح سے آپ کو کوئی پسند نہیں کرے گا اور آپ سے شادی نہیں کرے گا۔ لیکن حقیقت سوچ سمجھ ہماری ذات کے تعلق اور ہمارے مستقبل سے تعلق ہیں کی سال پلے تاں جانیں ہیں جو کہ ہمارے لیے توہین کا باعث تھی ہیں اور اس کا تجھیہ ہوتا ہے کہ ہم ان کی وجہ سے ہر وقت فکر مند رہتے ہیں اور سوچ رہتے ہیں۔ جن بیرون سے پہلے آپ کا کوئی سبھی ہمیں اپنے ذہن میں نہ بخدریں۔ آپ کو اگر تجھن میں ایسا تباہیا گیا ہے کہ آپ کو کوئی پسند نہیں کرے گا اور یہ بات آجائی ذہن میں بیٹھنے کی وجہ سے آیا ہے تو آپ کے ذہن میں یہ بات بچھ دے۔ اس کی وجہ سے آپ اس تکمیل میں ہم کہا ہو جاتے ہیں کہ شاید یہی فحش مجھے پسند نہ کرے یا مجھے پسند نہ کرے۔ اس کی وجہ سے آپ کے دوسرے فحش سے تعلقات ختم ہو جاتے ہیں۔

اپنے خوف دوبارہ سے تکمیل کریں اور ان کی بھگتی بھگواری اور قیمت سوچ کو دیں۔ ہم حقیقت اور عقد کے کوڈو مارہ سے تکمیل کر کرکے ہر دوسرے کو اکٹھتے ہو گئے۔

سوتہ سوپ یا سیف بڑا سوتے ہے اور سوچنے کا انتہی ہے یعنی سوچنے سے بارے میں طور پر گزندہ ہوتا ہے جو کہ ہمارے اختیار سے باہر نہیں۔ لیکن ہر وقت ان چیزوں کے بارے میں نہ سوچنی کو نکلہ ہمارے لس میں نہیں ہیں۔ اس کی وجہے ان دوسرے خوف کا تجھیہ کریں جن کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ جیسے کہ آپ الگ اس خوف میں جلا ہیں کہ آپ ابھی انہیں نہیں ہیں آپ آپ پیار کے قابل نہیں ہیں، لیکن آپ کو نظر انداز کریں گے آپ بے گھر ہو جائیں گے وغیرہ وغیرہ۔ آپ کے پاس ان بالتوں کی کوئی شہادت نہیں ہے کہ اسیسا واقعہ ہو جائے گا۔

آپ گلرمٹ کریں۔ بہیش خوش رہیں کیونکہ گمراہ خوشی دونوں ایک ساتھ نہیں رہ سکتے۔

® SCADA  
ناؤں  
کیلیٹے  
ون  
اردو  
کے  
شکر  
گزار  
3

صیحت یہ کہ آپ اپنے خوفوں کا سامنا کریں اور جس چیز سے آپ خوفزدہ ہیں اس کا تجھیہ کریں اور اسے واقع ہونے دیں پھر آپ کی یہ بات معلوم ہو جائے گی کہ یہ بات اتنی برقی نہیں ہے۔ آپ بلاوجہ اس سے خوفزدہ ہو رہے ہیں۔

آپ کو یہ بات پتا چلے گی کہ اس خوف کی کوئی حقیقت نہیں ہے بلکہ یہ صرف آپ کی سوچ ہے وہی کیفیت ہے۔ میں آپ کو یہ مشورہ نہیں دے رہا کہ اگر آپ کو لوگ کے پیچے آنے کا خوف ہے تو آپ جائیں اور اس کے پیچے آ جائیں۔ یہ بات اہمیتی احتجاج ہے۔ میرا یہ تقدیم ہے کہ اگر آپ غربت نڑک کے جانے نہیں، سلطان یا اس حکم کے کسی بھی خوف میں جلا ہیں تو آپ کو ان کے پاسے میں جزیہ معلومات حاصل کرنی چاہیے۔ ان کے واقع ہونے کے امکانات کے بارے میں

### چھٹا ہفتہ بیالیسوال دن

## قوت

”ہم میں سے زیادہ طاقتورہ شخص ہے جس کو اپنی ذات پر کمل اختیار حاصل ہے۔“

..... سیکھ کا ہر دنی فلاح اور سیاستدان (عہد حیات: ۵۵ تا ۶۰ تاں اربع) چیز کے 42 دن کا جعلی ختم ہونے والا ہے، مجھے پورا لینے ہے کہ اس جعلی کے دوران آپ مختلف جذبات سے گزرے ہوں گے اور آپ نے اس سے بہت بچ کر کھانا ہو گا اور آپ اس کے ہوئے سبقت سے مستقبل میں بہت قائدہ اٹھائیں گے۔

آپ نے اس جعلی میں ہر روز اپنی ذات میں پکارا رہا کیا ہو گا کہ آپ اس ہفت پر بھرپور طریقے سے عمل کریں گے۔ آپ نے شوریٰ کوشش کی ہو گی کہ اس جعلی کی شرکت کر کے اپنے خواہد کو حقیقت میں بدل دیں۔ ہر سماں آپ کے پاس یہ چنان تھا کہ آپ اس جعلی کے دوران آپ یا اور اچھوڑ دیں یا پھر اسے اور اچھوڑنے کا کوئی بناشہ خوشنہ نہیں۔ آپ کافی ملے کمل طور پر آپ کے اپنے اختیار میں تھا اور آپ کو پوری طاقت حاصل تھی۔ آپ اس پر عمل کریں یا نہ کریں۔ ہم اکثر طاقت کا غلط مطلب لیتے ہیں اور اسے جسمانی طاقت اور روحی طاقت سمجھ دیتے ہیں۔ جبکہ ہماری ذاتی طاقت میں یہ چیز شامل ہے کہ ہم اس قابل ہونا چاہیے کہ ہمارے خیالات اور مغل اخراجی میں ہم اپنی زندگی کی ذمہ داریاں اٹھانے کے قابل ہوں۔ ہم مخفی زیادہ ذمہ داریاں اٹھائیں گے اور خود کو اپنے لس میں رکھیں گے، اتنا ہی زیادہ ہمیں اپنی طاقت کا اندازہ ہو گا۔

® SCANNED PDF By HAMEEDI  
ناؤں  
کیلیٹے  
ون  
اردو  
کے  
شکر  
گزار  
3

پانزہ رکھیں کہ  
ٹکر کرنے سے کوئی مسئلہ حل نہیں ہوتا، آپ جب بھی گزندہ ہوں تو خود سے بھی بات کہیں  
کہ آپ کی ٹکر درور ہو جائے گی۔

## آن کے دن

اپنے خوفوں کا تجھیہ کریں اور اگر ان کی تائید کرنے کی کوئی شہادت نہیں ملتی تو ان کو دوبارہ تکمیل دیں اور ان کی جگہ بشت سوچ کو دیں۔



مثال لیں جو کہ کہہ دیا ہے کہ اسے کھانا پکانا کیمک کہا ہے، رات کو کھانے کی تربیت لے کلائے یا بازار سے الگ و پیچ پوری سکائے ہے جس میں پکانے کا طریقہ سمجھایا جاتا ہے۔ بازار میں کھانا پکانا سکھانے کی کتابیں بھی عام طبق ہیں جن کے ذریعے کھانا پکانا کھانا کھائی جاتا ہے لیکن اس خوف کے لیے یہ بات کوئی اہمیت نہیں رکھتی وہ اصل میں یہ سکھنا ہی نہیں چاہتا جس کے لیے وہ بہتر ڈھونڈ لیتا ہے۔

آپ زندگی کیسے گزارتے ہیں، یہ بات آپ کے اپنے اختیار میں ہے۔ یہ ہماری اپنی پسند ہوتی ہے کہ ہم اپنا ہر دن کیسے گزارتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ اپنے مقدار پر قبیر مرکوری رکھیں اور اس کے لیے روزانہ جلد جهد کریں۔ میں بہت افسوس کے ساتھ یہ بات کہوں گا اور یہ زندگی کی حقیقت لیکن کہ اگر لوگ آسان راستے کا اختیار کرتے ہیں اور انہا کام اور مرا چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ آسان طریقہ ہے کہ آپ بھلک راستے کو چھوڑ کر آسان راستے کا اختیار کرو۔ لیکن اگر آپ اس طریقے سے دوسرے لوگوں پر بھروسہ کرنے کے طریقے سے

® BY HAMEEDI  
ناؤں  
کیلیٹے  
ون  
اردو  
کے  
شکر  
گزار  
3

ہمیشہ خود مختار سوچ رکھیں اور اپنا ہر کام خود کرنے کی عادت ڈالیں

پے شارلوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہ ہر کام کے لیے دوسرے لوگوں پر بھروسہ کرتے ہیں، بھرپور طور پر یہ کہ اپنے لوگ ہر کام دوسرے لوگوں کے مطابق کرتے ہیں جیسے کہ وہ خوفوں جانے کا انس کیا کرنا ہے۔ یہ عادت انسان میں جب بنتی ہے جب بچنے میں ہی اس کے والدین اس کا ہر کام خود کرتے ہیں، اس کا تجھیہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ہمیں سمجھ کر اپنے کا انس خود سے تمام کام کیسے کرنے ہیں۔ ایک حامی مثال ہے کہ ماں کا کافی ہے کی لے سکتے ہیں۔ میں بے شمار ایسے لوگوں سے ملا ہوں جنہیں کھانا پکانا نہیں آتا۔ انہوں نے بھی یہ سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی ہوئی اور جب ان سے اس بارے میں پوچھا جائے تو وہ کہتے ہیں کہ انس کھانا پکانا نہیں آتا۔ اس کے تجھیں میں وہ دوسرے لوگوں کا آسرا ڈھونڈتے ہیں کہ وہ انس کھانا پکانا کر دیں آتا۔ ظاہر ہے کہ انس کھانا پکانا ریسٹوران میں جاتے ہیں یا مارکیٹ میں جاتے ہیں تاکہ انس کھانا پکانا سکے۔ ظاہر ہے کہ انس کھانا پکانا ایک سادی مثال ہے۔ لیکن اگر آپ اس طریقے سے دوسرے لوگوں پر بھروسہ کرنے کے طریقے سے

کا آنے کریں جس میں آپ کو بہت سارے کام کرنے ہیں اپنی زندگی پر خلط حاصل کرتا ہے اور زندگی میں کی مقاصد حاصل کرنے ہیں یا ہمارے آپ بستر پر سوئے رہیں اور کوئی کام بھی اوقات مقرر کے مطابق نہ کریں تو زیادہ تر لوگ سوئے رہنے کو ترجیح دیں گے۔ کیونکہ وہ اپنے مقصد کے بارے میں نہ سوچتے ہیں اور سعی میں اس لیے وہ سوئے رہنے کو ترجیح دیتے ہیں۔ اس طرح سے آپ کی زندگی میں انہاچھے بچے اٹھتے کا اور مقصد حاصل کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں تو آپ ہر دن کام کریں گے جو کہ آپ کا لوپنے کے مقصد کے قریب لے جائے گا وہ اس آپ پر بخوبی رہتے ہیں گے۔ یہ آپ کی اپنی پہنچ ہے کہ آپ کس راستے کا تھا کہ کام کرنے کے لیے ہم اس طبق رہتے ہیں۔ یہ بہت آسان طریقہ ہوتا ہے کہ آپ کی اپنی پہنچ میں آپ اپنے آپ کو دوقری ہارے ہوتے ہیں۔

ایک دن پلا خرچ میں حقیقت کو تسلیم کر لیتے ہیں، ہم ہال مول کرتے کرتے بڑھتے ہو جاتے ہیں، ابھی بھی بہت دیر نہیں ہوتی آپ خود کو تبدیل کر سکتے ہیں لیکن ہم بعض اوقات میں بہت دیر کر دیتے ہیں۔

© SCANNED PDF

جائزہ میں اپنے وورا اس بات ۵ ہو جاتے ہیں لیوں زندگی میں سادہ پہلووں بوسی ہاگمنی مشکل سمجھ لیتے ہیں۔ اگر ہم اس طرح کی چھوٹی چھوٹی باتوں پر توجہ دیں تو مستقبل میں ہم بڑی مشکلات کا آسانی سامنا کر سکتے ہیں۔

طااقت آپ کی بہت دھوٹلے کی بیانیں ہیں بلکہ یہ ہماری قوت ارادی اور ذاتی خلیط کو ظاہر کرتی ہے۔ اس طرح سے کوئی بھی بھس سے پہلے جما گناہیں سکتا ہے بلکہ پہلے بینداز اور آہستہ آہستہ چلانا سمجھتا ہے، اسی طرح ہم لوگ اپنی زندگیوں میں پہلے دوسرے لوگوں کا سامنا رکھتے ہیں اور جب ہم کو کوئی طاقت درہ جاتے ہیں تو ہم ہم خود بخوبی سارے کرنے ہیں اور اپنے قائم کام خود کرتے ہیں اور میں ہماری اصل میں طاقت ہوئے کی وجہی ہوتی ہے۔ یہ بات اہم ہے کہ ہماری ایک سوچ ہوئی چاہیے نہ کہ ہم ہربات میں دوسروں کی تائید کریں۔ دوسرے لوگوں کے نظر یہ پر عمل کرنے کی وجہے ہماری ایک آزادانہ سوچ اور راستے ہوئی چاہیے۔

جب ہم کسی بیچنے کے بارے میں سوچتے ہیں تو ہماری سوچ کے تینے میں دوسرا خیال جو ہمارے ذہن میں آتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ”کامیابی سوچ“ میں بدلی جائے ہے۔ اس کا جواب یقیناً ہاں میں ہی ہو گا لیکن ہم میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں جو کامیابی سوچ کو میں میں تبدیل کرتے ہیں۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا کام بخیگل کیے ہیں اسی وجہے کا یہ سوچ بالکل غلط ہے۔ اسی غصہ کی

#### 207 دولت، بحث، خوشی 42 دنیوں کا عملی کورس

سوچیں گے بثت ہوں کریں گے اور بثت نکل کریں گے۔ یہ تام بانی آپ کی پسند پر اڑا کا عاد اور ہوتی ہیں کہ آپ کس کام کا اختیاب کرتے ہیں۔ اگر آپ کا ذاتی تصور بثت ہے تو آپ یہ خال کریں گے کہ آپ اس قابل ہیں کہ آپ کو میابی حاصل کر سکتے ہیں اور آپ اس کامیابی کے سخت ہیں۔ اس طرح سے آپ کا کردی میں اضافہ ہو گا۔ اگر آپ کا ذاتی تصور بثت ہے تو آپ اپنے آپ کو بھی تاکیں گے کہ آپ فانیہا کام ہوں گے اور اس کے تینے میں آپ کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑے گا۔

اپنے آپ کو اپنا بہترین دوست سمجھیں اور اپنے بارے میں ایسے سوچیں اور اپنے ساتھ ایسا روپیانا کیں جیسا کہ آپ اپنے بہترین دوست کے ساتھ اپنائتے ہیں اور اس کی رفتاق میں بہت لطف اٹھاتے ہیں۔

پس یہ بات بہت آسان ہے کہ آپ خود کے ساتھ اپنے بہترین دوست جیسا رہا کریں۔ اگر آپ خوبیوں سے اور اپنی ذات کے مختلف پہلوؤں سے واقف ہیں تو آپ کو اس بات کا علم ہو گا کہ وہ کوئی خوبیاں میں جو آپ خود میں دوسرے فیض کی نظر سے دکھس تو آپ انہیں پاپند کریں گے۔ اس طرح سے آپ پہلے شوری طور پر اپنی سوچ کو تبدیل کریں گے اور ہم اپنے عمل کو تبدیل کریں گے۔

یہ حقیقت ایک آسان کام ہے۔ یہ بہت آسان کام نہیں ہے کہ آپ اپنی تمام زندگی کی پرانے عادات کو تبدیل کریں لیکن یہ بہت مشکل کام بھی نہیں ہے، آپ یہ کام خوبی کی کوشش سے کر سکتے ہیں۔

آپ کی ذاتی طاقت جو کہ آپ کو اس قابل ہیاتی ہے کہ آپ ایک کمل اور کامیاب انسان بن جائیں، یہ آپ کو سکھانی نہیں جاتی بلکہ یہ آپ کے اندر قدرتی طور پر موجود ہوتی ہے، آپ اکثر اس بات سے واقف نہیں ہوتے۔ اس طاقت کی وجہ سے آپ کو خود پر خلط حاصل ہوتا ہے اور آپ کو پہنچا چاہیے کہ آپ نے اس زندگی کے سفر سے کیے گزرنا ہے۔ اس لیے آپ کی بھی لمحہ کامیابی کے موقع کو تھہ سے نہ جانے دیں اور بھیساہ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ زندگی کو بھر پر طریقے سے گزاریں تاکہ آپ کو بھی بھی زندگی میں کسی بات پر بھی بچھتا واتہ ہو۔

#### 206 دولت، بحث، خوشی 42 دنیوں کا عملی کورس

ہم اپنی ذاتی طاقت کی بناء پر ہی کوئی بھی کام سر انجام دیتے ہیں

کسی بھی کام کرنے کے لیے آپ کا ارادہ ملتا ہے مثبوت ہو گا اور آپ اپنی سوچ کو میں تبدیل کریں گے، آپ اپنی عی زندگی کا ملیاں ایسا حاصل کر سکتے ہیں کہ اور اپنی حدیث کامیاب ہوں گے۔ مجھے ہی آپ میں یہ تبدیلی آئی جاتے ہیں کہ آپ کی قوت ارادی میں اضافہ ہو جاتے ہیں، اس اضافے سے آپ کی خود احادیث میں اضافہ ہو گا اور اس کے تینے میں آپ کی قوت ارادی اور اطاقت میں ہر یہ اضافہ ہو جاتے ہیں، آپ کے تینے میں اضافہ ہو گا اور کارکردگی بھی بہتر ہو جاتے گی۔ اس کے برکس جب آپ اپنے مقدمہ کے لیے ہدود جھوٹیں کرتے اور عمل نہ کرنے کے بہانے ڈھونڈتے رہتے ہیں، اس سے آپ کی خود احادیث میں کی آئی جاتی ہے اور آپ کی طاقت میں ہر یہ اضافہ ہو جاتا ہے۔ آپ کا اپنی ذات سے تینیں اور اعتماد ہوتے ہیں اسی وجہ سے آپ کو جیسا ہے۔ آپ کا اپنی ذات سے تینیں اور اعتماد ہوتے ہیں اسی وجہ سے آپ کو جیسا ہے۔ آپ کے برکس کے لیے دوسروں کے سہارے ڈھونڈتے رہتے ہیں کہ وہ آپ کا مقدمہ حاصل کرنے میں آپ کی مدد کرے اور آپ کو تباہ کرے کہ آپ قابل تقدیم ہیں۔ بلا خرچ آپ خود کو قیراہم اور کمزور ہوں گے۔ کہنے لگ جاتے ہیں۔ میرا مصدقان تام بااؤں سے آپ کو پریان کرنا نہیں ہے اور دو یہی میں یہ بات جانتا ہوں کہ آپ کی طاقت اور قوت ارادی میں اضافہ ہو رہا ہے۔ آپ اپنے مقدمہ سے قریب تر ہوتے جا رہے ہیں لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ اس بات سے واقف ہوں گے کیا آپ واقعی ترقی کر رہے ہیں یا پھر آپ اپنے مقدمہ کی خلاف سمت جا رہے ہیں۔ آپ اپنی ذات میں تبدیل کریں، اس سے آپ کی خود احادیث میں اضافہ ہو گا اور آپ کے اس احساس میں اضافہ ہو گا کہ آپ بہت طاقتور انسان ہیں۔

آپ اپنے آپ سے ایسا بہتا و کریں جیسے کہ آپ اپنے بہترین دوست ہیں کیا آپ خود کو پسند کرتے ہیں؟ یہاں شاید آپ کو اس جھنچے میں کیا ہو گئے ہیں، لیکن یہاں بہت اہم ہے۔ اس سے یہاں ٹھیک کہ آپ اپنے بارے میں کیا ہوں گے اور آپ اپنے بارے میں کیا ہوں گے کہنے کریں۔ آپ اپنے بارے میں کیا ہوں گے کہنے کریں، اس بات کا اثر آپ کی تاثیل اور کامیابی کی سلسلہ پر بہت زیادہ ہوتا ہے۔ اگر آپ کا اپنی ذات سے متعلق تصور اچھا ہے تو آپ اپنے بارے میں بہت

#### 209 دولت، بحث، خوشی 42 دنیوں کا عملی کورس

دوست، بحث، خوشی 42 دنیوں کا عملی کورس

#### 208 دولت، بحث، خوشی 42 دنیوں کا عملی کورس

یاد رکھیں کہ

طااقت صرف ہنی اور جسمانی طاقت تک محدود نہیں ہے اور نہ ہی مالی طور پر محکم ہوتا ہے، اس سے مراد یہ بھی ہے کہ آپ کا اپنی ذات پر کمل طور پر خلط حاصل ہو اور آپ اپنے ہر کام اور اس کے اختیاب کی ذمہ داری کو قبول کریں۔

آج کے دن

EDI  
نوال

## حصہ سوم

- مراقبہ، وجدان اور تصور
- چھ مفہومیں کا غذائی پروگرام
- آسان گھر بیوی و روزش
- اب آپ کو کیا کرتا ہے؟

کیلیٹے ون اردو کے شکر گزار پیلی  
® SCANNED PDF By HAMEEDI

آپ خود سے موال کریں کہ آپ نے کس راہ کا انتخاب کیا ہے اور کیا یہ راستہ آپ کو آپ کے مقدمے پر جا رہا ہے یا آپ کو آپ کے مقدمے پر درکار ہے۔

دولت، محنت، خوشی 42 دنوب کا عملی کورس 211

☆ اپنے ذہن کو ساکن کر دیں اپنا دھیان صرف اپنی سانسوں پر دیں کہ آپ اپنی سانس اندر لے جاتے ہیں اور کب باہر نکلتے ہیں۔ اپنے ذہن کو خالی کر دیں اور کسی چیز کے ہاتھے میں بھی نہ سوچیں۔ آپ کے ذہن میں اس کے علاوہ اور کوئی خیال نہ ہو کہ آپ سانس لے رہے ہیں۔ اس کے علاوہ کوئی بھی سوچ آپ کے ذہن میں داخل نہیں ہوئی چاہیے۔ اگر کوئی سوچ آپ کے ذہن میں داخل ہو تو اس پر توجہ نہ دیں اسے کھلانے کی وجہے آپ صرف اپنی سانسوں پر توجہ دیں۔

☆ جب آپ سانس اندر کی طرف لے جاتے ہیں اور باہر نکلتے ہیں تو آپ مراقبہ کے ان پہلووں کو خالی کر کتے ہیں جو کہ آپ کے لئے بہت فائدہ مند ہاتھ ہوں گے اور میں آپ کو جو یہ رکھتا ہوں گا کہ آپ مراقبہ کے تابع میری بہتر بناتا چاہتے ہیں تو آپ اپنا ضرور کریں۔ آپ جب سانس اندر کی طرف لے جائیں تو بہت خاموشی سے بثت سوچ سوچیں اور جب سانس باہر کی طرف خالی وسیلے کے پرکش کمی ہوئی ختنی سوچی کو سوچیں اور پھر مدد و ہدایت کیلیات حسوس کریں:

میں محنت سے سانس لے رہا ہوں ..... خوف کو باہر نکال رہا ہوں	میں کون کے ساتھ سانس لے رہا ہوں ..... تو خوشی کو باہر نکال رہا ہوں
میں خوشی سے سانس لے رہا ہوں ..... ادا کی کو باہر نکال رہا ہوں	میں محنت کے ساتھ سانس لے رہا ہوں ..... پیاری کو باہر نکال رہا ہوں
میں دلتوں کے ساتھ سانس لے رہا ہوں ..... غربت کو باہر نکال رہا ہوں	میں احتیاط کے ساتھ سانس لے رہا ہوں ..... غلیق و شہادت کو باہر نکال رہا ہوں
جب یہ مل کرنے کے بعد آپ جسمانی طور پر سکون ہو جائیں تو وہی طور پر سکون ہونے کے لیے لگتی ہیں۔	اپنے ذہن میں آستھا ہست 10 سے لے کر 1 تک الگی گتی ہیں اور ہر دفعہ خود سے بھی کہیں کہ آپ پہلے سے زیادہ پر سکون ہو رہا ہوں۔
10، 9 زیادہ سے زیادہ پر سکون ہو رہا ہوں۔	8، 7 گھر اور گھر پر سکون ہو رہا ہوں۔
6، 5 میں پہلے سے بھی زیادہ پر سکون ہو گیا ہوں۔	

دولت، محنت، خوشی 42 دنوب کا عملی کورس 210

### مراقبہ، وجدان اور تصور

42 دن کے چلتی کے پہچھے جو بنیادی اصول ہے، وہ حقیقی کوون اور بالطفی پاکیزگی ہے۔ آپ مراقبہ اور تصورات کی ٹھیک کے ذریعے اس چلتی کو زیادہ کامیابی کے ساتھ مکمل کر سکتے ہیں۔ اگر آپ مراقبہ اور تصورات کی مشق کریں گے تو آپ بہت جلد ہی اس چلتی کے فائدہ حاصل کر لیں گے۔ میں آپ کو ایک سادہ اور آسان کام بتاتا ہوں جو کہ آپ کو ہر روز 20 منٹ کے لیے کرتا ہے اور یہ کام مراقبہ اور غلیق تصور ہے۔ 42 دن کے آخر میں مجھے امید ہے کہ آپ مراقبہ کے فوائد سے بھی لفڑ اندوز ہوں گے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ مراقبہ میں مزید کامیابی حاصل کریں تو آپ اسے اپنا معمول بنا لیں۔

### 20 منٹ مراقبہ کا معمول

روزانہ دن کے پہلے گھنٹے میں آپ نے 20 منٹ مراقبہ اور اپنے مقدمہ کا تصور کرتا ہے اور اگر آپ چاہیں تو آپ ایسا دن میں دو دفعہ بھی کر سکتے ہیں۔

میرے علم میں مراقبہ کی جو سادہ صورت ہے وہ یہ ہے کہ

☆ آپ ایک ایسی جگہ کا انتخاب کریں جہاں آپ تنہا اور خاموشی سے بینے ہوں۔ آپ سیدھے ہو کر کسی پر نہیں، اپنے ہاتھ اپنی گوشی کو دیں سمجھی یا پھر اپنی ہاتھوں پر رکھیں۔ ☆ سب سے پہلے آپ تمام خیالات اپنے ذہن سے نکال دیں، آپ کرنے سے باہر کی تتم کی اواز پر دھیان نہ دیں اور شعی و قلت گزرنے کی طرف دھیان دیں کہ 20 منٹ گزرے گے میں یا کہیں گزرے۔

☆ اپنی آگہیں بند کریں اور سانس لیں اور جب آپ سانس اندر کی طرف لے کر جائیں تو اس پر دھیان دیں اور پھر سانس باہر نکال دیں۔

213

دولت، محنت، خوشی 42 دنوب کا عملی کورس

دکھنیں اور خود کو ان مناظر میں تصور کریں جو کہ آپ حاصل کرنا چاہیے۔  
☆ آج ہم اپنے مستقبل کا تصور کر رہے ہیں اس سے ذہن کی آگہی سے ان کا مامانی

دولت، محنت، خوشی 42 دنوب کا عملی کورس 212

314 گھر اور گھر پر سکون ہو گیا ہوں۔  
315 اب میں کھل طور پر سکون ہو گیا ہوں۔

پسے مخاطر کو درہ رکیں۔ اینی کامیابی کی تصور و پیشیں اور جب آپ صورت ختم کر کے مراثیت کی مشق کریں گے تو آپ کے ذہن میں کوئی شوری سوچ نہیں ہو گی اور آپ پہلے سے زیادہ پر سکون ہو جائیں گے۔

☆ جب آپ صورت کی مشق ختم کر کے مراثیت شروع کرنے لگیں گے تو آپ اپنی موجودہ صورت حال میں دامن آجائیں گے۔ اس کے بعد آپ نے 1 سے لے کر 10 تک گنتی لگتی ہے اور خود کو متاثرا ہے کہ آپ پہلے سے زیادہ باخبر ہوتے جا رہے ہیں۔

1.2 میں اپنے اور دگر سے زیادہ باخبر ہو گیا ہوں

3.4 زیادہ چکس ہو گیا ہوں اور موجودہ لمحے میں رہتا ہوں۔

5.6 میں بکل طور پر اور دگر سے آگاہ ہو گیا ہوں۔

7.8 پہلے سے بہت زیادہ باخبر ہو گیا ہوں۔

9.10 میں بکل طور پر موجودہ لمحے میں رہتا ہوں۔

یہ بات زیادہ اہم تھیں ہے کہ آپ بہت درست الفاظ استعمال کریں، بہتر یہ ہے کہ آپ مراثیت سے بہت آہستا اور آسان طریقے سے باہر نہیں۔

آپ جب تکی میرجہ مراثیت کریں تو آپ کو سکنی پڑتی اور اپنے ذہن سے تمام خیالات کاٹاں دیتا ترقیتا نہیں گے۔ آپ کا ذہن تمام زندگی سوچتا رہا ہے، مصروف رہا ہے اور کبھی خاموش نہیں رہا۔ یہ بات بہت ضروری ہے کہ آپ اپنے ذہن کو خاموش کریں کیونکہ مراثیت میں جب تما را ذہن خاموش رہتا ہے تو اسی صورت میں ہم اپنے دل کی آوازیں سمجھتے ہیں۔ اسی صورت میں ہم اپنے تحت الشور کو اپنے مختبل کا پروگرام دے سکتے ہیں ہماری تحت الشور پر گرام کو اور دگر کائنات کے ساتھی ضلک کر دیتا ہے۔

جب میں کافی گہرائی اور توجہ سے مراثیت کرنا ہوں تو مجھے اپنے اندر بہت زیادہ طاقت گھومنے ہوتی ہے اور میری بصیرت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ مراثیت اور تصور کے ذریعے آپ اپنے مقاصد کو

اگر آپ اپنی بھی ایسا گھومنے کر رہے ہیں کہ آپ بکل طور پر سکون نہیں ہوئے اور آپ کا ذہن ساکن نہیں ہوا تو سانس کی دریش اور دریش اور 1 سے 1 کم دبارہ گفتگی تھیں، آپ جب بھی پر سکون ہونا چاہیں گے پر دلوں چیزیں آپ کے لیے بہت مددگار ثابت ہوں گی۔

آپ بکل طور سے پر سکون ہوئے تو آپ دبارہ سے دلوں چیزیں کریں۔ یہ مراثیت کا ابتدائی طریقہ ہے جو کہ بہت سادہ ہے اور اس طریقہ کو کرنے میں صرف 3 مدت لگتے ہیں۔

### اپنے مستقبل کے مقاصد کا تصویر کریں

☆ جب آپ مراثیت کر رہے ہوئے ہیں تو اس وقت آپ اس کیفیت میں ہوتے ہیں کہ آپ بہا اسلامی تصورات کی مشق کر رکھتے ہیں۔

☆ جب آپ مطہن اور بکل طور پر سکون ہو جائیں تو ہم آپ اپنے مستقبل کا تصویر کریں۔ اپنے ذہن کی آنکھ سے اپنے مقاصد کو دیکھیں، آپ ان تمام مقاصد کی تصویر ہیں کیوں جو کہ آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں خدا کو، چونکہ یہ بارے آپ ان مقاصد کا صرف مثالہ ہی نہیں کریں بلکہ اپنے ذہن میں یہ تصویر ہیں کہ آپ کا تحریر کر رہے ہیں۔ اپنے ذہن کی آنکھ سے ان تحریرات کا مشاہدہ کریں اور اپنے ذہن میں ان کی اتنی واضح تصویر ہیں کہیں جیسے کہ آپ وہاں موجود ہوں۔

☆ جب آپ مستقبل کے لیے ذہن میں تصور بنارہے ہوں جو آپ حاصل کرنا چاہتے تو آپ جلوں کو دہرائیں جیسے کہ میں اپنے مقدمہ کی طرف بڑھ رہا ہوں، میں اپنا مقدمہ حاصل کرلوں گا۔ ہمیشہ الفاظ استعمال کریں اور ایسی مختلک کریں جس سے اس بات کی قدمیت ہو کے آپ بہت ملٹھن ہیں اور اپنے کامیابی کے حوالے سے بہتہ امید ہیں۔

☆ آپ جو بھی کامیاب حاصل کرنا چاہتے ہیں، اپنے تحت الشور ذہن کو دہ مذاقر

## چھ ہفتوں کا غذائی پروگرام

42 دن کے چھ ہفت کا ساتھی اصول یہ ہے کہ آپ نے بازار سے ڈبوں میں بند کمانے کی اشیاء فیض کیاں اور سبھی رستوران میں جا کر کھانا کھانا ہے۔ اس کی وجہ بہت واضح ہے کہ ہمارے جسم 2400 سالوں میں نشوونما ہے۔ ہمارا نظام ختم کرنا خدا کا عادی ہے اور یہ بچل، بزری اور اس طرح کی تمام سادی خروارک میں سے زیادہ غذائی ہضم کرتا ہے۔ بازار کی اشیاء پختکانی سے بھر پر ہوتی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے نظام ہضم کو بھی متاثر کرتی ہیں۔

بچل 50 سے 100 سالوں میں ہم نے دیکھا ہے کہ جو کچپیا ڈبوں میں بند اور اس قسم کی آرام دغا تیار کرتی ہیں جنہیں کھانے کے لیے بہت آسانی سے تباہ کیا جاتا ہے اور یہ میں کو تو صرف تباہ کرتا ہے۔ ان اشیا کی بہت زیادہ مٹاکیں کی جاری ہے اور مٹی و پرانی میں بھی ایسے بہت سارے اشیاء کو کھانے جاتے ہیں۔ اس قسم کی غذائی میں سب سے زیادہ استعمال ہوئی والی عنین اشیاء مٹی اور پختکانی ہے۔

ہم دراصل بہت سادہ ٹکنیق ہیں۔ ہماری سو گھنٹے اور کھانے کی حص اور بصارت کو چھیزیں تا کوارکری ہیں، انہیں ہضم کرنا ہمارے جسم کے لیے شکل ہوتا ہے۔ جنگلی جانور پختکانی والی خروارک شوق سے کھاتے ہیں کیونکہ انکا جنم اس خروارک کا ذخیرہ کر لیتا ہے اور سرد علاقوں میں ان جانوروں کو زندہ رہنے کے لیے یہ چیزیں دکارہوتی ہیں۔ وہ اسکی خروارک کا کمی زندہ رہ سکتے ہیں۔

لیکن آپ جنگلی جانور نہیں ہیں اور سبھی آپ نے کتنی بند جگہ پر سوکم سرما گزارنا ہوتا ہے، لیکن ہمارے دریئے سے اس بات کا پتا چاہا کر کے ہمارے آباد اچھا و پختکانی سے بھر پر گذاشت شوق سے کھاتے ہیں۔ ان تمام کھانوں میں بھلکی اور چکنائی کا استعمال بہت زیادہ ہوتا ہے اور ہماری کم عقلی ہے کہ تم اسکی غذا کو پسند کرتے ہیں جو کہ ہماری بلاکت کا باعث تھا ہے۔ یہ چیزیں آہستا کر کیں ہیں لیکن یہ بات تیزی ہے کہ ہماری زندگی کو کم کر دیتی ہیں۔

دوست، محنت، خوشی 42 دنوں کا عملی گھومنے  
زیادہ واضح دیکھتے ہیں اور اس دوران آپ جو کام بھی کریں گے، وہ آپ کے مراثیت اور تصور کی  
نیایاد میں شامل ہو جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ مراثیت اور تصور آپ کو اس قابل ہیں کہ آپ  
کامیابی کے لیے بھلکی اور سکنی اور کھانے کے عادات تبدیل کرنا چاہے کر لیں۔

اگر آپ ہر یہ کامیاب ہونا چاہتے ہیں اور اسی تکنیک سے کھانا چاہتے ہیں تو آپ کے متأخر مزید  
بہتر ہو جائیں تو اس کے لیے آپ کو جو کامیاب کو جو مراثیت اور تصورات کی مشقیں تباہی ہیں  
انہیں زیادہ درہ رکیں، جتنا زیادہ آپ ان مشقوں کو درہ رکیں گے، آپ کے متأخر اسے  
عی بہتر ہوتے جائیں گے۔



217 دولت بحث خوشی 42 دنون کا عملی کورس

بہتر ہو جائے گا آپ خود کو بہت طاقتور گھوسی کریں گے اور اگرچہ آپ بیان ہو جائیں تو بہت جلد تصورست ہو جائیں گے۔

میں اپنا انسان نہیں ہوں کہ جو قدرتی طور پر سادہ خدا کو پسند کرتا ہوں، لیکن یہاں مسئلہ سادہ یا چنانی والی خدا کا نہیں ہے بلکہ آپ کی محنت کی بات ہے۔ اس لیے آپ کو چاہیے کہ آپ اپنا غذا اور ادوات کو بہت سادہ اور بہت بخوبی پر تیزی کریں جو کہ آپ کی بینا پر کارکردگی کا بہت بخوبی ہے۔ پر ہمیزی خدا سے لوگ بہت غلط مطلب لیتے ہیں وہ بخوبی میں کافی سادی چاہیے۔ چیزیں کہ انہوں نے لوئی خلائق کام کر دیا ہے کہ ان کا وزن زیادہ، ان کی محنت اچھی نہیں ہے، اس لیے وہ ہمیزی کھانا کھانے لگے ہیں۔ لوگ اکتوبر کو شش میں قید ہوئے کی طرح تصور کریں کہ اس طرح جیل میں اپنا پسند کر کی کی کافی سادی کھانا کھانے کے لیے میرا خیال ہے کہ پر ہمیزی کھانے سے سراوی پیش ہے کہ آپ اپنا ذات کی اچھی کریں بلکہ اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنا ذات سے اور اپنا غذائی ادوات سے واقف ہوں۔ اس لیے آپ پر ہمیزی کھانے کو براحت بخصل۔ یہ بات زیادہ اہم ہے کہ آپ اپنا محنت کا خیال رکھیں اور وہ غذا میں نہ کھائیں جو آپ کی محنت کو تقصیان پہنچائیں۔

### اچھی غذائی ادوات اپنا کیں

اس خیال کا حصہ آپ کی ذات کی نہیں ہے بلکہ آپ کی ذات سے آگہ کرنا ہے۔ ہمیزی مخصوصیت یہ ہے کہ یقینی تکمیل ہونے کے بعد آپ تمام نعمتی پسند کی خدا کا نہیں بلکہ میں آپ کی حوصلہ افزائی کروں گا آپ بخوبی میں ایک دن اپنا پسند کی خدا کا نہیں ہیں۔ مثلاً پڑا، برگ اور جیسی جو جو ایسی اچھی کھانے کا خیال پسند کر رکھیں۔

میں نے غذائی مخصوصیت سے پہلے اس پارے میں بہت خور کیا ہے۔ میں نے مختلف غذاوں کا تجربہ کیا ہے ان کا سائنسی جواب لے گئی مطالعہ کیا ہے اور پھر آپ کے لیے 42 دن کا غذائی مخصوصیت تجربہ کیا ہے۔ اس میں نے کلور یو کی یا کسی اور چیز کی یا نہیں کی بلکہ اس میں محنت منڈا وغایت سے بھر پور غذا کا تجربہ کیا ہے یہ غذائی مخصوصیت میں آپ کے لیے تاریکی ہے لیکن اگر آپ کو اور غذا کمانا چاہیے ہیں تو کوئی 42 دن کے غذائی مخصوصیت کے مطابق ہوتا ہے اور آپ اپنا کھانا کھانے کی طرف ہو تو آپ وہ غذا کی کھانے کی طرف ہوئے اور آپ کی کارکردگی میں اضافہ ہو۔

کی محنت کو بہتر بنائے اور آپ کی کارکردگی میں اضافہ ہو۔

® SCANNED PDF By HAMEEDI  
ناول کیلئے ون اردو کے قلم کنزار ۳۵

216 دولت بحث خوشی 42 دنون کا عملی کورس

آپ کو ہمیشہ سادی اور طاقتور خوار کی جانبی چاہیے جو ہمارے جسم کو تقویت دے اور ہمارے جسم کے تمام ظاہموں کی کارکردگی کو بخوبی ہے۔

### تقصیان پہنچانے والی بڑی تمن اشیا

اب ہم دوبارہ سے ان تمن اشیا کا تذکرہ کریں گے جو کہ ہماری محنت کے لیے تقصیان ہے۔ جگنی کی زیادہ مقدار استعمال کی جائی تو اس کے بے شمار تقصیانات ہیں۔ اس کی بڑے تقصیانات میں سے ایک دانت بٹٹا اور در اور ایک بیس کامیش بہت بڑہ چکا ہے۔ امریکہ میں مٹاپا دبائی اراضی کی طرح بہت زیادہ بھیں چکا ہے۔ اسی طرح سے ویاپس کے سرینہوں میں بھی ہر سال اضافہ ہو جا رہا ہے۔

بہت زیادہ تک کا استعمال ہماری محنت کے لیے اچھا نہیں ہے۔ 1970ء میں اس بات یہ تحقیق کی گئی ہے جس سے یہ بات ثابت ہو گئی تھی کہ بلکہ فارخون کی ایک بڑی جمیلہ کا زیادہ استعمال ہے۔ ہم جو بھی قدرتی پھل کھاتے ہیں اس میں تک ہم کامیکس قیود و انتہا بھر جاتے ہیں۔ اس کے باوجود آپ جب بھی کسی رسیتوران میں کھانا کامیکس قیود و انتہا بھر جاتے کے لیے تک کا زیادہ استعمال کرتے ہیں۔ چکنی کی تقدیق اقسام ہیں۔ سب سے زیادہ مطریاں کو ہم ہے جس کی تکمیل میں کولشہل شامل ہوتا ہے۔ یہ دل کے امراض اور مٹاپے کا سبب بنتی ہے۔

میں نے یا میں ون خیال کو اس طرح دفعہ کیا ہے کہ کیا آپ کی زندگی پرورہ مالی امداد سے اثر انداز ہو، آپ کی زندگی میں بھیس کے لیے تبدیلی آجائے اور اپنی ذہنی، جسمانی اور روحانی کارکردگی بہتر بنائے۔ آپ کی جسمانی محنت، آپ کی مقدار اور ورزش سے بہت ہوتی ہے۔ اگر آپ اپنا محنت کی بھتی ہے تو اس بات کی تقدیق اقسام ہیں۔ چکنی کی تقدیق اقسام ہیں۔ کیونکہ آپ کی اچھی بخوبی کے لیے کامیکس قیود و انتہا بھر جاتے ہیں۔ اسی طرح اسی قیود و انتہا سے بہت ہوتی ہے اور آپ اپنا غذا کی وجہ سے تکلیف اٹھاتے ہیں۔ کیونکہ آپ اپنے بخوبی کے لیے کامیکس قیود و انتہا سے بہت ہوتی ہے اور آپ کی اچھی بخوبی کے لیے کامیکس قیود و انتہا سے بہت ہوتی ہے۔ آپ کا احیاز زندگی آپ اس بات کو نہیں جانتے کہ اگر آپ اپنا غذا پر تجویزی کی تبدیلی تو آپ کا احیاز زندگی

219 دولت بحث خوشی 42 دنون کا عملی کورس

کھانے میں یا لوپیا اور خلک میوہ جات کھانے تھے ہیں تو اس کے کھانے کے کافی گھنٹوں بعد سکھ آپ کو بخوبی نہیں گئی۔

☆ بخوبی جب کے گوشت: مرغی کا گوشت، چوپلی کا گوشت، چکنیا یا گوشت کا گھنٹوا، ان غذاوں میں پور غنی مولاد، زیک، بہت زیادہ مقدار میں پائے جاتے ہیں اور یہ دن کم کرنے میں مدد دیتے ہیں کیونکہ کاربو بھائیزیر ہے تک نہیں کھانے کے بعد کھائیں۔ آپ 42 دن کی تلفظ غذاوں میں سے اس کا تھاپ کر سکتے ہیں تاکہ آپ ایک عی غذا سے بورہ ہو جائیں۔ اس میں محنت منڈا وغایت کی تیاری کی ضرورت کا تھاپ کر سکتے ہیں تاکہ آپ ایک عی غذا سے اکانہ جائیں۔ اس میں محنت منڈا وغایت اکی آٹھا قائم تیاری کی گئی ہے۔

☆ چوپلی، چارہ، پھل، بتازہ سبزیاں، بتازہ گوشت، مرغی کا گوشت اور قائم تازہ غذا میں کھانے کے بعد غنیمہ۔

☆ جہاں تک ممکن ہو سکے ممکن اور غنیمہ سے نبی ہوئی خدا کا نہیں بلکہ بغیر بالائی اور چنانی کے دودھ میں۔

☆ سفید آنکھ کا نہیں، مکمل طور پر اناج کھائیں۔

☆ پیخوری گئی میٹ میں سے خوارک کا خیرہ کریں۔

### آپ کی محنت افراغ خدا کی آٹھ اقسام

☆ سبزیاں۔ خاص طور پر سبزیاں یہ بھاپ میں کپی ہوئی، امیلی ہوئی، بھنی ہوئیں یا خالی ہزارہ سبزی کی بھی صورت میں کھائی جاسکتی ہیں۔ سبزیوں میں بہت زیادہ دنامی پائے جاتے ہیں اور یہ آپ کو دن کی ضرورت کے مطابق بہت زیادہ غذا میں سے بہت زیادہ سبزی ہے۔

☆ زیتون کا تحلیل: نیچے کر کے کو وجہ حرادت میں نہیں جاتا اس لیے آپ کے جسم کے اندرونی پانی کی طرح چالا رہتا ہے۔ دوسرے قائم تحلیل کر کے کو وجہ حرادت میں بھی جم جاتے ہیں۔ کیا آپ تصور کر سکتے ہیں کہ وہ آپ کے جسم کے اندرونی کی طرح نظر آتے ہوں گے، نیچے وہ آپ کے جسم کو تقصیان پہنچاتے ہیں۔ آپ بھیز کھاؤں میں نہیں کھانے کا تھل کر سکتے ہیں اور

218 دولت بحث خوشی 42 دنون کا عملی کورس

### 42 دل کا غذائی مخصوص

☆ اس کا راز ہے کہ آپ تھوڑا تھوڑا کر کے دن میں چھوڑ پہنچ کے میں۔ صبح ناشتا کریں دن کے درمیانی حصے میں کھائیں، دوپہر کا کھانا کھائیں۔ شام کے وقت کچھ کھائیں، رات کا کھانا کھائیں اور رات کے کھانے کے بعد کھائیں۔ آپ 42 دن کی تلفظ غذاوں میں سے اس کا تھاپ کر سکتے ہیں تاکہ آپ ایک عی غذا سے بورہ ہو جائیں۔ اس میں محنت منڈا وغایت آٹھوائی میں پائی گئی ہے۔

☆ چھوپلی، چارہ، پھل، بتازہ سبزیاں، بتازہ گوشت، مرغی کا گوشت اور قائم تازہ غذا میں کھانے کے بعد غنیمہ۔

☆ جہاں تک ممکن ہو سکے ممکن اور غنیمہ سے نبی ہوئی خدا کا نہیں بلکہ بغیر بالائی اور چنانی کے دودھ میں۔

☆ سفید آنکھ کا نہیں، مکمل طور پر اناج کھائیں۔

☆ پیخوری گئی میٹ میں سے خوارک کا خیرہ کریں۔

### آپ کی محنت افراغ خدا کی اقسام

☆ سبزیاں۔ خاص طور پر سبزیاں یہ بھاپ میں کپی ہوئی، امیلی ہوئی، بھنی ہوئیں یا روٹس کی بھی صورت میں کھائی جاسکتی ہیں۔ سبزیوں میں بہت زیادہ دنامی پائے جاتے ہیں اور یہ آپ کو دن کی ضرورت کے مطابق بہت زیادہ غذا میں شال کر سکتے ہیں۔

☆ کم چنانی والی دنامی میں سے آپ کی بھی صورت میں کھائی جاسکتی ہیں۔ دوسرے میں بہت ساری دنامی پائے جاتے ہیں اور یہ آپ کو دن کی ضرورت کے مطابق بہت زیادہ غذا میں شال کر سکتے ہیں۔

☆ نیچے وہ آپ کے جسم کو غیر محدود بنا نے والا بہت زیادہ سبزیاں میں نہیں کھانے کا تھل کر سکتے ہیں۔ یہ آپ کے جسم سے

® SCANNED PDF By HAMEEDI  
ناول کیلئے ون اردو کے قلم کنزار ۳۵

رخون کو سلاو کی چاٹ کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ اس میں دنامن ای بہت زیادہ مقدار میں پالا جاتا ہے جو دل کے امراض سے بچتا ہے اور آپ کے فشارخون کو بڑھتے نہیں دیتا۔ اس کے کمانے کے کافی گھنٹوں بعد انک آپ کو بہوک نہیں لگتی۔

کولیشورول کی مقدار کم کرتے ہیں۔ ان میں غذائی ریش کافی مقدار میں موجود ہوتے ہیں جو آپ کو سارا دن اتنا بھی کرتے رہتے ہیں۔ جب آپ انہیں کھاتے ہیں تو اس کی کافی دریجہ تک آپ کے فشارخون کی سطح کو کچھ رکھتے ہیں۔ آپ اگر دل پر کا ایک بیالہ

221

دولت، محنت، خوشی 42 دنون کا عملی کورس

- آپ سبب اور ایک کنودی کے پیالے میں باریک کاٹ کر لیں۔

### 6 دن کے درمیانی حصے کے لیے بھلی غذا میں

اس میں سے منتخب کریں:

- دواں بیام
- ایک سبب ایک ملاٹ
- 4 اونص بندھ
- ایک گاجر
- 8 اونص کی چینی پھل کا مار
- تازہ بیزی یا سلاو کے پتے
- 4 اونص کم چکنائی والی دیوی

### 6 دوپہر کے کھانے میں

اس میں سے منتخب کریں:

- سلاو کے چینی کے پیشہ وری اور چینی اور چکنائی کا ایک چھپا گلرا۔
- مرغی اور ڈبل روٹی کا ایک گلرا بندھ گوئی، ٹھاٹ اور کم چکنائی والی سیو خدھ۔
- ایک ہولی بیرونی کا سیو خدھ
- ستر بیرونی کا سوچ اور انداخ کی ڈولی۔
- بھنی ہولی چینی کا سلاو۔
- ایک ہولی سیری اور چینی۔
- چکن یا شدوخ ساتھ پیاز، ٹھاٹ اور سیو خدھ۔

### 6 شام کے لیے بھلی غذا میں

اس میں سے منتخب کریں۔

- دواں بیام کا کوئی اوسیہ جات
- 4 اونص بھنی ہولی سیریاں

دولت، محنت، خوشی 42 دنون کا عملی کورس

220

☆ انداخ کی کنی ہوئی اشیاء: اس میں بہت زیادہ ریش موجود ہوتے ہیں جو کہ آپ کے انسو لین کی سطح کرتے ہیں آپ کے جسم میں چکنائی کو خود نہیں ہونے دیتے۔ کیونکہ اس کے لیے ضروری غذا ہے۔

☆ سخت چکلوں والے میوه جات: اس میں بادام، اخوت، پستہ وغیرہ شامل ہیں۔ ان میں دھان، پروٹین اور چکنائی کی کافی مقدار شامل ہوتی ہے۔ یہ بھی زخمن کے تل کی طرح آپ کے لیے اتصان وہ نہیں ہے۔ اگر آپ ایک میٹھی بادام میں کھانے والے میوه جات کے لیے بھرپور کھانا کریں۔ آپ کو دل کے امراض میں نثارتہ ضرور شامل کرنا چاہیے یہ آپ کے جسم کے لیے ضروری غذا ہے۔

☆ شایری، رس، بھری: یہ آپ کو دل کے امراض میں جھاؤنے سے بچائیں۔ یہ آپ کے لیے بھرپور خدا ہے۔

یہاں آپ کو فرد کی فہرست دی گئی ہے آپ ان میں سے اپنی پسند کر کے اداختاً کر سکتے ہیں۔ اس فہرست میں سات جم کے ہاشمیہ جم کے دن کے درمیانی حصے کے لیے کھانے والے میوه جات کا دوپہر کا کھانا، سات جم کے شام کے کھانے، سات جم کے رات کے کھانے اور سات جم کے رات کے بعد کے لیے کھانے موجود ہیں۔

### مکمل ناشتا

اس میں سے منتخب کریں:

- دلی کا پالی ٹائپ بالائی کے دودھ کے ساتھ، ٹھنڈا چنج اس پر بادام پیس کر دوال لیں۔
- ایک اٹا اپال کر اور ساتھ ایک میٹھا ڈکٹ ڈبل روٹی کے سلاو میں رکھ کر کمائیں۔
- ٹھنک میوه جات کا ایک بیالہ رات کو دو دھنیں ہمکو ڈین اگرچا ہیں اس کو گرم کر سکتے ہیں۔
- اس میں آدھا گلکاٹ کر دوال لیں۔
- تین انڈوں کی سفیدی کا آٹیٹھ بائیں اس میں زدھی بڑا اس میں شرمومڈا اس اور ٹکھا ساز چون کے ٹھن میں اپال کر ایک ڈبل روٹی کے سلاو کے ساتھ کمائیں۔
- ایک دلی کا یالہ اس میں شایری اور ایک کیلہ کاٹ کر دالیں۔
- ایک ہنخانا ہوا کوشت کا گلرا ایک ایسا ہوا اٹا اور ایک ڈبل روٹی کا تو۔

223

دولت، محنت، خوشی 42 دنون کا عملی کورس

ہیں۔ اس کے علاوہ آپ جنم امرضی پانی نہیں اور تازہ بیزیاں کھائیں، لیکن تہک والے میوه جات برگار و شربت وغیرہ سے پر ہیز کریں۔

ستیک سے اصول میں مراد غذا کی تھوڑی مقدار ہے جو کہ آپ کی بھوک کو کم دیتا ہے۔ میرے خیال میں ستیک کے مقدار صرف اتنی ہوئی چاہیے کہ آپ کے ہاتھ کی مٹی میں پورا آجائے۔ ستیک دن کے بڑے کھانوں کے درمیانی و قلچی میں کھانے چاہیے۔ آپ کو ستیک بھی بھی پیٹھ بکر کر نہیں کھانے چاہیں۔ اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ آپ تھوڑا احتوا کر کے دن میں کئی دفعہ کھاتے جائیں گے تو یہ غلط ہے۔ آپ دبھیں گے کہ آپ کی بھوک کی خواہ میں کم ہو گی ہے اور آپ کی غذائی عادات تبدیل ہو گئیں۔ آپ اکثر بے وقت آنکھ کریم اور چاکلیٹ کھانا جاہنے ہوں گے لیکن یہ بات آپ کے غذائی منشوے میں شامل نہیں ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ ایک ٹلامن بن گئے ہیں جو کہ اپنی مرضی سے کھانی نہیں سکتا بلکہ آپ ایک ایسے انسان ہیں جس کی برہ عادات اس کے کنٹرول میں ہے۔ یہ غذائی منشوہ آپ کو اس قابل ہائے گا کہ آپ اپنی محنت افر ہا اور متوازن غذائے آگاہ ہو جائیں اور آپ متعلق میں اپنے لیے غذائیت سے مفر پور غذا کا انتخاب کریں۔



دولت، محنت، خوشی 42 دنون کا عملی کورس

222

- ایک سبب ایک کنودی
- 4 اونص کم چکنائی والی دیوی
- کم چکنائی والی دیوی ساتھ انناس کے چکلے
- ایک چونخا کیلا
- 8 اسٹبریاں

### رات کے کھانے

اس میں سے منتخب کریں۔

- 4 اونص گوشت ساتھ بھنی ہولی بیزیاں
- بھنی ہولی چینی، سلاو کے پتے، مٹاٹا اس اور سرکلا کر کھائیں۔
- چکن بر گرہ مٹاٹہ، سلاو کے پتے، کم چکنائی والی دیوی ساتھ میٹھی ہولی شرمومڈا۔
- بھنی ہولی چینی (میکرل) ساتھ سلاو اور ٹلامن۔
- چکن کا سلاو ساتھ کم چکنائی والی دیوی
- بھنی ہولی چینی ساتھ بھنی ہولی سلاو
- بھنی ہولی چینی (میکرل) ساتھ چامچا جو ہر ٹھاٹ اور بندھ گئی۔

### رات کے کھانے کے بعد کے لیے بھلی غذا میں

اس میں سے منتخب کریں:

SC 6 3

- بخش بالائی کے 10 اوس وردوہ ساتھ رہ جا لیکیت۔
- تازہ بہریوں کا سالاد ساتھ بینی چکنائی کے دعی۔
- بخش بالائی کے دودوہ اور ساتھ کیلا۔
- دی میں اشایہ بیڈائیں۔
- آدھا شربوہ وقیہ یا اشایہ کے ساتھ۔
- کم چکنائی والی آنکھ کریمیا کوئی سماں بھی شربت۔
- دو اوس نکل بیدہ جات۔

آپ سارے دن میں اس کے علاوہ جزی بخشنی سے چال کرہ جائے یا تھوڑی سکتے

دولت بحث، خوشی 42 دنون کا عملی کورس

وغور رشی مرکز جاتے ہیں یا آپ روزانہ پہلے طبی ہیں یا آگر آپ نے کوئی بھی ایک عادت پبلے سے ہی انہار کی ہے تو آپ اپنی اس عادت کو اس ورزش پر ترجیح دے سکتے ہیں۔ انہم باتیں یہ ہے کہ آپ روزانہ ورزش کریں مگر آپ کوئی خاص جسم کی ورزش کریں۔ میں نے آپ کو ورزش تائی، وہ اس صورت میں تائی ہیں کہ آگر آپ پہلے سے اپنی جسمانی صحت کے لئے کچھ بھیں کر رہے تو آپ ہروزش اپنا سکتے ہیں، یہ بہت سادہ ورزشیں ہیں اور آپ با اضافی گھر میں بھی کر سکتے ہیں۔

### روزانہ ورزش بہت ضروری ہے

آپ کو روزانہ ورزش کرنی چاہے۔ ہر روز میں چاروں آپ کو دل اور خون کی شریانوں کے لیے ورزش کرنی چاہے۔ اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ روزانہ میں منت تحریر قارے سے چلیں یا آپ اس کی جگہ جو مگک بھی کر سکتے ہیں۔ ورزش کرتے ہوئے آپ بلے قدم اٹھانے کی کوشش کریں اور اس کے لیے بہترین وقت جمع کا ہے۔ اس بات کا خالی رکھیں کہ یہول چلے کے دوران آپ اپنی گھنٹو کو جاری رکھیں۔ اگر آپ چلنے کی یا جانک کے دو دن بات چلتی نہیں کرتے تو اس کا مطلب ہے کہ اس شروع کے مرحلے میں دہا دوستا کا دکھاریں۔ بخوبی کے باقی دن میں چاہتا ہوں کہ آپ طاقت اور تاثی کی تربیت ہوا ہے۔

لذات کی تربیت یہ ہے کہ آپ کے ا حصہ اسے مختسب ہو جائیں کہ ان میں مراحت کی قوت پیدا ہو جائے۔ اب آپ کے لئے کسی بھی مچھ کا مقابلہ کرتے ہیں تو وہ حسینہ و نما پاتے ہیں اُن کے لئے کوئی صلاحیت زیر بہتر ہو جاتی ہے۔ آپ زیادہ تو انہی استعمال کرتے ہیں اُن اور آپ کی مذاقہ زیادہ اور طریقے سے آپ کے جسم میں بندب ہوتی ہے۔ جب آپ ورزش کمل کر لیتے ہیں تو آپ کے جسم سے چھٹائی کم ہو جاتی ہے اور آپ پہلے سے زیادہ مختسب ہو جاتے ہیں۔

تحفیں سے یہ بات ثابت ہوئی ہے کہ جب آپ طاقت کی تربیت لیتے ہیں اور ورزش کرے ہیں تو آپ کے جسم کی چھٹائی کم ہو جاتی ہے اُن کا فشار خون کم ہو جاتا ہے آپ کی غذا زیادہ جزو بدن بھی ہے اور اس طریقے سے آپ بہت بدلی دیں کہ ورزش کرنے میں اور صحت مدد ہو جاتے ہیں۔ ورزش نہیں اس قابلہ بھاتی ہے کہ ہم اپنے پہلوں کو بہتر کر کے اپنی جسمانی ساخت کو بہتر بنالیں۔ آپ کو یقین کرنے کے لیے آپ کو بہت زیادہ صحت نہیں کرنی پڑے گی۔

SCANNED PDF By HAMEEDI  
ناول کیلئے وہ ارادہ گھر کا

دولت بحث، خوشی 42 دنون کا عملی کورس

224

## آسان گھر میلوورزش

آپ صحت افزائی منصوبے پر بخشی بھی تھی سے مل کریں آپ تدریجی میں ہو سکتے۔ آپ کو کمل بلوہ پر صحت مند ہونے کے لیے غاذی عادات کے ساتھ ساتھ ورزش کی عادت بھی اپنائی پڑے گی۔ تدریجی اسی صورت میں حاصل ہو گی جب آپ اس کے لئے کوشش کریں گے۔ یہ ہار لوگ ورزش نہیں کرتے اس لیے ان کی جسمانی کارکردگی ایک بہری نہیں ہوتی جیسی ہے ورزش کر کے بہتر ہاتھے ہیں۔ جسمانی صحت پر تدریجی زیادہ وقت کے لیے اور بہتر طریقے سے کر سکتے ہیں اور وہ اپنے جسمانی تعلیم کے اساتذہ اسی سخت ہوئے ہیں کہ ہم تدریجی سے غلام مطلب لے لیتے ہیں اسی تدریجی زیادہ ورزش کرنے کے لیے جو ہم یہ سچے ہیں کہ ورزش کرنے کا ہمیں بہت اچھا صلسلہ ہے، ہماری جسمانی اور روحی صحت بہت اچھی ہو جائے گی بلکہ ہم یہ سچے ہیں کہ ورزش کرنے میں بہت زیادہ وقت صرف ہوتا ہے اور آپ بھک جاتے ہیں۔

آپ جو ورزش بھی کرتے ہیں وہ آپ کو فائدہ پہنچائی ہے۔ آپ جتنی زیادہ ورزش کریں گے اتنا ہی زیادہ فائدہ حاصل ہوگا۔ اگر آپ اپنی غاذی عادات اپنائیں گے اور ساتھ ورزش بھی کریں گے تو اس طبقہ کا آپ کو بھرپور فائدہ پہنچ گا۔ آپ کی جسمانی اور روحی کارکردگی میں بہت زیادہ اضافہ ہو گا۔

میں آپ کو غذا کے ساتھ جو ورزش تمارا ہوں، آپ کی صحت بھی بھی ہو، آپ اس سے قائم نظر اس ورزش کو کر سکتے ہیں۔ آپ بہاں لئیں گی ہیں، اگر آپ کا وزن زیادہ ہے، آپ کی عمر پوچھا سال ہے آپ یہ ورزش ہمایہ سانی کر سکتے ہیں۔ آپ جتنی زیادہ ورزش کریں گے اتنا ہی زیادہ فائدہ حاصل کریں گے۔

میں اس جسمانی صحت میں ایک بات اور شامل کرنا چاہتا ہوں۔ آگر آپ بخوبی میں دیا گئی

دولت بحث، خوشی 42 دنون کا عملی کورس

بات یہ ہے کہ آپ صحیح طریقے سے ورزش کریں ہاں تک آپ کے پہنچے گھوڑا کا فکارہ ہوں۔ آپ جب آلتی پاٹی مار کر بینتی ہیں تو ایک اندازے کے مطابق اس طرح بینتے ہیں آپ کے 240 پچھے استعمال ہوتے ہیں۔ اس طرح سے آپ زیادہ تو انہی استعمال کرتے ہیں اُن اور آپ کے جسم سے چھٹائی کم ہوتی ہے۔ ورزش اس طرح ترجیب دی گئی ہے کہ آپ ایک منٹ میں اس کے معیار اور مقدار کو پڑھا سکیں۔ آپ جب مکلی دفعہ ورزش شروع کریں گے تو شاید آپ ایک منٹ میں صرف ایک دفعہ کر سکیں یا کوئی ایک ہی ورزش کر سکیں لیکن یہ بات اپنی انہیں ہے، اُنہم بات یہ ہے کہ آپ کوشش کر رہے ہیں اُن دوں دن کے پہنچ کو پڑھ کر رکھ رہے ہیں۔ اگر آپ ایک منٹ میں صرف ایک دفعہ کر لے ہیں اور اس کے 20 یا 25 آنے آپ اس کرتے ہیں تو ایک دفعہ کر لے ہیں تو یہ بھی ہے، لیکن دوسری طرف اگر آپ ایک منٹ میں 50 یا 60 دفعہ کرتے ہیں تو آپ کے لیے اچھا ہے لیکن یہ سب آپ پر تمہریں کہ آپ کمی ملت کرتے ہیں اور ایک منٹ میں کمی دفعہ کرتے ہیں۔

### اپ اپ

پہنچ اپ ایک بہترین اور معیاری ورزش ہے جس سے کہ آپ پہلے سے یہ واقع ہے۔

دولت بحث، خوشی 42 دنون کا عملی کورس

226

### 42 دن میں آپ کے لیے 10 سادہ اور آسان ورزشیں

اس پر گرام میں 10 ورزشیں موجود ہیں۔ یہ ورزشیں کرنے میں آپ کے تمام پہنچے استعمال ہوں گے۔ کچھ بھلوں پر خاص توجہ دی گئی ہے اور ایسا کیوں کیا گیا ہے میں آپ کو خضری پر بتانا ہوں۔ سب سے اہم باتیں یہ ہے کہ 20 منٹ ورزش کرنے سے آپ کے دل کی شریانوں کو بہت فائدہ پہنچے گا۔ آپ کے جسم میں خون کی گردش بہتر ہو جائے گی اور آپ کے جسم کے تمام عملات اس میں استعمال ہوں گے۔

آپ کو یہ ورزش کرنے کے لیے دن اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ آپ کو صرف اپنے ہی وزن کی ضرورت ہے۔

آپ یہ ورزش کرنے میں باکہنی بھی کر سکتے ہیں آپ نے ورزش نہ کرنے کے بہنے نہیں ذمہ دہرنے بلکہ باقاعدگی سے ورزش کرنی ہے۔

☆ ورزش کاروائی 20 منٹ ہے اور آپ کو ہر ورزش دو مرتبہ کرنی ہے اور یہ کوئی

DF By HAMEEDI  
ناول کیلئے وہ ارادہ گھر کا

اپنے اتحاد پے نہ ہوں کی سلچ پر لا کر زمین پر رکھیں پھر اپنی کمر کو سیدھا رکھیں، اپنی کہنیں کو سہاریں اور آپ کی ناک تقریباً زمین کوئی ہو۔ پھر اپنا جسم سیدھا کریں اور بھلی طرف دھلیں جب آپ پھیپھی کی طرف بھیں تو سائنس اندر کی طرف لے جائیں اور جب اوپ کی طرف جائیں تو اپنا سائنس باہر نکالیں۔

## 2- بیٹھنے کی پوزیشن میں جھکیں

آپ اپنی کمر سیدھی رکھیں اور بالکل سیدھا کھڑے ہوں، اپنے دونوں ہاتھ سامنے کی طرف پھیلا لیں سامنے کی طرف دیکھیں اور پھر اس طرح سے جھکیں جیسے کہ آپ کسی پر بیٹھتے ہیں۔ اس طرح بیٹھتے جائیں حتیٰ کہ آپ کی ناکیں زمین کی خوازی ہوں۔ اسی حالت کو ایک منٹ کے لیے قائم رکھیں اور پھر دوبارہ سیدھے کھڑے ہو جائیں جب آپ پھیپھی کی طرف بھیں تو سائنس اندر کی طرف لے جائیں اور جب آپ واقع کھڑے ہو رہے ہوں تو سائنس باہر نکالیں۔

مشکل کا تمثیل ہے۔

★ جب آپ ورزش شروع کریں گے تو آپ بہت جلدی اتنا کہتے ہیں یا جھک کتے ہیں۔ شاید شروع کے 20 سینٹ میں ہی آپ جھک جائیں۔ یہ کوئی فکر کی بات نہیں ہے آپ کی طاقت اور برداشت آہستہ آہستہ ہوتے ہیں۔

★ 42 دن کے اختتام تک آپ 20 منٹ کی ورزش بہت آسانی سے کر سکیں گے اور آپ اس سے زیادہ فائدہ اٹھا سکیں گے۔

## مثال کے لیے اپنی پہلی ورزش

پہلی ورزش الحکم بیٹھک ہے۔ آپ ایک منٹ میں بیٹھنے والے بھی جاہیں کر سکتے ہیں۔ اگر آپ آرام کرنا چاہیں تو آرام کر سکتے ہیں۔ اگر آپ پہلی مرتبہ یہ ورزش کر رہے ہیں تو آپ بھل کھنی ہی گئی پاٹی گے اور جھک جائیں گے۔ اس کے بعد آپ 10 سے 1 یا 2 یا 3 منٹ آرام کریں۔ پھر ایک منٹ تک ہونے سے پہلے دوبارہ الحکم بیٹھک کرنے کی کوشش کریں۔ اگر رفہ آپ بہت متعصب کر کے الحکم بیٹھک پہلے ایک منٹ میں 10 فھر اور پھر 5 دفعہ کرنے کی کوشش کریں۔ اس

## 7- اوپر کی طرف قدم اٹھائیں

اپنی گھر کی پیری صدیوں پر سیدھے کھڑے ہوں، اپنی دونوں ٹانکیں باری باری آگے کی طرف بڑھائیں ایک قدم اٹھائیں اور پھر دوپس لے آئیں۔

## 8- میل بنا کیں

پہن آپ کی حالت میں لیٹیں۔ لیکن آپ نے اپنے ہاتھ استعمال نہیں کرنے، اپنے پازوں کا اگلا حصہ اپنی چلی زمین پر رکھیں۔ پھر اپنے بازوؤں پر ورزش ڈالنے ہوئے اور کی طرف اٹھیں اور اسی حالت کو چھتی دری مکن ہو سکے برقرار رکھیں۔ ہر دفعہ اس ورزش کو ہوئے وقت بڑھائیں حتیٰ کہ آپ اسی حالت کو پورا ایک منٹ تک برقرار رکھنے کے قابل ہو جائیں۔

## 9- اپنی ٹانگوں کو اوپر کی سمت اٹھائیں

زمین پر سیدھے لیٹ جائیں اور اپنی دونوں ٹانگوں کو زمین سے 15 گھنٹے اوپر کی طرف اٹھائیں جب آپ ٹانگوں کو اٹھائیں تو پھر اپنی ٹانگوں کو پھیلائیں اور پھر دوبارہ سے اپنیں میں جوڑ دیں۔ اس ورزش کو آپ آرام کیے بغیر چھتی دفعہ ہر ایک سیکنڈ میں دھراتے جائیں۔

## 10- اپنی چھاتی کو اوپر اٹھائیں

زمین پر سیدھے لیٹ جائیں اور اپنے بازو باری باری طرف پھیلا لیں۔ پھر اپنے بازوں اور اپنے کندھوں کو سندھار کر زمین سے اوپر پاٹھائیں۔ آپ دیکھیں گے کہ شروع میں یہ ورزش آپ کے لیے قدرتے ہو گئی۔ آپ بازوں اور کندھوں کو زیادہ اور پھر اسیں اٹھائیں گے۔ لیکن آہستہ آہستہ آپ زیادہ بہتر ورزش کرنے لگتیں گے۔ یہ آپ کی کمر کے لیے اور آپ کے پہن کے پھون کے لیے بہت اچھی ورزش ہے اور یہ آہستہ آہستہ آپ کی طاقت اور برداشت میں بہت زیادہ اضافہ کر دے گی۔

جب آپ ان ورزشوں کو مکمل کر لیں گے، پھر آپ کو ہاتھ پہلے ٹپے گا کہ آپ کی طاقت اور

## 3- جسم کو آگے کی طرف جھکائیں

یہ ورزش آپ کے پہن کے پھون کے لیے بہت اچھی ہے۔ آپ سیدھے کھڑے ہو جائیں اور سامنے کی طرف ایک بڑا قدم اٹھائیں پھر آپ نے جو ناگہ آگے ہو جائی ہے اس کے چھتی پوچھ کی طرف جھکائیں اور جو ناگہ چھپے ہے اس کے چھتی پوچھ کی طرف زمین کی طرف جھکائیں۔ ایک سینٹ اسی حالت کو برقرار رکھیں اور پھر دوبارہ سیدھے کھڑے ہو جائیں۔ جب چھپے کی طرف بھیں تو سائنس اندر کی طرف لے جائیں اور جب واقع کھڑے ہوں تو سائنس باہر نکالیں۔

## 4- بازوؤں کے اوپر والے پھون کی ورزش

اپنے دونوں ہاتھوں کی چلی کو کری پر رکھیں اور اپنی دونوں ٹانگوں کو باری باری طرف کاٹیں۔ میر اپنی پشت کو زمین کی طرف جھکائیں۔ زمین پر لکھنے سے پہلے اپنی پشت کو دوبارہ سے اسی طرح واپس اپنی کوٹھائیں۔ چھپے جھکتے وقت سائنس اندر کی طرف لے جائیں اور اوپر والیں آتے وقت سائنس باہر کو کھالیں۔

## 5- ایڈیوں کو اوپر کی طرف اٹھائیں

آپ بیڑی چل کھڑے ہوں، ایک ہاتھ یعنی گی کے نہرے پر رکھیں اور پھر اپنی ایڈیاں زمین سے اوپر کی طرف اٹھائیں اور پاؤں کے اگلے چھپے پارے و زدن کو برقرار رکھیں اپنا تو ازان خراب شدہ نہ دیں۔ اپنی ایڈیاں چھتی بھی اپر اٹھائیں ہیں اٹھائیں اور پھر واپس زمین پر لے آئیں۔ اس ورزش کو چھتی سرچڑی بھی مکن ہو دھراتے جائیں۔

## 6- ڈنٹر/ڈنٹ

زمین پر سیدھے لیٹ جائیں اپنے دونوں ہاتھ اپنے سر کے چھپے رکھیں اور پھر اپنی کمر کو سامنے کی طرف اٹھائیں اور پیٹھ جائیں۔ جب آپ اوپر کی طرف اٹھیں تو سائنس باہر نکالیں اور جب واپس چھپے جائیں تو اندر کی طرف سائنس لیں۔

قوت برداشت میں اضافہ ہو رہا ہے۔ آپ ہمیشہ 20 منٹ کی ورزش کمک کر کے جھکن محسوس کریں گے اگر چہ آپ کی قوت برداشت اور سخت بڑھے گی۔ آپ اس ورزش کو اور زیادہ وقت بھی دے سکتے ہیں لیکن پھر کمی آپ ہمیشہ ورزش کر کے جھک جائیں گے۔

جب آپ 42 دن کے آخر میں دیکھیں گے کہ پہلے دن اور آخر دن میں آپ کی ورزش سختی بہتر ہو گئی ہے تو آپ کو ہاتھ چلے گا کہ آپ پہلے دن سے 100 فیصد بہتر ورزش کر لیے ہیں تو آپ کو بہت زیادہ خوشی ہو گی۔ مجھے یقین ہے کہ لوگ بھی آپ کے اندر ادائیج مدبلی محسوس کریں گے۔

## اب آپ کو کیا کرنا ہے؟

آپ نے 42 دن کمکل کر لیے ہیں اور آپ پہلے سے لائف انسان بن گئے ہیں۔ آپ

اپنے اندر کیا تبدیلی محسوس کر رہے ہیں؟ مجھے لفظیں ہے، پوری امید ہے کہ آپ نے اپنا وزن پہلے سے کم کر لیا ہے، آپ پہلے سے زیادہ صحت مند ہو گئے ہیں اور آپ پہلے سے زیادہ خوش ہیں اور آپ کی عزت نفس میں اضافہ ہو گیا ہے۔ اب آپ کی غذا کی عادات پہلے سے بہر گئی ہیں۔ اب آپ وقت کو بہتر طریقے سے تنظیم دے سکتے ہیں لیکن سب سے بڑھ کر جانتے ہے کہ آپ ایک منفرد انسان بنن گئے ہیں۔ آپ نے ہارنے کی سوچ زہن سے نکال دی ہے اور اس کی وجہ سب سوچ کو دے دی ہے۔ اب آپ اپنے جسم زہن اور روح پر زیادہ توجہ دے رہے ہیں اور آپ کے علم میں یہ بات آگئی ہے کہ یہ تمام ایک علیٰ نظام کا حصہ ہیں۔

اس چیخ کا مقصود یہ ہے کہ آپ اپنی زندگی کا کنٹرول سنبھالیں، آپ کا رویہ آپ کا سوچنے کا انداز اور آپ کے احساسات آپ کے اپنے بس میں ہیں۔ اب آپ یہ بات سمجھ گئے ہیں کہ آپ کی کامیابی آپ کے کامنے کا حصہ ہے۔  
بے شمار لوگ مجھے اس بارے میں خط لکھ کر بتاتے ہیں کہ اس چیخ سے ان کی زندگیوں میں کیا تبدیلیاں آئی ہیں۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ وہ سب لوگ یہ بات سمجھ گئے ہیں کہ وہ اپنی زندگیاں تبدیل کر سکتے ہیں۔ اب آپ غافل چیخ قول کر سکتے ہیں۔ اپنی خواہشات پوری کر سکتے ہیں۔ اب آپ کے لیے یہ بہت آسان ہو گیا ہے۔ اب اس چیخ کی وجہ سے آپ کی زندگی دوبارہ سے آپ کے بس میں آگئی ہے۔ آپ اپنی پسند کی زندگی گرا رکھتے ہیں جس میں آپ کو کوئی پچھتا دیا مانجوئی نہیں ہو گی۔